



قرآنی الفاظ کے مادے

﴿ جس میں تمام قرآنی الفاظ کے مادے (ROOTS) دیے گئے ہیں ﴾

www.KitaboSunnat.com

تالیف

پروفیسر مولانا محمد رفیق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

قرآنی الفاظ کے ماڈے

اس کے علاوہ تمام الفاظ کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے
اور افعال کے ابواب کی نشان دہی کی گئی ہے

پروفیسر مولانا محمد رفیق

مکتبہ قرآنیات لاہور



جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

234

اصحیہ - 9

قرآنی الفاظ کے مادے

نام کتاب:

پروفیسر مولانا محمد رفیق

ترتیب:

مکتبہ قرآنیات، یوسف مارکیٹ، غزنی سٹریٹ،

ناشر:

اردو بازار لاہور۔ پاکستان

0321-7724032

0333-4399812

فون: 5811297، موبائل:

حافظ تقی الدین

اہتمام:

اکتوبر 2009ء

سن اشاعت:

ملنے کے پتے

مکتبہ قرآنیات، یوسف مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور

1- کتاب سرائے، الحمد مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور

2- کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار، راولپنڈی

LIBRARY

Unhore

Book No.

Islamic

001101

University

فہرست

Anbar Block, Garden Town, Lahore

دیباچہ

7

اشارات و محذوفات

9

☆ ا

52

☆ ب

56

☆ ت

88

☆ ث

89

☆ ج

92

☆ ح

96

☆ خ

99

☆ د

101

☆ ذ

102

☆ ر

105

☆ ز

107

☆ س

112

☆ ش

114

☆ ص


116

☆ ض

117

☆ ط

- 118 ☆ ظ ☆
- 119 ☆ ع ☆
- 124 ☆ غ ☆
- 125 ☆ ف ☆
- 128 ☆ ق ☆
- 133 ☆ ک ☆
- 137 ☆ ل ☆
- 138 ☆ م ☆
- 159 ☆ ن ☆
- 170 ☆ و ☆
- 172 ☆ ہ ☆
- 173 ☆ ی ☆



دیباچہ

قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی نہایت جامع اور فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اس کا وسیع ذخیرہ الفاظ ہے اور اس میں نئے الفاظ بنانے (Coin) کا باقاعدہ نظام موجود ہے۔ اس کے ہر اسم اور فعل کا عام طور پر ایک مادہ (Root) ہوتا ہے جس میں اس کے بنیادی معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے بنیادی معنی معلوم ہوں تو اس سے بننے والے تمام اسماء، افعال اور مشتقات کا مطلب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔

مثال کے طور پر لفظ کتّاب کو لیتے۔ اس کا مادہ (Root) یہ ہے: ک ت ب۔ اس مادے کے بنیادی معنی لکھنے کے ہیں اور اس سے بننے والے الفاظ جیسے کتّاب (لکھنے والا)، کتّابۃ (لکھنا)، مکتوب (لکھا گیا۔ خط) وغیرہ ہیں اور ان سب میں لکھنے کا مفہوم کسی نہ کسی طرح شامل ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں کل الفاظ کی تعداد (Vocabulary) صرف چھ ہزار سے کچھ اوپر ہے۔ ان میں بھی بنیادی الفاظ صرف دو ہزار کے لگ بھگ ہیں۔ جو مختلف صیغوں (Forms) میں آتے ہیں، جیسے:

أَمَنَ، يُؤْمِنُ، يُؤْمِنُونَ، تَوَمَّنُونَ، أَمَّنْتُ، أَمَّنَّا، مُؤْمِنٌ، مُؤْمِنُونَ، مُؤْمِنِينَ، مُؤْمِنَاتٌ وغیرہ سب اِئْمَانٌ مصدر سے بنے ہیں جس کا مادہ (Root) ءم ن ہے۔ اب اگر کوئی شخص اِئْمَانٌ کے معنی سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس سے بننے والے تمام الفاظ کے معنی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ گویا اگر صرف دو ہزار بنیادی قرآنی الفاظ کے معانی اُن کے مادوں (Roots) کے لحاظ سے سمجھ لیے جائیں تو پورے قرآن کے تمام الفاظ کے معانی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔

الحمد للہ، آج کل قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کا شوق مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی بڑھ رہا ہے اور ان کی رہنمائی کے لیے قرآن فہمی کو آسان بنانے کے وسائل اور معاونات بھی فراہم ہو رہے ہیں۔ یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ چونکہ بازار میں ایسی کوئی کتاب موجود نہ تھی جس میں تمام قرآنی الفاظ کے مادے لکھے گئے ہوں، اس لیے ایسی کتاب لکھنے کی ضرورت تھی جو طلبہ و طالبات کی معاون ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب یہ کتاب بھی میری اُن تالیفات میں شامل ہو گئی ہے جو میں نے قرآن فہمی کی تسہیل کے حوالے سے مرتب کی ہیں، جیسے:

- 1- آسانی قرآنی عربی
- 2- آسان علوم قرآن
- 3- الفوز الکبیر (اُردو ترجمہ)
- 4- قرآن کے دامن میں
- 5- آسان ترجمہ قرآن
- 6- لغات القرآن ترتیبی (زیر طبع)
- 7- قرآنی ڈکشنری (عربی، اُردو، انگلش) [زیر طبع]
- 8- قرآن سے ایک انٹرویو

زیر نظر کتاب میں درج ذیل چند امور پیش نظر رکھے گئے ہیں:

- 1- جو الفاظ قرآن مجید میں توین کی مختلف حالتوں میں آئے ہیں اُن کو کسی ایک توین کے ساتھ لکھا کر اُن کے مادے بیان کیے گئے ہیں جیسے كِتَابٌ، كِتَابًا، كِتَابٍ کو صرف كِتَابٌ لکھ کر اس کا مادہ دے دیا گیا ہے۔
- 2- فعل ماضی مطلق کے ایسے تین حرنی (ثلاثی مجرد) افعال نہیں دیے گئے جو صحیح ہوں اور اُن میں کوئی حرف علت (ء، و، ی) نہ آیا ہو۔ جیسے صَرَبَ، صَرَبًا، صَرَبُوا..... کیونکہ یہ عام فہم اور واضح تھے۔ البتہ حروف علت والے افعال کے مادے ضرور دیے گئے ہیں۔
- 3- اکثر اعلام الفاظ نہیں دیے گئے کیوں کہ وہ تولفت میں حروف جمعی کے ذریعے معلوم کیے جاسکتے ہیں اور ان کے مادے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیسے؛ یعقوب، مریم، اسماعیل علیہم السلام وغیرہ۔
- 4- وہ الفاظ جن کے شروع میں کوئی حرف (جار وغیرہ) آ گیا ہے اُن کو بغیر حرف کے لکھ کر اُن کا مادہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے لِيَكُوْنُوْا كُوْنُوْا اور لَتَرْكَبُنَّ كَتَبُنَّ لکھا گیا ہے۔
- 5- چونکہ حروف اور ضمائر کے مادے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے وہ نہیں لکھے گئے۔
- 6- اس کتاب کے پہلے ایڈیشن میں صرف قرآنی الفاظ اور اُن کے مادے (Roots) دیے گئے ہیں لیکن موجودہ اضافہ شدہ ایڈیشن میں تمام الفاظ کے اُردو ترجمے کے علاوہ افعال کے ایجاب کی نشان دہی بھی کر دی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ میری اس حقیر خدمت کو قبول فرمائے اور اس کو قرآن مجید کے شائقین کے لیے مفید اور نافع بنائے۔ آمین

والسلام

محمد رفیق

لاہور

3- اکتوبر 2008ء

بمطابق 3 شوال 1429ھ

☆.....☆.....☆

اشارات و مخزوفات (ABBREVIATIONS)

اس کتاب میں درج ذیل رموز اور مخزوفات (Abbreviations) استعمال کیے گئے ہیں:

- 1- ثلاثی مجرد کے افعال (Verbs) کے ابواب کو اس طرح ظاہر کیا گیا ہے:
 - باب ضَرْبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا کے لیے (ض) کی علامت استعمال کی گئی ہے۔
 - باب سَمِعَ يَسْمَعُ سَمْعًا کے لیے (س) کی علامت استعمال کی گئی ہے۔
 - باب فَتَحَ يَفْتَحُ فَتْحًا کے لیے (ف) کی علامت استعمال کی گئی ہے۔
 - باب نَصَرَ يَنْصُرُ نَصْرًا کے لیے (ن) کی علامت استعمال کی گئی ہے۔
 - باب كَرَّمَ يَكْرُمُ كَرْمًا کے لیے (ک) کی علامت استعمال کی گئی ہے۔
 - باب حَسِبَ يَحْسِبُ حَسِبًا کے لیے (ح) کی علامت استعمال کی گئی ہے۔
- 2- ثلاثی مزید فیہ، رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہ کے افعال کے ابواب کو درج ذیل نمبروں سے ظاہر کیا گیا ہے:
 - باب أَفْعَلُ يُفْعَلُ أَفْعَالُ کی نشان دہی (1) سے کی گئی ہے۔
 - باب فَعَّلَ يُفَعِّلُ تَفْعِيلُ کی نشان دہی (2) سے کی گئی ہے۔
 - باب فَاعِلٌ يُفَاعِلُ مُفَاعَلَةٌ کی نشان دہی (3) سے کی گئی ہے۔
 - باب تَفَعَّلَ يَتَفَعَّلُ تَفَعُّلٌ کی نشان دہی (4) سے کی گئی ہے۔
 - باب تَفَاعَلَ يَتَفَاعَلُ تَفَاعُلٌ کی نشان دہی (5) سے کی گئی ہے۔
 - باب اِنْفَعَلَ يَنْفَعِلُ اِنْفِعَالٌ کی نشان دہی (6) سے کی گئی ہے۔

باب اِفْتَعَلَ يَفْتَعِلُ اِفْتَعَالٌ کی نشان دہی (7) سے کی گئی ہے۔

باب اِفْعَلَّ يَفْعَلُّ اِفْعِلَالٌ کی نشان دہی (8) سے کی گئی ہے۔

باب اِسْتَفْعَلَ يَسْتَفْعِلُ اِسْتِفْعَالٌ کی نشان دہی (9) سے کی گئی ہے۔

باب فَعْلَلَّ يَفْعَلِّلُ فَعْلَلَّةٌ کی نشان دہی (10) سے کی گئی ہے۔

باب اِفْعَلَّلَّ يَفْعَلِّلُّ اِفْعِلَالٌ کی نشان دہی (11) سے کی گئی ہے۔

نوٹ: مذکورہ بالا افعال کے ابواب کے سوا عربی زبان کا کوئی اور باب قرآن مجید میں

استعمال نہیں ہوا۔

☆.....☆.....☆

باب الحزرة

اِحْذَ= (عخ ذ) لینے/پکڑنے والا	اَبَاءٌ= (اب و) باپ دادا
اِحْذِينَ= (عخ ذ) (ن) لینے والے	اَبٍ= (عت ی) (1) تو دے
اِحْذِيْهِ= (عخ ذ) (ن) لینے/پکڑنے والے	اَبٍ= (عت ی) آنے والا
اَسَ=	اَتَى= (عت ی) (1) اس نے دیا
اِخْوَرٌ= (عخ ر) دوسرا	اَتَتْ= (عت ی) (1) اس عورت نے دیا
اِخْوِرٌ= (عخ ر) آخری	اَتُوا= (عت ی) (1) وہ لائے
اِخْوَرٌ= (عخ ر) دو دوسرے	اَتُوا= (عت ی) (1) تم لاؤ تم دو
اِخْوَرَةٌ= (عخ ر) آخرت	اَتَى= (عت ی) (1) میں لاؤں، لانے والا
اِخْوَرُونَ= (عخ ر) دوسرے لوگ	اَتَيْتُ= (عت ی) (1) تو نے دیا
اِخْوِرِينَ= (عخ ر) دوسرے لوگ	اَتِيَةٌ= (عت ی) آنے والی
اِخْوِرِينَ= (عخ ر) آخری لوگ	اَتَيْتُ= (عت ی) (1) میں نے دیا
اِدْمٌ= (عد م) آدم علیہ السلام	اَتَيْتُمْ= (عت ی) (1) تم نے دیا
اِذَانٌ= (عذن) اذان - اعلان	اَتَيْتُمُوْا= (عت ی) (1) تم نے دیا
اِذْنٌ= (عذن) (1) میں حکم دوں میں اجازت	اَتَيْنَ= (عت ی) (1) تم (عورتیں) دیا کرو
دوں	اَتَيْنَا= (عت ی) (1) ہم لائے۔ ہم نے دیا
اِذْنَكَ= (عذن) (1) ہم نے عرض کیا تجھ	اَتَيْنَهُمْ= (عت ی) (1) میں اُن کے پاس
سے	ضرور آؤں گا
اِذْنَتُكُمْ= (عذن) (1) میں نے تمہیں آگاہ	اَثَارٌ= (عث ر) نشانات۔ یادگاریں
کردیا	اَثَرٌ= (عث ر) (1) اس نے ترجیح/رضیلت دی
اِذْوًا= (عذ ی) (1) انہوں نے ستایا	اِثْمٌ= (عث م) گناہ گار
اِذْوًا= (عذ ی) (1) تم ستاؤ	اِثْمِينَ= (عث م) گناہ گار لوگ
اِذْيْتُمُوْنَا= (عذ ی) (1) تم نے اذیت دی ہم کو	

اِبْتَعُوا = (ب غ ی) (7) تم تلاش کروں
 اِبْتَعِي = (ب غ ی) (7) میں تلاش کروں
 اِبْتَعَيْتَ = (ب غ ی) (7) تو نے چاہا
 اِبْتَلَى = (ب ل و) (7) اُس نے آزمایا؟
 اِبْتَلُوا = (ب ل و) (7) تم آزماؤ اور جانچو؟
 اِبْتَلَى = (ب ل و) (7) وہ آزمایا گیا
 اَبْحَرُ = (ب ح ر) سمندر (جمع)
 اَبْدَلُ = (ب د ل) (2) میں بدل دوں
 اَبْرَارٍ = (ب ر ر) نیک لوگ
 اَبْرَحُ = (ب ر ح) (ف) میں نہ ہٹوں گا
 اَبْرَصُ = (ب ر ص) کوڑھی
 اَبْرُمُوا = (ب ر م) (1) انہوں نے طے کیا
 اَبْرِي = (ب ر ی) (1) میں اچھا کرتا ہوں
 اَبْرِي = (ب ر ی) (2) میں بری/پاک کرتا ہوں
 اَبْسَلُوا = (ب س ل) (1) وہ جھلا ہوئے
 اَبْشَرُوا = (ب ش ر) (1) تم خوش رہو
 اَبْصَارُ = (ب ص ر) آنکھیں
 اَبْصَرَ = (ب ص ر) (1) اُس نے دیکھا
 اَبْصِرُ = (ب ص ر) (1) تو دیکھ۔ تو دکھا
 اَبْصَرْنَا = (ب ص ر) (1) ہم نے دیکھا

اَوَى = (ء و ی) (1) اُس نے جگہ دی
 اَوُوا = (ء و ی) (1) انہوں نے جگہ دی
 اَوَى = (ء و ی) میں پناہ لوں گا
 اَوَيْنَهُمَا = (ء و ی) (1) ہم نے دونوں کو ٹھکانا دیا
 اَيِّتَ = (ء ی ء) آیتیں۔ نشانیاں
 اَيَّةٌ = (ء ی ء) نشانی۔ آیت
 اَيَّتَيْنِ = (ء ی ء) دو نشانیاں

ع ب

اَبَا = (ء ب و) باپ
 اَبَا = (ء ب ب) گھاس۔ چارہ
 اَبَى = (ء ب ی) (ف ض) اُس نے انکار کیا
 اَبَابِيلُ = (ء ب ل) جھنڈ کے جھنڈ
 اَبَارِيقُ = (ب ر ق) لوٹے۔ جگ
 اَبَاتٍ = (ء ب و) میرے ابا جان
 اِبْتَدَعُوْهَا = (ب د ع) (7) انہوں نے خود گھڑ لیا اُس کو
 اِبْتَرُ = (ب ت ر) بے اولاد
 اِبْتَعُ = (ب غ ی) (7) تو تلاش کر
 اِبْتَعِي = (ب غ ی) (7) اُس نے تلاش کیا
 اِبْتِغَاءٌ = (ب غ ی) (7) چاہنا۔ تلاش کرنا
 اِبْتَعُوا = (ب غ ی) (7) انہوں نے تلاش کیا

أَبِيٌّ = (ب ع ث) = میرا باپ

أَبْيَضٌ = (ب ی ض) = سفید

أَبْيَضْتُ = (ب ی ض) (8) وہ سفید ہو گئیں

أَبْيَنُ = (ب ی ن) (ف-ض) انہوں نے

انکار کیا

أَبِينُ = (ب ی ن) (2) میں بیان کرو

ءت

أَتَى = (ء ت ی) (ض) وہ آیا

أَتَانِيُونٌ = (ت و ب) تو یہ کرنے والے

إِتْبَاعٌ = (ت ب ع) اتباع - پیروی

أَتَّبِعُ = (ت ب ع) (1) وہ پیچھے لگا

أَتَّبِعُ = (ت ب ع) (7) میں پیروی کرتا ہوں

أَتَّبِعُ = (ت ب ع) (7) تو پیروی کر

أَتَّبِعُ = (ت ب ع) (7) اُس نے پیروی کی

أَتَّبَعْتُ = (ت ب ع) (7) تو نے پیروی کی

أَتَّبَعْتُ = (ت ب ع) (7) میں نے پیروی

کی

أَتَّبَعْتُمْ = (ت ب ع) (7) تم نے پیروی کی

أَتَّبَعْتُهُمْ = (ت ب ع) (7) اُس (عورت)

لے اُن کی پیروی کی

أَتَّبَعْنَا = (ت ب ع) (7) ہم نے پیروی کی

أَتَّبَعْنَاهُمْ = (ت ب ع) (1) ہم نے اُن کے

أَبْعَثُ = (ب ع ث) (ف) تو بھیج مقرر کر

أَبْعَثُ = (ب ع ث) (ف) میں اُٹھایا جاؤں گا

أَبْعَثُوا = (ب ع ث) (ف) تم بھیجو

أَبْعَى = (ب ع ی) (ض) میں تلاش کرو

أَبْقَى = (ب ق ی) (1) بہت باقی رہنے والا

أَبْقَى = (ب ق ی) (1) اُس نے باقی رکھا

أَبْكِي = (ب ک ی) (1) وہ رلاتا ہے

أَبْكَارًا = (ب ک ر) کنواریاں

أَبْكَارٌ = (ب ک ر) صبح کا وقت

أَبْكُمْ = (ب ک م) گوٹکا

أَبْلَعِي = (ب ل ع) (ف) تو نگل جا

أَبْلَغُ = (ب ل غ) (ن) میں پہنچ جاؤں

أَبْلَغْتُ = (ب ل غ) (1) میں نے پہنچایا

أَبْلَغُ = (ب ل غ) (2) میں تبلیغ کرتا ہوں

أَبْلَغُوا = (ب ل غ) (1) انہوں نے پہنچایا

أَبْلَغُهُ = (ب ل غ) (1) تو اس کو پہنچا دے

أَبْلِسُ = (ب ل س) ابلیس - شیطان

أَبْنٌ = (ب ن و) بیٹا

أَبْنُوا = (ب ن و) (ض) تم بناؤ

أَبْوَا = (ب ئ ی) (ف-ض) انہوں نے انکار

کیا

أَبْوَابٌ = (ب و ب) دروازے

پیچھے لگا دیا

پیروی کی

گیا

گئی

پیچھے لگے

کروں گا

آتے = (مت ی) (ض) وہ آئی

اتَّخَذُوا كُمْ = (ع خ ز) (ن) لینا رکھنا تمہارا

اتَّخَذُوا = (ع خ ز) (ن) میں بناتا ہوں

اتَّخَذُوا = (ع خ ز) (ن) میں نے بنایا

اتَّخَذُوا = (ع خ ز) (ن) اُس نے بنایا

اتَّخَذْتُ = (ع خ ز) (ن) اُس نے بنایا (مونث)

اتَّخَذْتُ = (ع خ ز) (ن) تو نے بنایا

اتَّخَذْتُ = (ع خ ز) میں نے بنایا

اتَّخَذْتُمْ = (ع خ ز) (ن) کیا تم نے اختیار کیا

اتَّخَذْتُمْ = (ع خ ز) (ن) تم نے بنایا

اتَّخَذْنَ = (ع خ ز) (ن) میں ضرور بناؤں گا

اتَّخَذْنَا = (ع خ ز) (ن) ہم نے بنایا اختیار

کیا

اتَّخَذُوا = (ع خ ز) (ن) انہوں نے لیا

اختیار کیا

اتَّخَذُوا = (ع خ ز) (ن) تم بناؤ اختیار کرو

اتَّخَذُوا = (ع خ ز) (ن) تو اس کو اختیار کر

اتَّخَذِي = (ع خ ز) (ن) تو (عورت) لے

رکھو

اتَّابَ = (ت رب) ہم عمر عورتیں

اتَّرفُتُمْ = (ت رف) (1) تم کو خوشحالی دی گئی

اتَّرفْنَا = (ت رف) (1) ہم نے اُن کو خوشحالی دی

اتَّرفُوا = (ت رف) (1) اُن کو خوشحالی دی گئی

اتَّركَ = (ت رك) (ن) تو چھوڑ

اتَّسَّقَ = (و س ق) (7) وہ پورا ہو گیا

اتَّقَى = (و ق ی) (7) تو ڈر

اتَّقَى = (و ق ی) بڑا پرہیزگار

اتَّقَى = (و ق ی) (7) وہ ڈرا

اتَّقَنَ = (ت ق ن) (1) اُس نے مضبوط بنایا

اتَّقُوا = (و ق ی) (7) وہ ڈرے

اتَّقُوا = (و ق ی) (7) تم ڈرو

اتَّقَيْنَنَّ = (و ق ی) (7) تم (عورتیں) پرہیزگار بنو

اَنَّاثًا = (ع ٨٣ ث) گھریلو سامان

اَنَّاوًا = (ث و ر) (1) اُنہوں نے نشان

چھوڑا

اَثَرِيَّةٌ = (ع ٨٣ ر) نشان - نقل - بقیہ علم

اِنَّا قَلْتُمْ = (ث ق ل) (3) تم جو جھل ہو گئے

اُنْبِتُوا = (ث ب ت) (ن) تم ثابت قدم

رہو

اَنفَحْتُمُوهُمْ = (ش خ ن) (1) تم نے اُن

کو خوب قتل کیا

اَنرُنْ = (ث و ر) (1) اُنہوں (موت) نے

اُٹھایا

اَنرِي = (ع ٨٣ ر) میرے پیچھے

اَنقَالًا = (ث ق ل) (بوجھ) (جمع)

اَنقَلْتُمْ = (ث ق ل) (1) وہ بھاری ہوئی

اَنلٍ = (ث ق ل) جھاؤ کا پودا

اَنمٌ = (ع ٨٣ م) گناہ

اَنمَرَ = (ث م ر) (1) وہ پھل لایا بار بار اور

ہوا

اِنْنَانٍ = (ث ن ی) دو

اَنِيمًا = (ع ٨٣ م) گناہ گار

ع ج

اُجَّاجٌ = (ع ج ج) کڑوا تلخ

اِنَّقِيْنَ = (وق ی) (7) ڈرتی رہو

اَنلٌ = (ت ل و) (ن) تو تلاوت کرو

اَنلُوا = (ت ل و) (ن) میں تلاوت کروں

اَنلُوا = (ت ل و) (ن) میں تلاوت کرو

اَنمٌ = (ت م م) (1) میں پورا کروں

اَنمٌ = (ت م م) (1) تو پورا کرو

اَنمَّتْ = (ت م م) (1) تو نے پورا کیا

اَنمَّتْ = (ت م م) (1) میں نے پورا کیا

اَنمَّنَا = (ت م م) (1) ہم نے پورا کیا

اَنمُوا = (ت م م) (1) تم پورا کرو

اَنمٌ = (ت م م) (1) اُس نے پورا کیا

اَنُوا = (ع ت ی) (ض) وہ آئے

اَنُوا = (ع ت ی) (ض) وہ لائے گئے

اَنوَبٌ = (ت و ب) (ن) میں توبہ رجوع کرتا

ہوں

اَنوَكُوا = (و ک ء) (4) میں ٹیک لگاتا ہوں

اَنِيَا = (ع ت ی) (ض) وہ دونوں آئے

اَنِيَّتْ = (ع ت ی) (ض) تو آیا یا لایا

اَنِيْنَ = (ع ت ی) (ض) وہ آئیں

اَنِيْنَا = (ع ت ی) (ض) ہم آئے رلائے

ع ث

اِنَابٌ = (ث و ب) (1) اُس نے بدل دیا

أَجْرُمُوا = (ج ر م) (1) انہوں نے جرم

گناہ کیا

أَجْرُوهُ = (ج و ر) (ن) تو ملازم رکھ لے اس کو

أَجْسَامُ = (ج س م) جسم (جمع)

أَجْعَلُ = (ج ع ل) (ف) میں بناؤں

أَجْعَلُ = (ج ع ل) (ف) تو بنا

ع

أَجْعَلَنَّكَ = (ج ع ل) (ف) میں ضرور

تجھے بناؤں گا

أَجْعَلُوا = (ج ع ل) (ف) تم بناؤ

أَجَلٌ = (ع ج ل) وجہ۔ سبب

أَجَلٌ = (ع ج ل) مدت۔ وقت

أَجْلِبُ = (ج ل ب) (1) تو کھینچ۔ تو جمع کر

لے

أَجَلَّتْ = (ع ج ل) (2) تو نے وقت مقرر

کیا

أَجَلَّتْ = (ع ج ل) وقت مقرر کیا گیا

أَجِلِدُوا = (ج ل د) (ض) تم کوڑے مارو

أَجْمَعُوا = (ج م ع) (1) انہوں نے

اتفاق کر لیا

أَجْمَعُوا = (ج م ع) (1) تم جمع کرو

أَجْمَعُونَ = (ج م ع) وہ سب

أَجَاءَ = (ج ی ا) وہ لے آیا

أَجَبْتُمْ = (ج و ب) (1) تم نے جواب دیا

أَجَبْتُمْ = (ج و ب) (1) تمہیں جواب دیا گیا

أَجْتَبِكُمْ = (ج ب ی) (7) اُس نے چن لیا تم

کو

أَجْتَبَيْتَهَا = (ج ب ی) (7) تو نے چن لیا

أَجْتَبَيْنَا = (ج ب ی) (7) ہم نے چن لیا

أُجِشَّتْ = (ج ش ث) (7) وہ اکھاڑی

نکالی گئی

أَجْتَرَحُوا = (ج ر ح) (7) انہوں نے

ارتکاب کیا رکمایا

أَجْتَمَعَتْ = (ج م ع) (7) وہ جمع ہوئی

أَجْتَمَعُوا = (ج م ع) (7) وہ جمع ہوئے

أَجْتَبُوا = (ج ن ب) (7) وہ بچے

أَجْتَبُوا = (ج ن ب) (7) تم بچو

أَجِدُّ = (و ج د) (ض۔ ح) میں پاتا ہوں

أَجْدَاثٌ = (ج د ث) قبریں

أَجْدَرُ = (ج و ر) زیادہ مناسب رموزوں

أَجْدَنُ = (و ج د) (ض) میں ضرور پاؤں گا

أَجْرٌ = (ع ج ر) مزدوری۔ بدلہ

أَجْرَامِيٌّ = (ج ر م) جرم گناہ میرا

أَجْرَمْنَا = (ج ر م) (1) ہم نے جرم گناہ کیا

أَحْبَبْتُ = (ح ب ب) (1) میں نے پسند کیا

أَحْبَطُ = (ح ب ط) (1) اُس نے ضائع کر

دیا

أَحْتَرَقْتُ = (ح ر ق) (7) وہ جل گئی

أَحْتَمَلُ = (ح م ل) (7) اُس نے اٹھایا

أَحْتَمَلُوا = (ح م ل) (7) انہوں نے

اٹھایا

أَحْتَنَبْتُ = (ح ن ك) (7) میں ضرور

بہکاؤں گا

أَحَدٌ = (ء ح د) ایک

أَحَدٌ = (ح د ث) (1) میں ذکر کروں گا

أَحْذَرُوا = (ح ذ ر) (س) تم بچو

أَحْذَرُ = (ح ذ ر) (س) تو بچ

أَحْرَصُ = (ح ر ص) بڑا حرص رلا لپی

أَحْزَابٌ = (ح ز ب) گروہ۔ جماعتیں

أَحْسَسُ = (ح س س) (1) اُس نے محسوس

کیا

أَحْسَانٌ = (ح س ن) نیکی کرنا

أَحْسَنُ = (ح س ن) بہت اچھا

أَحْسِنُ = (ح س ن) (1) تو نیکی کر

أَحْسَنْتُمْ = (ح س ن) (1) تم نے نیکی کی

أَحْسَنُوا = (ح س ن) (1) انہوں نے نیکی کی

أَجْمَعِينَ = (ج م ع) وہ سب

أَجْبُنِي = (ج ن ب) (ن) تو مجھے دور رکھ

أَجْنَةٌ = (ج ن ن) جنین (جمع) پیٹ میں بچہ

أَجْنَحُ = (ج ن ح) (ف) تو جھک جا

أَجْنَحَةٌ = (ج ن ح) پر۔ بازو (جمع)

أَجُوزٌ = (ء ج ر) بدلہ (جمع)

أَجْهَرُوا = (ج ه ر) (ف) تم پکار کر کہو

أَجِيبُ = (ج و ب) (1) میں قبول کرتا

ہوں

أَجِيبْتُ = (ج و ب) (1) وہ قبول کی گئی

أَجِيبُوا = (ج و ب) (1) تم جواب دو

قبول کرو

أَحَادِيثٌ = (ح د ث) باتیں۔ قصے

أَحَاطُ = (ح و ط) (1) اُس نے احاطہ کر لیا

أَحَاطْتُ = (ح و ط) (1) اُس (مونث) نے

احاطہ کر لیا

أَحَبُّ = (ح ب ب) بہت پیارا

أَحَبُّ = (ح ب ب) بہت محبوب

أُحِبُّ = (ح ب ب) (1) میں محبت کرتا ہوں

أَحْبَارٌ = (ح ب ر) یہودیوں کے علماء

أَحْبَاءُ = (ح ب ب) اُس کے پیارے

أَحْبَبْتُ = (ح ب ب) (1) تو نے پسند کیا

أَحَقُّ = (ح ق ق) زیادہ حق دار	أَحْسِنُوا = (ح س ن) تم احسان کرو
أَحْقَابًا = (ح ق ب) بے انتہا زمانے	أَحْسُوا = (ح س س) (1) انہوں نے
أَحْقَافٌ = (ح ق ف) ریت کے بلند ٹیلے۔	محموس کیا
قوم عا د کا علاقہ	أُحْشِرُوا = (ح ش ر) (ن) تم جمع کرو
أَحْكُمٌ = (ح ك م) بہتر فیصلہ کرنے والا	أَحْضَى = (ح ص ر) (1) اُس نے گن لیا
أَحْكُمٌ = (ح ك م) میں حکم دوں گا	أُحْصِرْتُمْ = (ح ص ر) (1) تم محاصرہ کیے
أَحْكُمٌ = (ح ك م) تو حکم دے / فیصلہ کر	گئے۔ تم روکے گئے
أُحْكِمْتُ = (ح ك م) (1) مضبوط کی گئی	أُحْصِرُوا = (ح ص ر) (1) وہ روکے گئے
أَحْلٌ = (ح ل ل) (1) اُس نے حلال کیا	أُحْضِرُوا = (ح ص ر) (ن - ض) اُن کو
أَحْلٌ = (ح ل ل) (1) میں حلال کروں	روکو / قید کرو
أَحْلَامٌ = (ح ل م) خواب۔ خیالات۔ عقلیں	أُحْصِنٌ = (ح ص ن) (1) وہ نکاح میں
أَحْلَتْ = (ح ل ل) (1) وہ حلال کی گئی	لائی گئیں
أَحْلُلٌ = (ح ل ل) (ن) تو کھول دے	أُحْصِنْتُ = (ح ص ن) (1) اُس (عورت)
أَحْلَلْنَا = (ح ل ل) (1) ہم نے حلال کر دیا	نے پاکدامنی اختیار کی
أَحْلَلْنَا = (ح ل ل) (1) اُس نے ہمیں اُتارا	أُحْضُوا = (ح ص ی) (1) تم گنور یا درکھو
أَحْلُوا = (ح ل ل) (1) انہوں نے اُتارا	أُحْصِينَا = (ح ص ی) (1) ہم نے شمار کر لیا
أَحْمَالٌ = (ح م ل) بوجھ۔ حمل (جمع)	أُحْضِرْتُ = (ح ض ر) (1) اُس نے
أَحْمَدٌ = (ح م د) حضرت محمد ﷺ کا نام	حاضر کیا / روہ لائی
أَحْمِلُ = (ح م ل) (ض) تو اٹھا	أُحْضِرْتُ = (ح ض ر) (1) وہ حاضر کی گئی
أَحْمِلُ = (ح م ل) (ض) میں اٹھاتا ہوں	أَحْطُتُ = (ح و ط) (1) میں نے احاطہ کیا
أَحْوَى = (ح و ی) گہرا سیاہ	أَحْطْنَا = (ح و ط) (1) ہم نے احاطہ کیا
أَحْيَا = (ح ی ی) (1) وہ زندہ کرتا ہے	أُحْفَظُوا = (ح ف ظ) (س) تم حفاظت کرو

باری باری آنا۔ مختلف ہونا

اِخْتِلَافٌ = (خ ل ق) (7) گھڑی ہوئی

چیز۔ بہتان

اِخْتَلَطَ = (خ ل ط) (7) وہ رل مل گیا

اِخْتَلَفَ = (خ ل ف) (7) اُس نے

اختلاف کیا

اِخْتَلَفَ = (خ ل ف) (7) اختلاف کیا گیا

اِخْتَلَفْتُمْ = (خ ل ف) (7) تم نے

اختلاف کیا

اِخْتَلَفُوا = (خ ل ف) (7) انہوں نے

اختلاف کیا

أَخَذَانُ = (خ ذ ن) آشنا (جمع)

أَخَذُودٌ = (خ ذ و د) خندق۔ کھائی

أَخَذْتُ = (خ ذ ن) میں نے پکڑا

أَخَذَةٌ = (خ ذ ن) پکڑ۔ گرفت

أَخَذُوا = (خ ذ ن) وہ پکڑے گئے

أَخْرَجْتُ = (خ ر ج) دوسری دوسرے (جمع)

أَخْرَجْتُ = (خ ر ج) (2) اس نے دیر کی۔ پیچھے

چھوڑا

أَخْرَجُوا = (خ ر ج) نکالنا

أَخْرَجْتُ = (خ ر ج) دوسری

أَخْرَجْتُ = (خ ر ج) (2) اس مونٹ نے دیر

أَحْيَى = (ح ی ی) (1) میں زندہ کرتا ہوں

أَحْيَاءٌ = (ح ی ی) زندہ لوگ

أَحْيَطٌ = (ح و ط) (1) اُسے گھیر لیا گیا

أَحْيَيْنَا = (ح ی ی) (1) تو نے ہم کو زندہ

کیا

أَحْيَيْنَا = (ح ی ی) (1) ہم نے زندہ کیا

ع

أَخٌ = (ء خ و) بھائی

أَخَافٌ = (خ و ف) (س) میں ڈرتا ہوں

أَخَالِفُكُمْ = (خ ل ف) (3) میں تمہاری

مخالفت کروں

أَخْبَارٌ = (خ ب ر) خبریں

أَخْبَتُوا = (خ ب ت) (1) انہوں نے عاجزی

کی

أَخْتُ = (ء خ و) بہن

أَخْتَارٌ = (خ ی ر) (7) اس نے چن لیا

أَخْتَرْتُكَ = (خ ی ر) (7) میں نے تجھے

چن لیا

أَخْتَرْنَا = (خ ی ر) ہم نے چن لیا

أَخْتَصَمُوا = (خ ص م) (7) انہوں نے

جھگڑا کیا

اِخْتِلَافٌ = (خ ل ف) (7) اختلاف

خالص کر لیا

أَخْلَصُوا = (خ ل ص) (1) انہوں نے خالص

کیا

إِخْلَعُ = (خ ل ع) (ف) تو اتار

أَخْلَفْتُمْ = (خ ل ف) (1) تم نے خلاف کیا

أَخْلَفْتُ = (خ ل ف) (1) میں نے وعدہ

خلانی کی

أَخْلَفْنَا = (خ ل ف) (1) ہم نے وعدہ خلانی

کی

أَخْلَفْنِي = (خ ل ف) (ن) تو میرا خلیفہ رہ

أَخْلَفُوا = (خ ل ف) انہوں نے خلاف کیا

أَخْلَقُ = (خ ل ق) (ن) میں پیدا کرتا ہوں

أَخْنَهُ = (خ و ن) (ن) میں نے خیانت کی

اُس سے

أَخْوَالُ = (خ و ل) ماموں (جمع)

إِخْوَانُ = (ء خ و) بھائی (جمع)

إِخْوَةٌ = (ء خ و) (بھائی جمع)

أَخْيَارُ = (خ ي ر) نیک لوگ

إِذْرَكَ = (ذ ر ك) (3) وہ ختم ہوا بے بس

ہوا مختلف ہوا

إِذَا رَكُوا = (ذ ر ك) (3) وہ ملیں گے رگ رگیں

گے ر جمع ہوں گے

إِذَا رَأَيْتُمْ = (ذ ر ء) (3) تم نے اختلاف کیا

أَدَاءً = (ء د ي) ادا کرنا

أَذْبَارَ = (ذ ب ر) پٹھیں

أَذْبَرَ = (ذ ب ر) (1) اُس نے پیٹھ پھیر لی

أَذْخَلَ = (ذ خ ل) (1) تو داخل کر

أَذْخَلَ = (ذ خ ل) (1) وہ داخل کیا گیا

أَذْخَلَ = (ذ خ ل) (ن) تو داخل ہو

أَذْخَلَا = (ذ خ ل) (ن) تم دونوں داخل ہو

أَذْخَلُوا = (ذ خ ل) (ن) وہ سب داخل کیے گئے

أَذْخَلُوا = (ذ خ ل) (ن) تم سب داخل ہو

أَذْخَلُوا = (ذ خ ل) (1) تم داخل کرو

أَذْرَ = (ذ ر ي) (ن) میں جانتا ہوں

أَذْرَكَ = (ذ ر ي) (1) اُس نے تجھے آگاہ

کیا

إِذْرَعُوا = (ذ ر ء) (ف) تم ہٹاؤ۔ ڈور کرو

أَذْرِي = (ذ ر ي) (ض) میں جانتا ہوں

إِذْرِيْسُ = (ذ ر س) حضرت اور یس علیہ السلام

أَذْعُ = (ذ ع و) (ن) تو دعا کر

أَذْعُوا = (ذ ع و) (ن) تم بلاؤ

أَذْعُوا = (ذ ع و) (ن) میں بلاتا ہوں

دَعَوْتُمْ = (ذ ع و) (ن) تم پکارو

اِرْجِعِي = (رجع) (ض) تو (مؤنث)

واپس لوٹ

اِرْجُلُ = (رجل) پاؤں (جمع)

اِرْجَمَنَّكَ = (رجم) (ن) میں ضرور

تجھے سنگسار کروں گا

اِرْجُوا = (رجو) (ن) تم امید رکھو۔ تم ڈرو

اِرْجِهْ = (رجو) (1) تو اسے مہلت دے

اِرْحَامُ = (رحم) رشتہ داری (جمع)

اِرْحَمْ = (رحم) بڑا رحم کرنے والا

اِرْحَمْ = (رحم) (س) تو رحم کر

اِرْذُكُمُ = (ردی) (1) اس نے تمہیں برباد کیا

اِرْذُتْ = (رود) (1) میں نے ارادہ کیا

اِرْذُتُمْ = (رود) تم نے ارادہ کیا

اِرْذُنْ = (رود) اُن (عورتوں) نے چاہا

اِرْذُنَا = (رود) (1) ہم نے ارادہ کیا

اِرْذُلْ = (رذل) بہت خراب۔ بہت نکما

اِرْذُلُونْ = (رذل) ذلیل لوگ

اِرْزُقْ = (رزق) (ن) تو رزق دے

اِرْسِهَآ = (رسی) (1) اُس نے اُس کو گاڑ دیا

اِرْسَلْ = (رسل) (1) اُس نے بھیجا

اِرْسِلْ = (رسل) (1) تو بھیج

اِرْسِلْ = (رسل) (1) وہ بھیجا گیا

اِرَاذِلُ = (رذل) بڑے ذلیل لوگ

اِرَاءِ لَيْثٍ = (رک) بہت سے تخت

اِرْبٰى = (ربو) زیادہ بڑھی ہوئی

اِرْبَابٌ = (ربب) رب (جمع)

اِرْبَابَةٌ = (رب) حاجت۔ غرض

اِرْبَاعَةٌ = (ربع) چار

اِرْبَعِيْنَ = (ربع) چالیس (40)

اِرْتَابٌ = (ریب) (7) وہ شک میں پڑا

اِرْتَابَتْ = (ریب) (7) وہ شک میں پڑی

اِرْتَابُوا = (ریب) (7) وہ شک میں پڑے

اِرْتَبْتُمْ = (ریب) (7) تم شک میں پڑے

اِرْتَدَّ = (رود) (7) وہ لوٹ گیا۔ وہ مرتد ہو

گیا

اِرْتَدَّا = (رود) (7) وہ دونوں لوٹ آئے

اِرْتَدُّوْا = (رود) (7) وہ پھر گئے

اِرْتَضٰى = (رضی) (7) اُس نے پسند کیا

اِرْتَقِبْ = (رقب) (7) تو انتظار کر

اِرْتَقِبُوْا = (رقب) (7) تم انتظار کرو

اِرْجَاءٌ هَآ = (رجو) اُس کے کنارے

اِرْجِعْ = (رجع) (ض) میں واپس لوٹتا ہوں

اِرْجِعْ = (رجع) (ض) تو واپس لوٹ

اِرْجِعُوْا = (رجع) (ض) تم واپس لوٹو

أَرْكُضُ = (رکض) (ن) تو پاؤں مار
 إِرْكُؤَا = (رکع) (ف) تم رکوع کرو
 إِرْكُعِي = (رکع) (ف) تو عورت رکوع کر
 أَرِنَا = (رعی) (1) تو دکھا ہم کو
 أَرُونِي = (رعی) (1) تم دکھا مجھے
 إِرْهَبُونِ = (رهب) (س) تم سب ڈرو مجھ سے
 أَرْهَقَهُ = (رھق) (1) میں اُسے چڑھاؤں گا
 أَرِيذُ = (رود) (1) میں چاہتا ہوں
 أَرِيذُ = (رود) (1) میں چاہتا ہوں
 أَرِينَا = (رعی) (1) ہم نے دکھایا

عز

أَزَاغُ = (زیغ) (1) اُس نے ٹیڑھا کر دیا
 إِزْدَادُوا = (زید) (7) وہ زیادہ ہوئے
 إِزْدُجَرُ = (زجر) (7) اُسے ڈانٹا گیا
 أَرْقَبُ = (رف) (س) وہ قریب آگئی
 أَرْكَبُ = (رکب) (س) بہت پاکیزہ رہتا تھا
 أَرْلَامُ = (زل م) تیر (جمع)
 أَرْلَفْتُ = (زل ف) (1) وہ قریب کی گئی
 أَرْلَفْنَا = (زل ف) (1) ہم نے قریب کر دیا
 أَرْلَمْنَا = (زل ل) (1) اُس نے دونوں کو
 ورنغایا
 أَرْوَجُ = (زوج) بیویاں۔ جوڑے

أَرْسَلْتُ = (رسل) (1) تو نے بھیجا
 أَرْسَلْتُ = (رسل) (1) مجھے بھیجا گیا
 أَرْسَلْتُمْ = (رسل) (1) تم بھیجے گئے
 أَرْسَلْنَا = (رسل) (1) ہم نے بھیجا
 أَرْسَلْنَا = (رسل) (1) ہم بھیجے گئے
 أَرْسَلُوا = (رسل) (1) انہوں نے بھیجا
 أَرْسَلُوا = (رسل) (1) وہ بھیجے گئے
 إِرْصَادًا = (رصد) گھات لگانا
 أَرْضَعْتُ = (رضع) (1) اُس عورت نے
 دودھ پلایا

أَرْضَعْنِ = (رضع) (1) اُن عورتوں نے دودھ
 پلایا

أَرْضِعِيهِ = (رضع) (1) تو (عورت) اُسے دودھ پلا

إِرْعُوا = (رعی) (ف) تم چراؤ۔ تم کھلاؤ
 إِرْغَبُ = (رغب) (س) تو رغبت کر۔ دل لگا
 إِرْكَبُ = (رکب) (س) تو سوار ہو

إِرْكَبُوا = (رکب) (س) تم سب سوار ہو
 أَرْكَسُوا = (رکس) (1) اُن کو اُلٹا پھیرا
 گیا

أَرْكَسَهُمْ = (رکس) (ن) اُس نے اُن کو
 اُلٹا پھیر دیا

اِسْتَقْبُوا = (س ب ق) (7) وہ دوڑے

اِسْتَقْبُوا = (س ب ق) (7) تم دوڑو

اِسْتَجَابَ (ج و ب) (9) اس نے قبول کیا

اِسْتَجَابُوا (ج و ب) (9) انہوں نے قبول کیا

اِسْتَجَارَكَ = (ج و ر) (9) اُس نے تجھ

سے پناہ مانگی

اِسْتَجَبَ = (ج و ب) (9) میں قبول کروں گا

اِسْتَجِبْتُمْ (ج و ب) (9) تم نے کہنا مان لیا

اِسْتَجَبْنَا = (ج و ب) (9) ہم نے دعا قبول کی

اِسْتُجِيبَ (ج و ب) (9) وہ قبول کیا گیا

اِسْتُجِيبُوا (ج و ب) (9) تم قبول کرو۔ تم

مان لو

اِسْتَحْبُوا = (ح ب ب) (9) انہوں نے پسند

کیا

اِسْتُحْفِظُوا (ح ف ظ) (9) وہ نگہبان بنائے

گئے

اِسْتَحَقَّ = (ح ق ق) (9) وہ حق دار ہوا

اِسْتَحَقَّا = (ح ق ق) (9) وہ دونوں حق دار

ہوئے

اِسْتَحُوذَ = (ح و ذ) (9) وہ غالب آیا

اِسْتَحْيَاءُ = (ح ی ی) (9) حیا کرتے

شرماتے ہوئے

اَزِيدُ = (ز ی د) (ض) میں زیادہ دوں

اَزِيدَنَّ = (ز ی د) (ض) میں ضرور زیادہ

دوں گا

اَزَيْتُ = (ز ی ن) (وہ خوب زینت والی ہوئی

اَزَيْسَنَّ = (ز ی ن) (2) میں ضرور آراستہ

کروں گا

س

اَسْرَى = (ء ر ق) قیدی (جمع)

اَلسَّارِقُ = (س ر ق) چور مرد

اَلسَّارِقَةُ = (س ر ق) چور عورت

اَسَاطِيرُ = (س ط ر) کہانیاں

اَسَاوِرُ = (س و ر) کنگن (جمع)

اَسَاءَ = (س و ء) (1) اُس نے برائی کی

اَسَاءُوا = (س و ء) (1) انہوں نے برائی کی

اَسْبَابُ = (س ب ب) راستے۔ تعلقات

سیڑھیاں

اَسْبَاطُ = (س ب ط) اولاد اولاد یعقوب علیہ السلام

اَسْبَغَ = (س ب غ) (1) اُس نے پورا کیا

اِسْتَبَدَّالَ = (ب د ل) (9) بدل لینا

اِسْتَبْرَقُ = (ب ر ق) مونار لٹھی کپڑا

اِسْتَبْشِرُوا (ب ش ر) (9) تم خوشیاں مناؤ

اِسْتَبْقَا = (س ب ق) (7) وہ دونوں دوڑے

اِسْتَطَاعُوا = (ط و ع) (9) وہ طاقت رکھتے	اِسْتَحْيُوا = (ح ی ی) (9) تم زندہ رہنے دو
اِسْتَطَعْتُ = (ط و ع) (9) تو کر سکتے	اِسْتَحْرَجَهَا = (خ ر ج) (9) اُس نے اُسے نکال لیا
اِسْتَطَعْتُ = (ط و ع) (9) میں کر سکا	اِسْتَحْفَفَ = (خ ف) (9) اس نے مغلوب کر دیا
اِسْتَطَعْتُمْ = (ط و ع) (9) تم کر سکتے	اِسْتَخْلَصَهُ (خ ل ص) (9) میں اس کو مخصوص کر لوں
اِسْتَطَعَمَا = (ط ع م) (9) ان دونوں نے کھانا مانگا	اِسْتَخْلَفَ (خ ل ف) (9) اس نے خلیفہ بنایا
اِسْتَطَعْنَا = (ط و ع) (9) ہم کر سکتے	اِسْتَرْقَ = (س ر ق) (7) اُس نے چرایا
اِسْتَعْجَلْتُمْ = (ع ج ل) (9) تم نے جلدی مچائی	اِسْتَرْهَبُوا (ر ه ب) (9) انہوں نے ڈرایا
اِسْتَعْدُوا = (ع و ذ) (9) تو پناہ مانگ	اِسْتَزَلَّ = (ز ل ل) (9) اس نے ڈگمگایا
اِسْتَعْصَمَ = (ع ص م) (9) وہ بچ گیا	اِسْتَسْقَى (س ق ی) (9) اُس نے پانی مانگا
اِسْتَعْلَى = (ع ل و) (9) وہ غالب ہوا	اِسْتَشْهَدُوا = (ش ه د) (9) تم گواہی طلب کرو
اِسْتَعْمَرَكُمْ = (ع م ر) (9) اس نے تمہیں آباد کیا	اِسْتَضِعُّوا (ض ع ف) (9) وہ کمزور سمجھے گئے
اِسْتَعِينُوا = (ع و ن) (9) تم مدد مانگو	اِسْتَضَعُّونِي (ض ع ف) (9) انہوں نے مجھے کمزور سمجھا
اِسْتَغَاثَهُ = (غ و ث) (9) اُس نے فریاد کی	اِسْتَطَاعَ = (ط و ع) (9) وہ طاقت رکھے کر سکتے
اِسْتَفْشَوْا (غ ش ی) (9) انہوں نے اوڑھ لیے	
اِسْتِغْفَارٌ = (غ ف ر) (9) مغفرت بخشش مانگنا	

اِسْتَقْرَّ = (ق ر ر) (9) وہ ٹھہرا رہا	اِسْتَغْفِرُ = (غ ف ر) (9) تو بخشش مانگ
اِسْتَقِمَّ = (ق و م) (9) تو قائم رہ	اِسْتَغْفِرُ = (غ ف ر) (9) اُس نے بخشش مانگی
اِسْتَقِيمَا = (ق و م) (9) تم دونوں قائم رہو	اِسْتَغْفِرُ = (غ ف ر) (9) میں بخشش مانگتا ہوں
اِسْتَقِيمُوا = (ق و م) (9) تم سب قائم رہو	اِسْتَغْفِرَتْ = (غ ف ر) (9) خواہ تو نے بخشش مانگی
اِسْتَكْنُوا = (ک ی ن) (9) وہ دبے گزر گزرائے	اِسْتَغْفِرْنَ = (غ ف ر) (9) میں ضرور بخشش مانگوں گا
اِسْتَكْبَارًا = (ک ب ر) (9) غرور سرکشی	اِسْتَغْفِرُوا = (غ ف ر) (9) انہوں نے بخشش مانگی
اِسْتَكْبَرَّ = (ک ب ر) (9) اس نے تکبر کیا	اِسْتَغْفِرُوا = (غ ف ر) (9) تم بخشش مانگو
اِسْتَكْبَرَتْ = (ک ب ر) (9) کیا تو نے غرور کیا	اِسْتَغْفِرِي = (غ ف ر) (9) تو (عورت) بخشش مانگ
اِسْتَكْبَرْتُمْ = (ک ب ر) (9) تم نے تکبر کیا	اِسْتَفْلَظْ = (غ ل ظ) (9) وہ موٹا ہوا
اِسْتَكْبَرُوا = (ک ب ر) (9) انہوں نے تکبر کیا	اِسْتَفْغِنِي = (غ ن ی) (9) وہ بے پروا مالدار ہوا
اِسْتَكْفَرْتُ = (ک ث ر) (9) میں بہت زیادہ لے لیتا	اِسْتَفْتَحُوا = (ف ت ح) (9) انہوں نے فتح ریفیلد مانگا
اِسْتَكْفَرْتُمْ = (ک ث ر) (9) تم نے بہت زیادہ لیا	اِسْتَفْتِهِمْ = (ف ت ی) (9) تو اُن سے پوچھ
اِسْتَمْتَعْ = (م ت ع) (9) اس نے فائدہ	اِسْتَفْرِزْ = (ف ز ز) (9) تو بہکا دے
	اِسْتَقَامُوا = (ق و م) (9) وہ قائم رہے

اُسْتَهْزِئِي = (ه ز ع) (9) اس سے مذاق کیا گیا	اُسْتَهْزِئِي = (ه ز ع) (9) تم نے
اُسْتَهْزِئُوا (ه ز ع) (9) تم مذاق اُڑاؤ	اُسْتَهْزِئُوا (ه ز ع) (9) تم نے
اُسْتَهْوَتْهُ = (ه و ی) (9) اس نے اُسے بھٹکا دیا	اُسْتَهْوَتْهُ = (ه و ی) (9) انہوں نے
اُسْتَجْرَتْ = (ع ج ر) (9) تو نے اُجرت پر نوکر رکھا	اُسْتَجْرَتْ = (ع ج ر) (9) اُس نے
اُسْتَجِرُوهُ = (ع ج ر) (9) تو اسے نوکر رکھ لے	اُسْتَجِرُوهُ = (ع ج ر) (9) تو تھام
اُسْتَاذِنَ = (ع ذ ن) (9) اس نے اجازت مانگی	اُسْتَاذِنَ = (ع ذ ن) (9) اُس نے
اُسْتَاذِنُوا = (ع ذ ن) (9) تم اجازت مانگو	اُسْتَاذِنُوا = (ع ذ ن) (9) تو سن
اُسْتَاذِنُوا = (ع ذ ن) (9) انہوں نے اجازت مانگی	اُسْتَاذِنُوا = (ع ذ ن) (9) تم سنو
اُسْتَيْسَرَ = (ی س ر) (9) وہ آسان ہوا	اُسْتَيْسَرَ = (ن ص ر) (9) اس نے مدد
اُسْتَيْقَنَتْ = (ی ق ن) (9) اس نے یقین کر لیا	اُسْتَيْقَنَتْ = (ن ص ر) (9) وہ مدد مانگی
اُسْتَيْسَسَ = (ی ع س) (9) وہ مایوس ہوا	اُسْتَيْسَسَ = (ن ک ف) (9) انہوں نے
اُسْتَيْسَسُوا = (ی ع س) (9) وہ مایوس ہوئے	اُسْتَيْسَسُوا = (ن ک ف) (9) انکار کیا
اُسْجُدُ = (س ج د) (ن) میں سجدہ کروں	اُسْجُدُ = (س و ی) (7) اس نے ارادہ کیا
اُسْجُدُ = (س ج د) (ن) میں سجدہ کرتا ہوں	اُسْجُدُ = (س و ی) (7) وہ ٹھہر گئی
اُسْجُدُ = (س ج د) (ن) تو سجدہ کر	اُسْجُدُ = (و ق د) (9) اس نے آگ جلائی
اُسْجُدُوا = (س ج د) (ن) تم سجدہ کرو	اُسْجُدُوا = (س و ی) (7) تو سوار ہو جائے
	اُسْجُدُوا = (س و ی) (7) تم سوار ہو جاؤ

زیادتی کی	اُسْجُدِي = (س ج د) (ن) تو عورت بجدہ کر
اَسْرًا = (س ر ر) (1) اُس نے چھپا کر کہا	اَسْحَار = (س ح ر) صبح کے اوقات
اَسْرُوا = (س ر ر) (1) انہوں نے چھپا کر کہا	اَسْحَط = (س ح ط) (1) اس نے ناراض کیا
اَسْرُوا = (س ر ر) (1) تم چھپا کر کہو	اَسْرًا = (س ر ر) (1) اُس نے آہستہ بات کی۔ اس نے چھپایا
اَسْس = (ء س س) (2) اُس نے بنیاد رکھی	اَسْر = (س ر ی) (1) تورات کے وقت لے کر چل گیا
اَسْس = (ء س س) (2) اُس کی بنیاد رکھی گئی	اَسْرِي = (س ر ی) (1) وہ رات کو لے کر گیا
اَسْطَاعُوا (ط و ع) وہ کر سکے	اَسْرِي = (ء ر ق ی ر) (جمع)
اَسْعَوْا = (س ع ی) (ف) تم دوڑو	اَسْرًا = (س ر ر) چھپا کر کہنا
اَسْفِي = (ء ف) افسوس	اَسْرًا = (س ر ف) فضول خرچی
اَسْفَارًا = (س ف ر) کتابیں	اَسْرًا = (س ر ف) ہماری زیادتی
اَسْفَار = (س ف ر) ہمارے سفر (جمع)	اَسْرًا = (س ر ح) (2) میں تمہیں رخصت کر دوں
اَسْفَر = (س ف ر) (1) وہ روشن ہوا	اَسْرًا = (س ر ر) (1) میں نے چھپا کر کہا
اَسْفَل = (س ف ل) سب سے نیچا	اَسْرَع = (س ر ع) بہت جلدی کرنے والا
اَسْفَلِينَ = (س ف ل) سب سے نیچے لو	اَسْرَف = (س ر ف) (1) وہ حد سے گزر گیا
اَسْقَط = (س ق ط) (1) تو گرا دے؟	اَسْرَفُوا = (س ر ف) (1) انہوں نے
اَسْقَيْنُكُمْ = (س ق ی) (1) ہم نے تمہیں پلایا	
اَسْقَيْنُكُمْ = (س ق ی) (1) ہم نے تمہیں وہ پانی پلایا	

ہوا	أَسْكُنْ = (س ک ن) (ن) تو رہ
أُسْلِمَ = (س ل م) (1) میں جھکتا ہوں	أَسْكُنُهُ = (س ک ن) (1) ہم نے اُسے
أَسْلَمًا = (س ل م) (1) اُن دونوں نے حکم	تھہرایا
مانا	أَسْكُنْتُ = (س ک ن) (1) میں نے بسایا
أَسْلَمْتُ = (س ل م) (1) میں اسلام	أَسْكُنُوا = (س ک ن) (ن) تم رہو
لایا/جھکا	أَسْكِنُوهُنَّ = (س ک ن) (1) تم ان
أَسْلَمْتُمْ = (س ل م) (1) تم اسلام	عورتوں کو بساؤ
لائے/فرماں بردار ہوئے	إِسْلَامٌ = (س ل م) دین اسلام۔ فرماں برداری
أَسْلَمْنَا = (س ل م) (1) ہم مسلمان ہوئے	أَسْلِحَةٌ = (س ل ح) اسلحہ۔ ہتھیار
أَسْلَمُوا = (س ل م) (1) وہ مسلمان ہوئے	أَسْلَفْتُ = (س ل ف) (1) اس نے آگے
أَسْلَمُوا = (س ل م) (1) تم اسلام لاؤ	بھیجا۔ وہ پہلے گزر چکی
أَسَلْنَا = (س ل م) (1) ہم نے بہا دیا	أَسْلَفْتُمْ = (س ل ف) (1) تم آگے بھیج
إِسْمٌ = (س م و) (1) نام	چکے
أَسْمَاءٌ = (س م و) نام (جمع)	أَسْلَفْتُ = (س ل ک) (ن) تو داخل کر۔ تو
أَسْمَعُ = (س م ع) (س) میں سنتا ہوں	ڈال
أَسْمِعْ = (س م ع) (س) وہ کیا خوب سننے والے	أَسْلُكُوهُ = (س ل ک) (ن) تم اسے داخل
ہوں گے	کر دو/جکڑو
إِسْمَعُ = (س م ع) (س) تو سن	أَسْلِكِي = (س ل ک) (ن) تو (مونث)
إِسْمَعُوا = (س م ع) (س) تم سنو	چل
أَسْمِعْ = (س م ع) (1) اس نے سنایا	أَسْلَمَ = (س ل م) (1) وہ اسلام لایا۔ وہ
أَسْوَاقٌ = (س و ق) بازار (جمع)	فرماں بردار
أُسْوَةٌ = (ء و) نمونہ	أَسْلِمٌ = (س ل م) (1) تو اسلام لا۔ تو جھک

أَشْحَبَةٌ = (ش ح ح) کبجوس حریص

أَشْدُّ = (ش د د) بہت سخت

أَشْدَاءُ = (ش د د) سخت تیز (جمع)

أَشْدُدُّ = (ش د د) (ن ص) تو سخت کر دے

أَشْدُّ = (ش د د) اس کی جوانی

أَشْرُّ = (ش ر ر) بہت شریر برابرا

أَشْرَارٌ = (ش ر ر) برے لوگ

أَشْرَاطٌ = (ش ر ط) نشانیاں

أَشْرَاقٌ = (ش ر ق) روشن ہونا۔ صبح کا وقت

أَشْرَبُوا = (ش ر ب) (س) تم پیو

أَشْرَبُوا = (ش ر ب) (1) وہ پلائے گئے

أَشْرَبِي = (ش ر ب) (س) تو (عورت) پی

أَشْرَحُ = (ش ر ح) (ف) تو کھول دے

أَشْرَقَتْ = (ش ر ق) (1) وہ روشن ہوگئی

أَشْرَكَ = (ش ر ك) (1) اُس نے شرک

کیا

أَشْرِكُ = (ش ر ك) (1) میں شرک کرتا

ہوں

أَشْرِكْتُ = (ش ر ك) (1) تو نے شرک کیا

أَشْرِكْتُمْ = (ش ر ك) (1) تم نے شرک کیا

أَشْرِكْنَا = (ش ر ك) (1) ہم نے شرک کیا

أَشْرَكُوا = (ش ر ك) (1) انہوں نے شرک

أَسْوَدٌ = (س و د) سیاہ۔ کالا

أَسْوَدْتُ = (س و د) وہ سیاہ ہوگئی

أَسْوَرَةٌ = (س و ر) کنگن (جمع)

أَسْوَأُ = (س و ع) سب سے برا

أَسَأْتُمْ = (س و ع) (1) تم نے برائی کی

أَسْأَلُ = (س ء ل) (ف) تو پوچھ

أَسْأَلُ = (س ء ل) (ف) میں سوال کروں

أَسْأَلُ = (س ء ل) (ف) میں پوچھتا ہوں

أَسْأَلُوا = (س ء ل) (ف) تم پوچھو

أَسِيرًا = (ء س ر) قیدی

ءش

أَشَارَتْ = (ش و ر) (1) اُس عورت نے

اشارہ کیا

أَشَاءُ = (ش ي ء) (ف) میں چاہتا ہوں

أَشْتَاتَا = (ش ت ت) الگ الگ

أَشْتَدْتُ = (ش د د) (7) وہ سخت ہوگئی

أَشْتَرَى = (ش ر ي) (7) اس نے خریدا

أَشْتَرُوا = (ش ر ي) (7) انہوں نے بیچار

خریدا

أَشْتَعَلَ = (ش ع ل) (7) اس نے شعلہ مارا

أَشْتَمَلْتُ = (ش م ل) (7) وہ شامل ہوئی

أَشْتَهَتْ = (ش ه و) (7) اس نے خواہش کی

گواہ بنایا

أَشْهَدُوا = (ش ھ د) (1) تم گواہ بنا لو
 أَشْهَدُوا = (ش ھ د) (س ک) تم گواہی دو
 أَشْهَدُ هُمْ = (ش ھ د) (1) اس نے اُن کو

گواہ بنایا

أَشْهَرُ = (ش ھ د) مہینے
 أَشْيَاءَكُمْ = (ش ی ع) تمہارے ساتھی
 أَشْيَاءَ = (ش ی ع) چیزیں

ص 1

أَصَابَ = (ص و ب) (1) اس نے پہنچایا
 أَصَابَتْ = (ص و ب) (1) وہ پہنچی
 أَصَابِعَ = (ص ب ع) انگلیاں
 أَصْبُ = (ص و ب) (ن) میں جھک جاؤں

گا

أَصْبَحَ = (ص ب ح) صبح
 أَصَبْتُمْ = (ص و ب) (1) تم نے پہنچایا
 أَصْبَحَ = (ص ب ح) (1) وہ ہو گیا
 أَصْبَحْتُ = (ص ب ح) (1) وہ ہو گئی
 أَصْبَحْتُمْ = (ص ب ح) (1) تم ہو گئے
 أَصْبِحُوا = (ص ب ح) (1) وہ ہو گئے
 إِصْبِرْ = (ص ب ر) (1) تو صبر کرو
 إِصْبِرُوا = (ص ب ر) (ض) تم صبر کرو

کیا

أَشْرِكُ = (ش ر ک) (1) تو اُسے شریک کر
 أَشْعَارِهَا = (ش ع ر) اُن کے بال
 أَشْفَقْتُمْ = (ش ف ق) (1) تم ڈر گئے
 أَشْفَقْنَا = (ش ف ق) (1) وہ ڈر گئیں

أَشَقُّ = (ش ف ق) بہت سخت

أَشَقُّ = (ش ف ق) (ن) میں تکلیف مشقت
 دوں

أَشْقَى = (ش ق ی) بڑا بد بخت

أَشْكُرُ = (ش ک ر) (ن) میں شکر کرتا ہوں
 أَشْكُرُ = (ش ک ر) (ن) تو شکر کرو
 أَشْكُرُوا = (ش ک ر) (ن) تم شکر کرو
 أَشْكُوا = (ش ک و) (ن) میں شکوہ کرتا

ہوں

إِشْمَارَاتٍ = (ش م ع ز) (11) وہ تنگ ہوتی
 ہے۔ اس نے نفرت کی

أَشْهَادُ = (ش ھ د) گواہ (جمع)

أَشْهَدُ = (ش ھ د) (س ک) میں گواہی دیتا
 ہوں

أَشْهَدُ = (ش ھ د) (1) میں گواہ بناتا ہوں

أَشْهَدُ = (ش ھ د) تو گواہ رہ

أَشْهَدُ تَهُمْ = (ش ھ د) (1) میں نے اُن کو

اُس کو	أَصْبَرَ هُمْ = (ص ب ر) وہ کتنے نڈر ہیں
إِصْطَنَعْتُكَ (ص ف ی) (7) میں نے	أَصْبَنَهُمْ = (ص ب) (1) ہم نے اُن کو پکڑ
تجھے چن لیا	لیا
أَصْفَرَ = (ص غ ر) زیادہ چھوٹا	أَصْحَبُ = (ص ح ب) دوست۔ والے
أَصْفَادٍ = (ص ف د) زنجیریں	إِصْدَاعٌ = (ص د ع) (ف) تو صاف کہہ
أَصْفُكُمُ = (ص ف ی) (1) اُس نے تمہیں	دے
پسند کیا	أَصْدَقُ = (ص د ق) زیادہ سچا
إِصْفَحْ = (ص ف ح) (ف) تو درگزر کر	أَصْدَقُ = (ص د ق) (4) میں صدقہ کروں
إِصْفَحُوا = (ص ف ح) (ف) تم درگزر	أَصْرِفْ = (ص ر ف) (ض) میں پھیر دوں
کردو	گا
أَصْلَابِكُمْ (ص ل ب) تمہاری پٹھیں	أَصْرِفْ = (ص ر ف) (ض) تو ہٹا پھیر
إِصْلَاحٌ = (ص ل ح) صلح کرانا۔ اصلاح	دے
کرنا	أَصْرُوا = (ص ر ر) (1) انہوں نے اصرار کیا
أَصْلَبْنَكُمْ (ص ل ب) (2) میں ضرور	إِصْطَادُوا (ص ی د) (7) تم شکار کرو
تمہیں سولی دوں گا	إِصْطَبِرْ = (ص ب ر) (7) تو صبر کر
أَصْلَحْ = (ص ل ح) (1) اس نے اصلاح	أَصْطَفَى = (ص ف ی) (7) کیا اُس نے
کی صلح کرا دی	چن لیا
أَصْلِحْ = (ص ل ح) (1) تو اصلاح کر	إِصْطَفَى = (ص ف ی) (7) اُس نے چن لیا
أَصْلَحَا = (ص ل ح) (1) دونوں نے	إِصْطَفَيْتُ (ص ف ی) (7) میں نے چن
اصلاح کر لی	لیا
أَصْلَحْنَا = (ص ل ح) (1) ہم نے اصلاح	إِصْطَفَيْنَا = (ص ف ی) (7) ہم نے چن لیا
کردی	إِصْطَفَيْنَهُ (ص ف ی) (7) ہم نے چن لیا

أَصْحَكَ (ض ح ك) (1) وہ ہنساتا ہے	أَصْلَحُوا = (ص ل ح) (1) انہوں نے اصلاح کی
أَصْرِبُ = (ض ر ب) (ض) تو مار	أَصْلِحُوا = (ص ل ح) (1) تم صلح کرادو
أَصْرِبُوا = (ض ر ب) (ض) تم مارو	أَصْلَوْهَا = (ص ل ی) تم اس (آگ) میں داخل ہو جاؤ
أَضْطَرُّ = (ض ر ر) (7) وہ مجبور ہو گیا	أَصْلِيهِ = (ص ل ی) (1) میں اسے آگ میں داخل کروں گا
أَضْطَرُّنَا = (ض ر ر) (7) تم مجبور کیے گئے	أَصَمَّ = (ص م م) بہرا
أَضْطَرُّوا = (ض ر ر) (7) میں مجبور کروں گا	أَصَمَّ = (ص م م) بہرا
أَضْعَافًا = (ض ع ف) دو گنا۔ کئی گنا	أَصْنَامٌ = (ص ن م) بت (جمع)
أَضْعَفُ = (ض ع ف) زیادہ کمزور	إِصْنَعُ = (ص ن ع) (ف) تو بنا
أَضْعَاكُ = (ض ع ك) پریشان ہچکچہ	أَصْوَاتٌ = (ص و ت) آوازیں
أَضْعَانُكُمْ (ض ع ن) دشمنیاں تمہاری۔	أَصْوَافٍ = (ص و ف) اُون (جمع)
کہئے تمہارے	أَصُولُهَا = (ء ص ل) جڑیں اُس کی
أَصْلٌ = (ض ل ل) (1) اس نے گمراہ کیا	أَصِيبٌ = (ص و ب) (1) میں پہنچاتا ہوں
أَصْلٌ = (ض ل ل) (1) بہت گمراہ	أَصِيلًا = (ء ص ل) شام کا وقت
أَصْلٌ = (ض ل ل) (1) میں گمراہ کرتا ہوں	ء ض
أَصْلَلْتُمْ = (ض ل ل) تم نے گمراہ کیا	أَضَاعُوا = (ض ی ع) (1) انہوں نے ضائع کیا
أَصْلَلْنَا = (ض ل ل) (1) انہوں نے گمراہ کیا	أَضَاءٌ = (ض و ء) (1) اُس نے روشن کیا
کیا	أَضَاءَتْ = (ض و ء) (1) اس (عورت) نے روشن کیا
أَضْمُمُ = (ض م م) (ن) تو ملا لے	
أَضْيَعُ = (ض ی ع) (1) میں ضائع کرتا ہوں	

أَطَّلَعَ = (ط ل ع) (7) وہ مطلع ہوا۔ اُس نے

جھانکا

أَطَّلَعَ = (ط ل ع) (7) وہ جھانکا

أَطَّلَعَ = (ط ل ع) (7) میں جھانکوں

أَطَّلَعْتُ = (ط ل ع) (7) تو مطلع ہوا۔ تو نے

جھانکا

أَطْمَسُ = (ط م س) (ض - ن) تو منادے

أَطْمَعُ = (ط م ع) (ف) میں امید تو توقع رکھتا

ہوں

أَطْمَأَنَّ = (ط م ن) (11) وہ مطمئن ہو گیا

أَطْمَأْنَنْتُمْ = (ط م ن) (11) تم اطمینان پاؤ

أَطْمَأْنَوْا = (ط م ن) (11) وہ مطمئن

ہوئے

أَطْوَارًا = (ط و ر) طرح طرح سے

أَطْهَرُ = (ط ه ر) زیادہ پاکیزہ

أَطْهَرُوا = (ط ه ر) (4) تم خوب پاک کرو

أَطْيَرْنَا = (ط ي ر) (4) ہم نے منحوس سمجھا

أَطِيعُوا = (ط و ع) (1) تم اطاعت کرو

عظ

أَظْفَرَكُمْ = (ظ ف ر) (1) اس نے تمہیں فتح

دی

أَظْلَمُ = (ظ ل م) زیادہ ظالم

ط

أَطَاعَ = (ط و ع) (1) اس نے اطاعت کی

أَطَاعُوا = (ط و ع) (1) انہوں نے اطاعت

کی

أَطْرَافٌ = (ط ر ف) کنارے

إِطْرَحُوهُ = (ط ر ح) (ف) تم ڈال دو اُس کو

إِطْعَامٌ = (ط ع م) (1) کھانا کھلانا

إِطْعَامٌ = (ط ع م) (1) کھانا کھلانا

أَطَعْتُمْ = (ط و ع) (1) تم نے اطاعت کی

أَطَعِمُوا = (ط ع م) (1) تم کھلاؤ

أَطْعَمَهُ = (ط ع م) (1) اس نے اُسے کھلایا

أَطْعِنَ = (ط و ع) (1) تم (عورتوں) اطاعت

کرو

أَطْعِنَا = (ط و ع) (1) ہم نے اطاعت کی

أَطْعِنَنَّ = (ط و ع) (1) وہ (عورتیں)

اطاعت کر لیں

أَطْعَى = (ط غ ي) (1) بہت سرکش

أَطْعَيْتُ = (ط غ ي) (1) میں نے اُسے

گمراہ سرکش بنایا

أَطْفَالٌ = (ط ف ل) لڑکے

أَطْفَاهَا = (ط ف ه) (1) اُس نے اُسے بچھا

دیا

أَعْتَزِلُ = (ع ز ل) (7) میں الگ ہوتا ہوں

أَعْتَزِلُوا = (ع ز ل) (7) تم الگ ہو جاؤ

أَعْتَزِلُوا = (ع ز ل) (7) وہ الگ ہوئے

أَعْتَزِلُ = (ع ز ل) (7) وہ الگ ہوا

أَعْتَصِمُوا (ع ص م) (7) انہوں نے

مضبوطی سے پکڑا

أَعْتَصِمُوا (ع ص م) (7) تم مضبوطی سے

پکڑو

أَعْتَلُوهُ = (ع ت ل) (ض - ن) تم اسے

گھسیٹ کر لے جاؤ

أَعْتَمِرَ = (ع م ر) (7) اس نے عمرہ کیا

أَعْتَرْنَا = (ع ث ر) (1) ہم نے بتا دیا

أَعْتَجَازُ = (ع ج ز) (درختوں کے) تنے

أَعْتَجَبَ = (ع ج ب) (1) وہ اُسے اچھا لگا

أَعْتَجَبْتُ = (ع ج ب) (1) وہ اچھی لگی

أَعْتَجَزْتُ = (ع ج ز) (1) کیا میں گیا گزرا ہوا

أَعْتَجَلُ = (ع ج ل) (1) اس نے جلدی

کرائی

أَعْتَجَمِيًّا = (ع ج م) عجمی - غیر عربی

أَعْتَجَمِيٌّ = (ع ج م) عجمی - غیر عربی

أَعْتَجَمِينَ = (ع ج م) عجمی لوگ

أَعَدَّ = (ع د) (1) اس نے تیار کیا

أَعْظَنُ = (ظ ن ن) (ن) میں گمان کرتا ہوں

أَعْظَمَرٌ = (ظ ھ ر) (1) اس نے اُسے ظاہر کیا

ع

أَعَانَهُ = (ع و ن) (1) اُس نے مدد کی اُس کی

أَعْبُدُ = (ع ب د) (ن) میں عبادت کرتا

ہوں

أَعْبُدُ = (ع ب د) (ن) تو عبادت کرو

أَعْبُدُوا = (ع ب د) (ن) تم عبادت کرو

أَعْتَبِرُوا = (ع ت د) (7) تم عبرت پکڑو

أَعْتَدِي = (ع ت د) (7) اس نے زیادتی

کی

أَعْتَدْتُ = (ع ت د) (1) اس عورت نے

تیار کی

أَعْتَدْنَا = (ع ت د) (1) ہم نے تیار کیا

أَعْتَدُوا = (ع ت د) (7) انہوں نے زیادتی

کی

أَعْتَدُوا = (ع ت د) (7) تم زیادتی کرو

أَعْتَدِينَا = (ع ت د) (7) ہم نے زیادتی کی

أَعْتَرِيكَ = (ع ر و) (7) اس نے تجھے

آسیب پہنچایا

أَعْتَزَلْتُمُوهُمْ = (ع ز ل) (7) تم الگ

ہوئے اُن سے

أَعَزُّهُ = (ع ز ز) زیادہ عزیز و زور والا	أَعْدَاءُ = (ع دو) دشمن (جمع)
أَعِزَّةٌ = (ع ز ز) عزت والے۔ زبردست	أَعْدَتٌ = (ع دو) (1) وہ تیار کی گئی
أِعْصَارٌ = (ع ص ر) بگولا	أَعْدِلٌ = (ع دل) (ض) میں عدل رانصاف
أَعِصِرُ = (ع ص ر) (ض) میں نچوڑتا ہوں	کروں
أَعِصِي = (ع ص ی) (ض) میں نافرمانی	أَعْدِلُوا = (ع دل) (ض) تم عدل کرو
کروں	أَعْدُوا = (ع دو) (1) وہ تیاری کرتے
أَعْطَى = (ع ط و) (1) اس نے دیا	أَعْدُوا = (ع دو) (1) تم تیاری کرو
أَعْطُوا = (ع ط و) (1) ان کو دیا گیا	أَعْدِبْنَهُ = (ع ذ ب) (2) میں ضرور اُسے
أَعْطَيْتَ = (ع ط و) (1) ہم نے دیا تجھ کو	سزا دوں گا
أَعْظُ = (ع ظ) (ض) میں نصیحت کرتا ہوں	أَعْدِبُ = (ع ذ ب) (2) میں عذاب دوں گا
أَعْظَمُ = (ع ظ م) زیادہ بڑا	أَعْرَابٌ = (ع ر ب) عرب دیہاتی لوگ۔
أَعْفُ = (ع ف و) (ن) تو معاف کر	بدو
أَعْفُوا = (ع ف و) (ن) تم معاف کرو	إِعْرَاصًا = (ع رض) منہ پھیرنا
أَعْقَابٌ = (ع ق ب) ایڑیاں	إِعْرَاصُهُمْ = (ع رض) ان کا منہ پھیر لینا
أَعْقَبَهُمْ = (ع ق ب) (1) اس نے ان میں	أَعْرَافٌ = (ع ر ف) اعراف۔ اونچی جگہ
اثر رکھ دیا اس نے اُن کو وارث بنایا	أَعْرَاجٌ = (ع ر ج) لنگڑا
أَعْلَى = (ع ل ی) اعلیٰ۔ غالب	أَعْرِضْ = (ع رض) (1) تو منہ پھیر لے
أَعْلَامٌ = (ع ل م) پہاڑ (جمع)	أَعْرِضْ = (ع رض) (1) اس نے منہ پھیرا
أَعْلَمُ = (ع ل م) (س) میں جانتا ہوں	أَعْرِضْتُمْ = (ع رض) (1) تم نے منہ پھیرا
أَعْلَمُ = (ع ل م) زیادہ جاننے والا	أَعْرِضُوا = (ع رض) (1) انہوں نے منہ
إِعْلَمُ = (ع ل م) (س) تو جان	پھیرا
إِعْلَمُوا = (ع ل م) (س) تم جانو	أَعْرِضُوا = (ع رض) (1) تم منہ پھیر لو

ع

اِعْتَرَفَ = (ع ر ف) (7) اس نے چلو بھرا
 اُعْدُوا = (ع و ا) (ن) تم سویرے نکو
 اُعْرِفْنَا = (ع ر ق) (1) ہم نے غرق کر دیا
 اُعْرِقُوا = (ع ر ق) وہ غرق کیے گئے
 اُعْرَيْنَا = (ع ر ی) (1) ہم نے بھڑکا دیا
 اِعْسَلُوا = (ع س ل) (ض) تم دھولو
 اُعْشِيَتْ = (ع ش ی) (1) وہ ڈھانپ دی گئی
 اُعْشِينَا = (ع ش ی) (1) ہم نے ڈھانپ دیا
 اُعْضُضْ = (ع ض ض) تو پست / نرم کر
 اُعْطَشْ = (ع ط ش) (1) اُس نے تاریک
 بنایا
 اِعْفِرْ = (ع ف ر) (ض) تو بخش دے
 اِعْقَلْنَا = (ع ق ل) (1) ہم نے غافل کر دیا
 اِعْلَلْ = (ع ل ل) طوق - پھٹکڑیاں
 اِعْلَبْ = (ع ل ب) (ض) میں ضرور غالب
 آؤں گا
 اِعْلَظْ = (ع ل ظ) (ض) ک تو سختی کر
 اِعْنِيْ = (ع ن ی) (1) اس نے دولت مند
 بنایا۔ وہ کام آئی
 اِعْنَتْ = (ع ن ی) (1) وہ کام آئی
 اِعْنِيْ = (ع ن ی) (1) میں کام آسکتا ہوں

اَعْلَنْتُ = (ع ل ن) (1) میں نے اعلان کیا
 اَعْلَنْتُمْ = (ع ل ن) (1) تم نے اعلان کیا
 اَعْلَوْنَ = (ع ل و) غالب۔ بلند مرتبہ
 اَعْمَى = (ع م ی) اندھا
 اَعْمَالُ = (ع م ل) اعمال۔ کام
 اَعْمَلُ = (ع م ل) (س) میں عمل کرتا ہوں
 اِعْمَلْ = (ع م ل) (س) تو کام کر
 اِعْمَلُوا = (ع م ل) (س) تم کام کرو
 اَعْنَابُ = (ع ن ب) انار (جمع)
 اَعْنَاقُ = (ع ن ق) گردنیں
 اَعْتَكُمُ = (ع ن ت) (1) وہ تمہیں
 مشکل میں ڈال دیتا
 اَعْوُذُ = (ع و ذ) (ن) میں پناہ چاہتا ہوں
 اَعْهَدُ = (ع ه د) (س) میں نے عہد لیا
 اَعْيَبَهَا = (ع ی ن) (ض) میں اس میں
 عیب ڈال دوں
 اَعِيْدُوا = (ع و د) (1) وہ لوٹا دیے گئے
 اَعِيْدُ = (ع و ذ) (1) میں پناہ دیتا ہوں
 اَعْيُنُ = (ع ی ن) آنکھیں
 اَعْيُنُونِيْ = (ع و ن) (1) تم میری
 امانت / مدد کرو

أَفْتِنَا = (ف ت ی) (1) تو ہمیں فتویٰ

جواب دے

أَفْتُونَنِي = (ف ت ی) (1) تم مجھے خبر

جواب دو

أَفْرُغْ = (ف ر غ) (1) تو ڈال دے

أُفْرِغْ = (ف ر غ) (1) میں ڈال دوں

أَفْرُقْ = (ف ر ق) (ن ض) تو جدائی ڈال

دے

أَفْسَحُوا = (ف س ح) (ف) تم جگہ کھول

دو

أَفْسُدُوا = (ف س د) (1) انہوں نے

اُسے خراب کر دیا

أَفْصَحْ = (ف ص ح) زیادہ فصیح۔ زیادہ خوش

بیان

أَفْضَى = (ف ض ی) (1) وہ مل چکا

أَفْضُتُمْ = (ف ی ض) (1) تم واپس آؤ

أَفْعَلْ = (ف ع ل) (ف) تو کر

أَفْعَلُوا = (ف ع ل) (ف) تم کرو

أَقَلَّتْ = (ء ف ل) (ن) وہ غروب ہوئی

أَقْلَحْ = (ف ل ح) (1) وہ کامیاب ہوا

أَقْنَانْ = (ف ن ن) شائیں

أَقْوَأْجَا = (ف و ج) فوج در فوج

أَغْيِيَاءُ = (غ ن ی) دولت مند (جمع)

أَغْوَيْتَنِي = (غ و ی) (1) تو نے مجھے گمراہ کیا

أَغْوَيْنَا = (غ و ی) (1) ہم نے گمراہ کیا

أَغْوَيْنَهُمْ = (غ و ی) (1) میں اُن کو ضرور

گمراہ کروں گا

ء ف

أَفَاضَ = (ف ی ض) (1) وہ واپس آیا

أَفَاقَ = (ف و ق) (1) اُسے افاقہ ہوا۔ وہ

ہوش میں آیا

أَفَالِكْ = (ء ف ک) بہت جھوٹا

أَفَاءَ = (ف ی ء) (1) اس نے لوٹایا۔ اس

نے مال فئے دیا

أَفْتَحْ = (ف ت ح) (ف) تو کھول / فیصلہ کر

أَفْتَدَى = (ف د ی) (7) اس نے فدیہ دیا

أَفْتَدَتْ = (ف د ی) (7) اس عورت نے

فدیہ دیا

أَفْتَدُوا = (ف د ی) (7) انہوں نے فدیہ دیا

أَفْتَرَى = (ف ر ی) (7) کیا اس نے گھڑ لیا

أَفْتَرَى = (ف ر ی) (7) اس نے تہمت لگائی

اس نے گھڑ لیا

أَفْتَرَيْتَ = (ف ر ی) (7) میں نے گھڑ لیا

أَفْتَرَيْنَا = (ف ر ی) (7) ہم نے گھڑ لیا

اَفْتَلُوا = (ق ت ل) (7) وہ لڑے
 اَفْتَحَم = (ق ح م) (7) وہ گھسا
 اَفْتَدِه = (ق د و) (7) تو اس کی پیروی کر
 اَفْتَرَب = (ق ر ب) (7) وہ قریب آیا
 اَفْتَرِب = (ق ر ب) (7) تو قریب ہو جا
 اَفْتَرَبْتُ = (ق ر ب) (7) وہ قریب ہوئی
 اَفْتَرَفْتُمُوها = (ق ر ف) (7) تم نے اُس کو
 کیا
 اَفْتُل = (ق ت ل) (ن) میں قتل کرتا ہوں
 اَفْتَلْنَكَ = (ق ت ل) (ن) میں ضرور
 تجھے قتل کروں گا
 اَفْتُلُوا = (ق ت ل) (ن) تم قتل کرو
 اَفْتَدَام = (ق د م) (جمع)
 اَفْتَدُمُونَ = (ق د م) پرانے لوگ
 اَفْتَذِفِيه = (ق ذ ف) (ض) تو ڈال دے
 اُس کو
 اَفْرُب = (ق ر ب) زیادہ قریب
 اَفْرُبُونَ = (ق ر ب) قریبی رشتہ دار (جمع)
 اَفْرَبِينَ = (ق ر ب) قریبی رشتہ دار (جمع)
 اَفْرَرْتُمْ = (ق ر ر) (1) تم نے اقرار کیا
 اَفْرَرْنَا = (ق ر ر) (1) ہم نے اقرار کیا
 اَفْرَضْتُمْ = (ق ر ض) (1) تم نے قرض دیا

اَفْوَاه = (ف و ہ) منہ (جمع)
 اَفْوَز = (ف و ز) (ن) میں کامیاب ہوتا
 اَفْوَض = (ف و ض) (2) میں سپرد کرتا ہوں
 اَفْيَدُه = (ف و د) دل (جمع)
 اَفْيَضُوا = (ف ي ض) (1) تم واپس آؤ۔ تم
 ذالور بہاء

ق

اَقَام = (ق و م) (1) اس نے قائم کیا
 اِقَام = (ق و م) (1) قائم کرنا
 اِقَامَتِكُمْ = (ق و م) (1) تمہارا قیام کرنا
 اِقَامُوا = (ق و م) (1) انہوں نے قائم کیا
 اِقَاوِيل = (ق و ل) باتیں
 اَقْبِرُه = (ق ب ر) (1) اس نے اُسے گاڑا
 قبر میں رکھا
 اَقْبِل = (ق ب ل) (1) تو آگے آ
 اَقْبِل = (ق ب ل) (1) وہ آگے آیا۔ متوجہ
 ہوا
 اَقْبَلْنَا = (ق ب ل) (1) ہم متوجہ ہوئے
 اَقْبَلُوا = (ق ب ل) (1) وہ متوجہ ہوئے
 اَقْبَت = (ق و ت) (2) اس کا وقت مقرر کیا
 گیا
 اَقْتَل = (ق ت ل) (7) وہ لڑا

أَقْفَالُهَا = (ق ف ل) تالے اُس کے
 أَقْلُ = (ق و ل) (ن) میں نے کہا
 أَقْلُ = (ق ل ل) بہت کم
 أَقْلَامٌ = (ق ل م) قلم (جمع)
 أَقَلْتُ = (ق ل ل) (1) اس نے کم رہا پکا پایا
 أَقْلَعِي = (ق ل ع) (1) تم تھم جا
 أَقِمُّ = (ق و م) (1) تو قائم کر
 أَقِمْتُ = (ق و م) (1) تو نے قائم کیا
 أَقِمْتُمْ = (ق و م) (1) تم نے قائم کیا
 أَقِمْنِ = (ق و م) (1) وہ (عورتیں) قائم
 کریں
 أَقْنِي = (ق ن ی) (1) اس نے عطا کیا یعنی
 کیا
 أَقْنِي = (ق ن ت) (ن) تو (عورت)
 فرماں بردار بن
 أَقْوَانَهُمَا = (ق و ت) اس کی خوراکیں
 غذائیں
 أَقْوُلُ = (ق و ل) (ن) میں کہتا ہوں
 أَقْوَمٌ = (ق و م) زیادہ سیدھا
 أَقِيمُوا = (ق و م) (1) تم قائم کرو
 اَلْ = (ک و ن) (ن) میں ہوں

أَقْرَضُوا = (ق ر ض) (1) انہوں نے قرض
 دیا
 أَقْرَضُوا = (ق ر ض) (1) تم قرض دو
 إِقْرَءْ = (ق ر ء) (ف ن) تو پڑھ
 أَقْسَطُ = (ق س ط) زیادہ انصاف کرنے والا
 أَقْسَطُوا = (ق س ط) (1) تم انصاف کرو
 أَقْسِمُ = (ق س م) (1) میں قسم کھاتا ہوں
 أَقْسَمْتُمْ = (ق س م) (1) تم نے قسم کھائی
 أَقْسَمُوا = (ق س م) (1) انہوں نے قسم
 کھائی
 أَقْصَا = (ق ص ی) بہت دور۔ مسجد اقصیٰ
 إِقْصِدْ = (ق ص د) (ض) تو میانروی
 اختیار کر
 أَقْصُصْ = (ق ص ص) (ن) تو بیان کر
 إِقْضِ = (ق ض ی) (ض) تو فیصلہ کر
 إِقْضُوا = (ق ض ی) (ض) تم فیصلہ کرو
 أَقْطَارِ = (ق ط ر) کنارے۔ اطراف
 أَقْطِعَنَّ = (ق ط ع) (ف) میں ضرور کاٹوں
 گا
 إِقْطِعُوا = (ق ط ع) (ف) تم کاٹو
 أَقْعَدَنَّ = (ق ع د) (ن) میں ضرور بیٹھوں
 گا
 أَقْعُدُوا = (ق ع د) (ن) تم بیٹھو

زیادہ کیا	اَكْبَرُ = (ک ب ر) بڑے لوگ
اَكْفَرُوا = (ک ث ر) (1) انہوں نے	اَكَاذُ = (ک و ذ) (س) میں چاہتا ہوں
زیادہ کیا	اَكْلُونُ = (ء ک ل) بہت کھانے والے
اَكْلَى = (ک د ی) اُس نے بند کر دیا	اَكْبَرُ = (ک ب ر) زیادہ بڑا
اِكْرَامُ = (ک ر م) عزت دینا	اَكْبَرُنَّهُ = (ک ب ر) (1) اُن (عورتوں) نے اُسے بڑا سمجھا
اِكْرَاهُ = (ک ر ہ) زبردستی۔ جبر	اِكْتَالُوا = (ک ی ل) (7) انہوں نے ناپا
اِكْرَمُ = (ک ر م) بہت باعزت	اَكْتُبُ = (ک ت ب) (ن) تو لکھ
اِكْرَمِي = (ک ر م) (1) اس نے میری عزت	اَكْتَبْنَا = (ک ت ب) (ن) تو ہمیں لکھ دے
کی	اَكْتُبُوهُ = (ک ت ب) (ن) تم اُسے لکھ دو
اِكْرَمَةٌ = (ک ر م) (1) اس نے اس کی	اَكْتَبَهَا = (ک ت ب) میں اسے لکھ دوں گا
عزت کی	اِكْتَبَهَا = (ک ت ب) (7) اس نے اس کو لکھ کر لکھ دیا
اِكْرَمِي = (ک ر م) (1) تو (عورت)	اِكْتَسَبُ = (ک س ب) (7) اس نے کمایا
اسے باعزت رکھ	اِكْتَسَبْتُ = (ک س ب) (7) اس عورت نے کمایا
اِكْرَاهُ = (ک ر ہ) (1) اُس پر جبر کیا گیا	اِكْتَسَبْنُ = (ک س ب) (7) اُن عورتوں نے کمایا
اِكْرَهْتَنَّا = (ک ر ہ) تو نے ہم پر زبردستی کی	اِكْتَسَبُوا = (ک س ب) (7) انہوں نے کمایا
اِكْسُوهُمْ (ک س و) تم ان کو پہناؤ	اِكْشِفُ = (ک ش ف) (ض) تو کھول
وے۔ دور کر دے	اِكْفَرُ = (ک ف ر) (ن) میں کفر کرتا ہوں
اِكْفَرُ = (ک ف ر) (ن) تو کفر کر	اِكْفِرَنَّ = (ک ف ر) (2) میں ضرور
اِكْفِرَنَّ = (ک ف ر) (2) میں ضرور	اَكْثَرُ = (ک ث ر) اکثر۔ زیادہ
ڈھانپ دوں گا	اَكْثَرْتُ = (ک ث ر) (1) تو نے بہت

اَكْفُرُوا = (ک ف ر) (ن) تم کفر انکار کرو

اَكْفَرَهُ = (ک ف ر) (1) اس نے انکار کیا۔ بڑا کافر

اَكْفَلْنِيهَا = (ک ف ل) (1) تو مجھے وہ سونپ دے

اَكْلِمَ = (ک ل م) (2) میں کلام کروں

اَكْمَامَ = (ک م م) غلاف (جمع)

اَكْمَلْتُ = (ک م ل) (1) میں نے مکمل کیا

اَكْمَهَ = (ک م ه) پیدا ہونے لگا

اَكُنْ = (ک و ن) (ن) میں ہو جاؤں

اَكُنَانًا = (ک ن ن) پناہ گاہیں

اَكْنِيَةً = (ک ن ن) پردے (جمع)

اَكْنُتُمْ = (ک ن ن) (1) تم نے چھپایا

اَكْوَابٌ = (ک و ب) کوزے۔ لوٹے۔

کپ (جمع)

اَكْوَنٌ = (ک و ن) (ن) میں ہوں

اَكْوَنَنْ = (ک و ن) (ن) بے شک میں ہو

جاؤں گا

اَكْبِيْدُ = (ک ی د) (ض) میں تدبیر کرتا

ہوں

اَكْبِيْدَنَّ = (ک ی د) (ض) میں ضرور چال

چلوں گا

ء ل

اَلْبَابُ = (ل ب ب) عطل (جمع)

اَلتَّفَتِ = (ل ف ف) (7) وہ پلٹ گئی

اَلتَّقَى = (ل ق ی) (7) وہ مقابل میں آ گیا

اَلتَّقَا = (ل ق ی) (7) وہ دونوں ملے

مقابلے میں آئے

اَلتَّقَطُ = (ل ق ط) (7) اس نے اُسے اٹھالیا

اَلتَّقَمَ = (ل ق م) (7) اس نے لقمہ بنا لیا

اَلتَّمِسُوا = (ل م س) (7) تم تلاش کرو

اَلتَّهَمَ = (ء ل ت) (1) ہم نے اُن کو کم کر دیا

اَلْحَادِ = (ل ح د) گمراہی۔ کج روی

اَلْحَافَا = (ل ح ف) پلٹ کر

اَلْحَقْتُمْ = (ل ح ق) (1) تم نے ملایا

اَلْحَقْنَا = (ل ح ق) (1) ہم نے ملایا

اَلْحَقْنِي = (ل ح ق) (1) تو مجھے ملا دے

اَلدُّ = (ل د) بہت بھگڑا لو

اَلدُّ = (ل د) (ض) میں جنوں گی

اَلزَّمْنَةُ = (ل ز م) (1) ہم نے اس کے لیے

لازم کر دیا

اَلزَّمَّ = (ل ز م) (1) اس نے لازم کر دیا

اَلسِّنَةُ = (ل س ن) زبانیں

الْقِيَّةُ = (ل ق ی) (1) تو اُسے ڈال دے	الْعُنْهَمُ = (ل ع ن) (ف) تو اُن پر لعنت کر
اللَّهُ = (ء ل ه) اللہ تعالیٰ	الْعَوَا = (ل غ و) (ن س ف) تم غل مچاؤ
النَّا = (ل ی ن) (1) ہم نے نرم کر دیا	الْفَ = (ء ل ف) (2) اس نے الفت دی
الْوَاخ = (ل و ح) تختیاں	الْفَافَا = (ل ف ف) لپٹے ہوئے۔ گنجان۔
الْوَانُ = (ل و ن) رنگ (جمع)	گئے
الْوُفُ = (ء ل ف) ہزاروں	الْفَتْ = (ء ل ف) (2) تو نے الفت ڈالی
الْهَكْمُ = (ل ه و) (1) اس نے تمہیں غافل	الْفَوَا = (ل ف ی) (1) انہوں نے پایا
کر دیا	الْفَيَا = (ل ف ی) (1) ان دونوں نے پایا
الْهَمَّ = (ل ه م) (1) اس نے الہام کیا	الْفَيَا = (ل ف ی) (1) ہم نے پایا
الْأَخِلَاءُ = (خ ل ل) دوست (جمع)	الْقِي = (ل ق ی) (1) تو ڈال
الْيُمُ = (ء ل م) دروناک	الْقِي = (ل ق ی) (1) اس نے ڈالا
ع	الْقَابِ = (ل ق ب) لقب۔ خطاب (جمع)
أَمَاتُ = (م و ت) (1) اس نے موت دی	الْقَتُّ = (ل ق ی) (1) اس (مونٹ) نے
أَمَارَةٌ = (ء م ر) بڑا حکم دینے والا	نکال ڈالا
إِمَامًا = (ء م م) امام۔ پیشوا	الْقَوَا = (ل ق ی) (1) انہوں نے ڈالا
أَمْنٌ = (ء م ن) امانتیں	الْقَوَا = (ل ق ی) (1) تم ڈالو
أَمَانَةٌ = (ء م ن) امانت	الْقَوَا = (ل ق ی) (1) وہ ڈالے گئے
أَمَانِيٌّ = (م ن ی) جھوٹی تمنا میں	الْقِي = (ل ق ی) (1) وہ ڈالا گیا
إِمَاءٌ كُحْمٌ = (ء م و) لوٹھیاں تمہاری	الْقِي = (ل ق ی) (1) میں ڈالوں گا
أَمَةٌ = (ء م و) لوٹھی	الْقِيَا = (ل ق ی) (1) تم دونوں ڈالو
أُمَّةٌ = (ء م م) جماعت۔ امت۔ طریقہ۔ مدت	الْقِيَّتُ = (ل ق ی) (1) میں نے ڈالا
إِمْتَارُوا = (م ی ز) (7) الگ ہو جاؤ	الْقِيْنَا = (ل ق ی) (1) ہم نے ڈالا

أَمْرُوًا = (م ر) (ن) انہوں نے حکم دیا	إِمْتَحَنَ = (م ح ن) (7) اس نے امتحان لیا
أَمْرُوًا = (م ر) (ن) ان کو حکم دیا گیا	إِمْتَحِنُوهُنَّ = (م ح ن) (7) تم ان عورتوں کا
إِضْرَاءُ = (م ر) (آدی	امتحان لو
إِمْسَاكُ = (م س ک) روکے رکھنا	أَمْتَعْتِكُمْ = (م ت ع) تمہارا ساز و سامان
إِمْسَحُوا = (م س ح) (ف) تم مسح کرو	أَمْتَعُكُنَّ = (م ت ع) (2) میں تمہیں فائدہ
أَمْسِكْ = (م س ک) (1) تو روکے رکھ	پہنچاؤں گا
أَمْسِكْ = (م س ک) (1) اس نے	أَمْتَعُهُ = (م ت ع) (2) میں اُسے فائدہ
روکے رکھا	دوں گا
أَمْسَكْتُمْ = (م س ک) (1) تم نے روکے	إِمْتَلَاتِ = (م ل ء) (7) تو بھر گئی
رکھا	أَمْتَنَا = (م و ت) (1) تو نے ہمیں موت دی
أَمْسَكْنَ = (م س ک) (1) انہوں	أَمْتَالُ = (م ث ل) مثالیں
(موت) نے روکے رکھا	أَمْتَالُهُمْ = (م ث ل) ان میں سے بہتر
أَمْسِكُوا = (م س ک) (1) تو روکے رکھو	أَمْدُ ذُنُكُمُ = (م و د) (1) ہم نے تمہاری مدد کی
أَمْسَاجُ = (م ش ج) ملا ہوا	أَمْدًا = (م و د) (1) اس نے مدد کی
إِمْشُوا = (م ش ی) (ض) تم چلو	أَمْرٌ = (م ر) (ن) بہت تلخ ترنا گوار
إِمْضُوا = (م ض ی) (ن-ض) تم چلے جاؤ	أَمْرٌ = (م ر) (ن) تجھے حکم دیا گیا
أَمْضِي = (م ض ی) (ن-ض) میں چلا	أَمْرٌ = (م ر) (ن) مجھے حکم دیا گیا
جاؤں گا	أَمْرٌ = (م ر) (ن) میں نے حکم دیا
أَمْطِرُ = (م ط ر) (ن-ض) (1) تو برسا	أَمْرٌ = (م ر) (ن) تو نے حکم دیا
دے	أَمْرُنَا = (م ر) (ن) ہم نے حکم دیا
أَمْطِرْتُ = (م ط ر) (1) برساتی گئی	أَمْرَنَا = (م ر) (ن) اس نے حکم دیا ہم کو
أَمْطَرْنَا = (م ط ر) (1) ہم نے بارش	أَمْرَنَا = (م ر) (ن) ہمیں حکم دیا گیا

اُمُورٍ = (ع م ر) کام (جمع)	برسائی
اُمَّةٌ = (ع م م) اس کی ماں	اَمْعَاءُ هُمْ (م ع ی) انتزاعیاں اُن کی
اُمَّهَاتٌ = (ع م م) مائیں	اُمْكُتُوا = (م ک ث) (ن) تم ٹھہرو
اَمْهَلٌ = (م ه ل) (1) تو مہلت دے	اَمْكَنَ = (م ک ن) (1) اس نے پکڑوایا
اُمِّيٌّ = (ع م م) اُمّی۔ اُن پڑھ	قابو میں دیا
اُمِيْتُ = (م و ت) (1) میں مارتا ہوں	اَمْلِيٌّ = (م ل ی) (1) اس نے ڈھیل دلائی
اَمِيْنٌ = (ع م ن) امانت دار	اِمْلَاقٌ = (م ل ق) تنگ دستی
اُمِّيُوْنَ = (ع م م) اُن پڑھ (جمع)	اَمْلِكُ = (م ل ک) (ض) میں مالک
اُمِّيِيْنَ = (ع م م) اُن پڑھ (جمع)	ہوں/میں اختیار رکھتا ہوں
ع ن	اَمْلَنْتُ = (م ل ن) (ف) ضرور میں بھردوں گا
اَنَابٌ = (ن و ب) (1) اس نے رجوع کیا	اَمْلِيٌّ = (م ل ی) (1) میں مہلت دوں گا
اَنَابُوا = (ن و ب) (1) انہوں نے رجوع کیا	اَمْلِيْتُ = (م ل ی) (1) میں نے مہلت دی
اِنَاثٌ = (ع ن ث) عورتیں	اَمِنْتُ = (ع م ن) (س) میں نے اعتبار کیا
اَنَاسٌ = (ع ن س) لوگ	اَمِنْتُمْ = (ع م ن) (س) تم امن میں ہوئے
اَنَاسِيٌّ = (ع ن س) لوگ	اَمِنُّنَّ = (م م ن) (ن) تو احسان کر
اَنَامٌ = (ع ن م) مخلوق	اَمِنُوا = (ع م ن) (س) وہ امن میں ہو گئے
اِنَّهُ = (ع ن ی) اس کا پکنا	اَمِنِّيْتَهُ = (م ن ی) اس کی آرزو
اَنَامِلٌ = (ن م ل) انگلیاں	اَمِنِيْنَهُمْ = (م ن ی) (2) میں ان کو ضرور
اَنْبَاءٌ = (ن ب ع) خبریں	امید دلاؤں گا
اَنْبَاءٌ = (ن ب ع) (1) اس نے خبر دی	اَمْوَاتٌ = (م و ت) مردے
اَنْبَتٌ = (ن ب ت) (1) اس نے اُگایا۔	اَمْوَالٌ = (م و ل) مال (جمع)
	اَمْوُتٌ = (م و ت) (ن) میں مرتا ہوں

اِنْتَظِرُوا = (ن ظ ر) (7) تم انتظار کرو

اِنْتِقَامٌ = (ن ق م) بدلہ

اِنْتَقَمْنَا = (ن ق م) (7) ہم نے بدلہ لیا

اِنْتَهَى = (ن ہ ی) (7) وہ باز آ گیا

اِنْتَهَوْا = (ن ہ ی) (7) وہ باز رہیں

اِنْتَهَوْا = (ن ہ ی) (7) تم باز رہو

اُنْتَى = (ع ن ث) عورت۔ مادہ

اُنْتَيْنِ = (ع ن ث) دو مادہ

اَنْجَلِكُمْ = (ن ج و) (1) اس نے نجات

دی تمہیں

اَنْجَلَيْتَنَا = (ن ج و) (1) تو نے ہمیں نجات

دی

اِنْجِيلٌ = (ن ج ل) انجیل

اَنْجَيْنَا = (ن ج و) (1) ہم نے نجات دی

اِنْحَوْ = (ن ح ر) (ف) تو قربانی کر

اَنْذَاذًا = (ن ذ و) حریف شریک (جمع)

اَنْذَرٌ = (ن ذ ر) (1) اس نے ڈرایا

اَنْذِرٌ = (ن ذ ر) تو ڈرا

اَنْذِرٌ = (ن ذ ر) (1) وہ ڈرایا گیا

اَنْذَرْتُ = (ن ذ ر) (1) میں نے ڈرایا

اَنْذَرْتُ = (ن ذ ر) (1) تو نے ڈرایا

اَنْذِرُ = (ن ذ ر) (1) میں ڈراتا ہوں

وہ اُگے

اَبْتٌ = (ن ب ت) (1) اس نے اگایا

اَبْتْنَا = (ن ب ت) (1) ہم نے اُگایا

اِنْبَجَسْتُ (ب ج س) (6) وہ پھوٹ

نکلی۔

اِنْبِذٌ = (ن ب ذ) (ض) تو پھینک دے

اِنْبِعَالَهُمْ = (ب ع ث) (6) اُن کا اٹھنا

جانا

اَبْنَا = (ن ی ب) (1) ہم نے زرجوع کیا

اَبَّءٌ = (ن ب ء) (2) میں خبر دوں

اَبْسُونِي = (ن ب ء) (1) تم مجھے خبر دو

بتاؤ

اَبْتُهُمْ = (ن ب ء) (1) تو اُن کو بتا

اَبِيَاءٌ = (ن ب ء) انبیاء۔ نبی (جمع)

اِنْبَدْتُ = (ن ب ذ) (7) وہ الگ ہو گئی

اِنْتَرْتُ = (ن ت ر) (7) وہ جھمڑ بکھر گئی

اِنْتَشِرُوا = (ن ش ر) (7) تم پھیل جاؤ

اِنْتَصَرٌ = (ن ص ر) (7) اس نے بدلہ لیا

اِنْتَصِرٌ = (ن ص ر) (7) تو بدلہ لے

اِنْتَصَرُوا = (ن ص ر) (7) انہوں نے بدلہ

لیا

اِنْتَظِرٌ = (ن ظ ر) (7) تو انتظار کر

أَنْشُرَ = (ن ش ر) (1) اس نے زندہ کیا
أَنْشُرُوا = (ن ش ز) (ن ض) تم اُنھ کھڑے

ہو

أَنْشَقَّ = (ش ق ق) (6) وہ پھٹ گیا
أَنْشَقَّتْ = (ش ق ق) (6) وہ پھٹ گئی
أَنْشَأَ = (ن ش ء) (1) اس نے پیدا کیا
أَنْشَأْتُمْ = (ن ش ء) (1) تم نے پیدا کیا
أَنْشَأْنَا = (ن ش ء) (1) ہم نے پیدا کیا
أَنْصَابٌ = (ن ص ب) (مورتیاں۔ بت
(جمع)

أَنْصَارُ = (ن ص ر) مددگار (جمع)
أَنْصَبَ = (ن ص ب) (س) تو سخت کر
أَنْصَبُوا = (ن ص ت) (1) تم خاموش رہو
أَنْصَحُ = (ن ص ح) (ف) میں نصیحت کرتا

ہوں

أَنْصَرَفُوا = (ص ر ف) (6) وہ پھر گئے
أَنْصَرْنَا = (ن ص ر) (ن) تو مدد کر ہماری
أَنْصَرْنِي = (ن ص ر) (ن) تو مدد کر میری
أَنْصُرُوا = (ن ص ر) (ن) تم مدد کرو
أَنْطَقَ = (ن ط ق) (1) اس نے بولنے کی

طاقت دی

أَنْطَلَقَ = (ن ط ل ق) (6) وہ چلا

أَنْذَرْنَا = (ن ذ ر) (1) ہم نے ڈرایا
أَنْذِرُوا = (ن ذ ر) (1) تم ڈراؤ
أَنْذِرُوا = (ن ذ ر) (1) وہ ڈرائے گئے
أَنْزَلَ = (ن ز ل) (1) اس نے اتارا
أَنْزِلُ = (ن ز ل) (1) تو اتار
أَنْزِلُ = (ن ز ل) (1) وہ اتارا گیا
أَنْزِلْتُ = (ن ز ل) (1) تو نے اتارا
أَنْزِلْتُ = (ن ز ل) (1) میں نے اتارا
أَنْزِلْتُ = (ن ز ل) (1) وہ نازل کی گئی
أَنْزِلْتُمُوهُ = (ن ز ل) (تم نے نازل کیا اُسے
أَنْزَلْنَا = (ن ز ل) (1) ہم نے نازل کیا
أَنْسَابٌ = (ن س ب) نسب۔ رشتہ داریاں
إِنْسَانٌ = (ء ن س) انسان
أَنْسِيئُهُ = (ن س ي) (1) اس نے مجھے بھلاوا

دیا

أَنْسَهُ = (ن س ي) (1) اس نے اُسے بھلا دیا
إِنْسَلَخَ = (س ل خ) (6) وہ نکل کر گزر گیا
أَنْسَوُكُمْ = (ن س ي) (1) انہوں نے
تمہیں بھلا دیا

إِنْسِيًّا = (ء ن س) انسان۔ آدمی

إِنْشَاءٌ = (ن ش ء) پیدا کرنا۔ پرورش کرنا
أَنْشَرْنَا = (ن ش ر) (1) ہم نے زندہ کر دیا

اِنْفِرُوا = (ن فر) (ن ض) تم بھاگو
 اِنْفُسُ = (ن فس) جانیں
 اِنْفِصَامٌ = (ف ص م) ٹوٹنا
 اِنْفِضُوا = (ف ض ض) (6) وہ منتشر ہو جائے

اِنْفَطَرْتُ = (ف ط ر) وہ پھٹ گئی
 اِنْفَقَ = (ن ف ق) اس نے خرچ کیا
 اِنْفَقْتُ = (ن ف ق) تو نے خرچ کیا
 اِنْفَقْتُمْ = (ن ف ق) تم نے خرچ کیا
 اِنْفَقُوا = (ن ف ق) انہوں نے خرچ کیا
 اِنْفِقُوا = (ن ف ق) تم خرچ کرو
 اِنْفَلَقَ = (ن ف ل ق) (6) وہ پھٹ گیا
 اِنْقَدَّ = (ن ق ذ) (1) اُس نے بچایا
 اِنْقُصُ = (ن ق ص) تو کم کر
 اِنْقُضُ = (ن ق ض) (1) اس نے توڑا اور جھکا

دیا

اِنْقَلَبَ = (ق ل ب) (6) وہ پھر لوٹا
 اِنْقَلَبْتُمْ = (ق ل ب) (6) تم پھر گئے
 اِنْقَلَبُوا = (ق ل ب) (6) وہ لوٹ کر آئے
 اِنْكَاثًا = (ن ک ث) ٹکڑے ٹکڑے
 اِنْكَاآلًا = (ن ک ل) بیڑیاں
 اِنْكِحَ = (ن ک ح) (1) میں نکاح کر دوں

اِنطَلَقًا = (ط ل ق) (6) وہ دونوں چلے
 اِنطَلَقْتُمْ = (ط ل ق) (6) تم چلے
 اِنطَلَقُوا = (ط ل ق) (6) وہ چلے
 اِنطَلِقُوا = (ط ل ق) (6) تم چلے
 اِنظُرُ = (ن ظ ر) (ن س) میں دیکھتا ہوں
 اِنظُرُ = (ن ظ ر) (ن س) تو دیکھ
 اِنظُرُ = (ن ظ ر) (1) تو مہلت دے
 اِنظُرُوا = (ن ظ ر) (ن س) تم دیکھو
 اِنظُرِي = (ن ظ ر) تو (مونث) دیکھ
 اِنْعَامٌ = (ن ع م) مویشی۔ چوپائے
 اِنْعَمَ = (ن ع م) (1) اس نے انعام کیا
 اِنْعَمَ = (ن ع م) نعمتیں
 اِنْعَمْتُ = (ن ع م) (1) تو نے انعام کیا
 اِنْعَمْتُ = (ن ع م) (1) میں نے انعام کیا
 اِنْعَمْنَا = (ن ع م) (1) ہم نے انعام کیا
 اِنْفَاقٌ = (ن ف ق) خرچ کرنا
 اِنْفَالٌ = (ن ف ل) مال غنیمت (جمع)
 اِنْفَجَرْتُ = (ن ج ر) (6) وہ پھوٹ نکلی
 اِنْفُخُ = (ن ف خ) (ن) میں پھونک مارتا ہوں
 اِنْفُخُوا = (ن ف خ) (ن) تم پھونک مارو
 اِنْفُدُوا = (ن ف ذ) (ن) تم نکل بھاگو

أُوتُوا = (ع ت ی) (1) وہ دیے گئے
 أُوتِيَ = (ع ت ی) (1) وہ دیا گیا
 أُوتِيَتْ = (ع ت ی) (1) تجھے دیا گیا
 أُوتِيَتْ = (ع ت ی) (1) اس (مونث) کو
 دیا گیا
 أُوتِيْتُمْ = (ع ت ی) (1) تمہیں دیا گیا
 أُوتِيْتُ = (ع ت ی) (1) مجھے دیا گیا
 أُوتِيْنِ = (ع ت ی) (1) مجھے ضرور دیا جائے گا
 أُوتِيْنَا = (ع ت ی) (1) ہمیں دیا گیا
 أُوتَانِ = (و ث ن) بت (جمع)
 أُوجِسَ = (و ج س) (1) اس نے محسوس کیا
 أُوجِفْتُمْ = (و ج ف) (1) تم نے گھوڑے
 دوڑائے
 أُوجِهَرُوا = (ج ه ر) (ف) خواہ تم پکار کر کہو
 أُوحِيَ = (و ح ی) (1) اس نے وحی بھیجی
 أُوحِيَ = (و ح ی) (1) اُسے وحی بھیجی گئی
 أُوحِيَتْ = (و ح ی) (1) ہم نے وحی بھیجی
 أُوحِيْنَا = (و ح ی) (1) ہم نے وحی بھیجی
 أُوْدِيَةٌ = (و د ی) وادیاں۔ میدان
 أُوْدُوا = (ع ذ ی) (1) وہ ستائے گئے
 أُوْدِيْ = (ع ذ ی) (1) وہ ستایا گیا
 أُوْدِيْنَا = (ع ذ ی) (1) ہمیں ستایا گیا

اُنْكِحُوا = (ن ك ح) (1) تم نکاح کر دو
 اُنْكِحُوا = (ن ك ح) (ف ض) تم نکاح
 کر لو
 اُنْكَدَرَ = (ك در) (6) وہ میلی ہوگئی۔ وہ
 بکھر گئی
 اُنْكَرَ = (ن ك ر) بہت ناپسندیدہ
 اِنَّهٗ = (ن ه ی) (ف) تو منع کر
 اَنْهَرُ = (ن ه ر) نہریں
 اَنْهَى = (ن ه ی) (ف) میں منع کرتا ہوں
 اَنْهَكُمَا = (ن ه ی) (ف) میں نے روکا تم
 دونوں کو
 اُنْيَبُ = (ن وب) (1) میں رجوع کرتا ہوں
 اُنْيَبُوا = (ن وب) (1) تم رجوع کرو
 ۶
 اَوَابٌ = (ء وب) رجوع کرنے والا
 اَوَابِيْنَ = (ء وب) رجوع کرنے والے
 اَوَارِيْ = (و ر ی) (3) میں چھپاؤں
 اَوَاهٌ = (ء و ہ) بہت آہ کرنے والا۔ نرم دل
 اَوْبَارٌ = (و ب ر) اُون۔ پشم
 اَوْبِيْ = (ء وب) (2) تو (مونث) رجوع کر
 اَوْتُ = (ع ت ی) (1) مجھے دیا گیا
 اَوْتَادًا = (و ت د) میخیں

أَوْقَدُوا = (وقد) (1) انہوں نے آگ

جلائی

أَوْلَىٰ = (ولی) زیادہ نزدیک

أَوْل = (ءول) پہلا۔ اول

أَوْلَىٰ = (ولی) نزدیک تر

أَوْلَىٰ = (ءول) پہلی

أَوْلِيَاكَ = (ءول) وہ لوگ

أَوْلَادُ = (ولد) اولاد

أَوْلُونَ = (ءول) پہلے لوگ

أَوْلِيَانِي = (ولی) پہلے دو آدمی

أَوْلِيَاءَ = (ولی) دوست۔ ساتھی

أَوْلِيَيْنِ = (ولی) پہلے لوگ

أَوْهَنَ = (وهن) زیادہ کمزور

أَوْيْنَا = (ءوی) ہم نے جگہ پکڑی

۵۶

أَهَانِنِ = (هون) (1) اس نے ذلیل کیا مجھے

أَهَبَ = (هوب) (ف) میں دوں

أَهْبَطُ = (هبط) (ض) تو اتر

أَهْبَطَا = (هبط) (ض) تم دونوں اترو

أَهْبَطُوا = (هبط) (ض) تم اترو

أَهْتَدَىٰ = (هدی) (7) اس نے ہدایت پائی

أَهْتَدُوا = (هدی) (7) انہوں نے ہدایت

أُورِثْتُمُوهَا (ورث) (1) تم وارث بنائے

گئے اس کے

أُورِثَ = (ورث) (1) اس نے وارث بنایا

أُورِثْنَا = (ورث) (1) ہم نے وارث بنایا

أُورِثُوا = (ورث) وہ وارث بنائے گئے

أُورِدَ = (ورد) (1) اس نے داخل کیا

أُورِزَارَ = (وزر) بوجھ۔ گناہ

أُورِغِنِي = (وزع) (1) تو توفیق دے مجھے

أَوْسَطُ = (وسط) درمیان۔ بہترین

أَوْضَيْتَنِي = (وصی) (1) اس نے مجھے

وصیت کی

أَوْضَعُوا = (وضع) (1) انہوں نے

گھوڑے دوڑائے

أَوْغَىٰ = (وعی) (1) اس نے حفاظت سے

رکھا

أَوْعَيْتَهُمْ = (وعی) ان کی بوریاں ربرتن

أَوْفٍ = (وفی) (1) تو پورا کر

أَوْفٍ = (وفی) (1) میں پورا کروں گا

أَوْفِي = (وفی) (1) میں پورا دیتا ہوں

أَوْفِي = (وفی) (1) اُس نے پورا کیا

أَوْفُوا = (وفی) (1) تم پورا کرو

أَوْقَدُوا = (وقد) (1) تو آگ جلا

نے اسے ہلاک کر دیا
 أَهْلَكْتُ = (ہل ک) (1) تو نے ہلاک کیا
 أَهْلَكْنَا = (ہل ک) (1) ہم نے ہلاک کیا
 أَهْلَكَ = (ہل ک) (1) اس نے ہلاک کیا
 أَهْلَكُوا = (ہل ک) (1) وہ ہلاک کیے گئے
 أَهَمَّتْهُمْ = (ہم م) (1) اس (مونث) نے

اُن کو فکر میں ڈال دیا

أَهْوَى = (ہوی) اس نے پھینک مارا

أَهْوَأَ = (ہوی) خواہش

أَهْوَنُ = (ہون) بہت آسان

۶۶

أَتَيْتُ = (آت ی) (ض) تو آؤ۔ تو لے آؤ

أَتَمَّرُوا = (آم ر) (7) تم مشورہ کر لو۔

أَتَمَّنْ = (آم ن) (7) اس کو امین بنایا گیا

اعتبار کیا گیا

أَتَمُّوا = (آت ی) (ض) تم آؤ۔ تم لاؤ

أَتَيْتَا = (آت ی) (ض) تم دونوں آؤ

أَتَدُّنْ = (عذ ن) (س) تو اجازت دے

أَتَدُّنَا = (عذ ن) (س) تم اجازت دو

أَتَمَّهْ = (آم م) امام۔ پیشوا (جمع)

أَتَمَّرْ = (آم ر) (ن) تو حکم دے

أَتَوَا = (عو ی) (ص) تم پتہ لے لو

پائی

أَهْتَدَيْتُ = (ہدی) (7) میں نے ہدایت

پائی

أَهْتَدَيْتُمْ = (ہدی) (7) تم نے ہدایت پائی

أَهْتَزَّتْ = (ہز ز) (7) وہ حرکت کرتی ہے۔

وہ جھومتی ہے

أَهْجُرُ = (ہج ر) (ن) تو چھوڑ دے

أَهْجُرُوا = (ہج ر) (ن) تم چھوڑ دو

أَهْدَى = (ہدی) زیادہ ہدایت پانے والا

أَهْدِ = (ہدی) (ض) میں ہدایت دیتا ہوں

أَهْدِنَا = (ہدی) (ض) تو ہدایت دے ہم کو

أَهْدُوهُمْ = (ہدی) (ض) تم ان کو راستہ

دکھاؤ

أَهْدِيْ = (ہدی) (ض) میں ہدایت دیتا

ہوں

أَهْشُّ = (ہش ش) (ن) میں پتے جھاڑتا

ہوں

أَهْلٌ = (ہل ل) (1) وہ پکارا گیا

أَهْلَةٌ = (ہل ل) نئے چاند (جمع)

أَهْلَكْتُ = (ہل ک) (1) میں نے ہلاک

کیا

أَهْلَكْتُهُ = (ہل ک) (1) اُس (مونث)

ب

بَابُ = (ب و ب) دروازہ

بَاخِعٌ = (ب خ ع) ہلاک کرنے والا

بَادٍ = (ب و د) بادیہ نشین۔ صحرائین

بَادُونَ = (ب و د) بادیہ نشین۔ جنگل میں

رہنے والے

بَادِيٌّ = (ب و د) ظاہری

بَارِدٌ = (ب و ر) ٹھنڈا

بَارِزَةٌ = (ب و ز) ظاہر۔ کھلی ہوئی

بَارِزُونَ = (ب و ز) ظاہر ہونے والے

بَرَكٌ = (ب و ر ک) (3) اس نے برکت دی

بَارِيٌّ = (ب و ر) باری تعالیٰ۔ پیدا کرنے والا

بَارِغٌ = (ب و ر غ) چمکتا ہوا۔ روشن

بَارِغَةٌ = (ب و ر غ) چمکتی ہوئی۔ روشن

بَاسِرَةٌ = (ب و س ر) پریشان۔ اُداس۔ بے

روفق

بَاسِطٌ = (ب و س ط) پیلانے والا

بَاسِطُونَ = (ب و س ط) پھیلانے والے

بَسِيفٌ = (ب و س ق) بلند۔ لمبی لمبی

بَاشِرٌ وَهَنَّ = (ب و ش ر) (3) تم ان

(عورتوں) سے مباشرت کرو

بَاطِلٌ = (ب و ط ل) باطل۔ جھوٹا

ءِی

إِيَابُهُمْ = (ءِ و ب) اُن کا واپس آنا

أَيَّامٌ = (ءِ و م) دن (جمع)

أَيَّامِيٌّ = (ءِ و م) بغیر بیوی کے مرد۔ بغیر

شوہر کے عورت

إِيْتَاءٌ = (ءِ و تِ) (1) دینا۔ ادا کرنا

إِيْتُونِي = (ءِ و تِ) (ض) تم میرے پاس

آؤ اور لاؤ

أَيُّذُكَ = (ءِ و ذ) (2) میں نے تیری

تائیدِ مدد کی

أَيِّدٌ = (ءِ و د) طاقت۔ زور

أَيِّدٌ = (ءِ و د) (2) اس نے تائیدِ مدد کی

أَيِّدْنَا = (ءِ و د) (2) ہم نے مدد کی

أَيِّدِيٌّ = (ءِ و دِ) ہاتھ (جمع)

أَيْقَاطًا = (ءِ و ق ط) جاگنے والے

أَيِّكَةٍ = (ءِ و ك) ایک۔ جنگل

إِيْلَفٌ = (ءِ و ل ف) مانوس رکھنا۔ اُلُفَّت دِلَانَا

أَيِّمَانٌ = (ءِ و م ن) قسمیں۔ دائیں ہاتھ

(جمع)

إِيْمَانٌ = (ءِ و م ن) ایمان

أَيِّمَنٌ = (ءِ و م ن) دائیں جانب۔ برکت والا

بَدَتْ = (ب دی) (ن) وہ ظاہر ہوئی

بَدَّل = (ب دل) (2) اس نے بدلا

بَدَّلْنَا = (ب دل) (2) ہم نے بدلا

بَدَّلُوا = (ب دل) (2) انہوں نے بدلا

بَدَّلَهُ = (ب دل) (2) تو بدل دے اُس کو

بَدِيعُ = (ب د ع) ایجاد کرنے والا

ب ر

بَرَاءُ = (ب ر ء) بیزار ہونا

بِرَاءَةٌ = (ب ر ء) بیزاری۔ نفرت۔ خلاصی

بَرَزَ = (ب ر ر) نیک لوگ

بُرُزَتْ = (ب ر ز) وہ ظاہر کی گئی

بُرُزْخٌ = (ب ر ز خ) پردہ۔ اوٹ

بَرَكْتُ = (ب ر ک) برکتیں

بُرُوجًا = (ب ر ج) بڑے بڑے ستارے

بُرْهَانٌ = (ب ر ه) دلیل

بُرْهَانِيْنٌ = (ب ر ه) دو دلیلیں

بُرَاءٌ = (ب ر ء) بیزار ہونے والے

بِرَاءَةٌ = (ب ر ء) (2) اس نے اُس کو بری کر

دیا

بِرِيَّةٌ = (ب ر ء) مخلوق

بِرِيءٌ = (ب ر ء) بیزار۔ لاطلق

بِرِيوُنٌ = (ب ر ء) بیزار۔ بے تعلق (جمع)

بَاطِنٌ = (ب ط ن) پوشیدہ۔ چھپا ہوا

بِعْدٌ = (ب ع د) (3) تو دُور کر دے

بَاغٌ = (ب غ ی) سرکش۔ باغی

بَاقٍ = (ب ق ی) باقی۔ باقی رہنے والا

بَقِيْتُ = (ب ق ی) باقی رہنے والیاں

بَاقِيَةٌ = (ب ق ی) باقی رہنے والی

بَقِيْنٌ = (ب ق ی) باقی رہنے والے

بَالِغٌ = (ب ل غ) پہنچنے والا

بَالِغَةٌ = (ب ل غ) پہنچنے والی

بَلِغُوهُ = (ب ل غ) پہنچنے والے اُس تک

بَلِغِيْهِ = (ب ل غ) پہنچنے والے اُس تک

بَاءٌ = (ب و ء) (ن) وہ پھرا۔ وہ لوٹا

بَائِسٌ = (ب ء س) بد حال۔ تنگ دست

بَاءٌ وَا = (ب و ء) انہوں نے کمایا۔ وہ پھرے

بَايَعُهُنَّ = (ب ی ع) تو بیعت کر اُن عورتوں

کی

ب ح

بِحَارٌ = (ب ح ر) سمندر (جمع)

بَحِيْرَةٌ = (ب ح ر) بتوں کا نام پر چھوڑا ہوا

جانور

ب د

بَدَأَ = (ب د ی) (ن) وہ ظاہر ہو گیا

نے دیکھا

بَصُطَةٌ = (ب س ط) وسعت۔ کشادگی

بَصِيرٌ = (ب ص ر) دیکھنے والا

بَصِيرَةٌ = (ب ص ر) عقل۔ عبرت۔ روشن

دلیل

بض

بِضَاعَةٌ = (ب ض ع) سرمایہ۔ رقم

بط

بِطَانَةٌ = (ب ط ن) دلی دوست۔ راز دار

بِطَانُهَا = (ب ط ن) (س) اُس کے استر

بِطْرٌ = (ب ط ر) (س) وہ اکڑنے لگی

بِطْشَةٌ = (ب ط ش) پکڑ۔ گرفت

بِطْشْتُمْ = (ب ط ش) (ض۔ ن) تم نے

پکڑا

بِطُونٌ = (ب ط ن) پیٹ۔ یطن (جمع)

بع

بُعَيْرٌ = (ب ع ث ر) (10) وہ زندہ کیا گیا

بُعَيْرٌ = (ب ع ث ر) (10) وہ زندہ کی

گئی

بُعْثَانٌ = (ب ع ث) ہم نے بھیجا۔ مقرر کیا

بِعْدَتْ = (ب ع د) (س) ہلاک ہوئی

بِعْدَتْ = (ب ع د) (ن) دور ہوئی

بس

بِسَاطًا = (ب س ط) بچھونا۔ فرش

بُسْتٌ = (ب س ن) (ن) وہ ریزہ ریزہ کر

دی گئی

بَسُطٌ = (ب س ط) (ن) تو نے بڑھایا

درازا کیا

بُسْطَةٌ = (ب س ط) کشادگی۔ وسعت

بش

بُشْرٌ = (ب ش ر) (2) اُسے خوشخبری دی گئی

بُشْرٌ = (ب ش ر) (2) تو خوشخبری دے

بُشْرًا = (ب ش ر) (2) خوشخبری

بُشْرٌ مُؤْنِي = (ب ش ر) (2) تم نے خوشخبری

دی مجھے

بُشْرُنَا = (ب ش ر) (2) ہم نے خوشخبری دی

بُشْرُوهُ = (ب ش ر) (2) انہوں نے

خوشخبری دی اُسے

بُشْرَيْنِ = (ب ش ر) دو بشر۔ دو انسان

بُشَيْرٌ = (ب ش ر) خوشخبری دینے والا

بص

بَصَائِرٌ = (ب ص ر) روشن دلیلیں

بَصْرَةٌ = (ب ص ر) (ک) میں نے دیکھا

بَصْرَةٌ = (ب ص ر) (ک) اس عورت

بَلَّغٌ = (ب ل غ) پہنچانا
 بَلَاءٌ = (ب ل و) آزمائش
 بَلَّغٌ = (ب ل غ) (2) تو پہنچا
 بَلَّغْتُ = (ب ل غ) (2) تو نے پہنچایا
 بَلَوْنَا = (ب ل و) (2) ہم نے آزمایا
 بَلَّغْنَا = (ب ل غ) پہنچنے والا۔ اثر کرنے والا

ب ن

بَنَاتٍ = (ب ن و) بیٹیاں
 بَنَانٌ = (ب ن و) پوریں۔ جوڑ (جمع)
 بِنَاءٌ = (ب ن ن) چھت۔ بنیاد
 بِنَائِيٌّ = (ب ن ی) معمار۔ عمارت بنانے والا
 بَنُوْا = (ب ن ی) (ض) انہوں نے بنایا
 بَنُوْنَ = (ب ن و) بیٹے
 بَنِيَانٌ = (ب ن ی) عمارت
 بَنِيْنٌ = (ب ن و) بیٹے
 بَنِيْنَا = (ب ن ی) (ض) ہم نے بنایا

ب و

بَوَارٍ = (ب و ر) ہلاکت بربادی
 بُورًا = (ب و ر) ہلاک ہونے والے
 بُورِكَ = (ب ر ک) (3) وہ برکت دیا گیا
 بَوَاتُكُمُ = (ب و ع) (2) اس نے ٹھکانا دیا

تمہیں

بُعُوْضَةٌ = (ب ع ض) چمھر
 بُعُوْثِيْنَ = (ب ع ل) اُن کے خاوند
 بَعِيْدًا = (ب ع د) دور
 بَعِيْرٌ = (ب ع ر) اونٹ

ب غ

بِغَالٍ = (ب غ ل) گنجر (جمع)
 بِيْغَاءٌ = (ب غ ی) بدکاری۔ زنا
 بَغْتٌ = (ب غ ی) اُس (مونث نے
 بغاوت سرکشی کی
 بَغْتَةٌ = (ب غ ت) اچانک
 بَعْضَاءٌ = (ب غ ض) بغض۔ نفرت
 بَغَوَا = (ب غ ی) (ض) انہوں نے
 بغاوت سرکشی کی
 بَقَرَاتٍ = (ب ق ر) گائیں۔ گائے (جمع)
 بَقْعَةٌ = (ب ق ع) مقام۔ زمین کا ٹکڑا
 بَقِيَّةٌ = (ب ق ی) باقی بچا ہوا۔ منافع
 بَكَّتْ = (ب ک ی) (ض) وہ روئی روویا
 بَكَّةٌ = (ب ک ک) مکہ مکرمہ کا پرانا نام
 بُكْرَةٌ = (ب ک ر) صبح کا وقت
 بُكِّيْنَا = (ب ک ی) روتے ہوئے۔ رونے
 والے
 بِلَادٌ = (ب ل د) شہر (جمع)

بُيُوتٌ = (ب ی ت) گھر (جمع)

ت

تَابٌ = (ت و ب) (ن) اس نے توبہ کی۔ وہ

مہربان ہوا

تَابَا = (ت و ب) (ن) ان دونوں نے توبہ کی

تَابِعٌ = (ت ب ع) پیروی کرنے والا

تَبِعِينَ = (ت ب ع) پیروی کرنے والے

تَابُوا = (ت و ب) (ن) انہوں نے توبہ کی

تَارَةً = (ت و ر) ایک مرتبہ۔ ایک دفعہ

تَارِكٌ = (ت ر ک) چھوڑنے والا

تَارِكُوا = (ت ر ک) چھوڑنے والے

تَارِكِيٌّ = (ت ر ک) چھوڑنے والے

تَلِيَّتٌ = (ت ل و) تلاوت کرنے والیاں

تَلَيْتٌ = (ت و ب) توبہ کرنے والیاں

تَأْتِيُونَ = (ت و ب) توبہ کرنے والے

ت ب

تُبٌ = (ت و ب) (ن) تو توبہ کر۔ تو مہربان

ہو

تَبَابٌ = (ت ب ب) بربادی۔ ہلاکت

تَبَارٌ = (ت ب ر) بربادی۔ ہلاکت

تَبْرَكٌ = (ت ر ک) بابرکت

تَبَاشِرُوهُنَّ (ب ش ر) (3) تم ان

بَوَانَا = (ب و ا) ہم نے ٹھکانا دیا

بُهْتَانٌ = (ب ہ ت) بہتان۔ جھوٹا الزام

بَهْجَةٌ = (ب ہ ج) رونق۔ تازگی

بَهْجٌ = (ب ہ ج) بارونق۔ تروتازہ

بَهِيمَةٌ = (ب ہ م) جانور

ب

بِأَسَاءٍ = (ب ا س) تنگ دلی۔ مفلسی

بَيْسٌ = (ب ا س) سخت برا

ب ی

بَيَاتٌ = (ب ی ت) رات کے وقت

بَيَانٌ = (ب ی ا ن) بیان۔ وضاحت

بَيِّتٌ = (ب ی ت) (2) اس نے رات

گزاری

بَيْضَاءٌ = (ب ی ض) سفید (مونث)

بَيْعٌ = (ب ی ع) گرجا گھر

بَيْنٌ = (ب ی ا ن) (ظاہر۔ واضح)

بَيْنًا = (ب ی ا ن) (2) ہم نے کھول کر بیان

کیا

بَيْنَتْ = (ب ی ا ن) واضح رکھ لی نشانیاں

بَيْنَةٌ = (ب ی ا ن) واضح نشانی

بَيْنُوا = (ب ی ا ن) (2) انہوں نے واضح کر

دیا

تَبْدِيلٌ = (ب دل) تبدیل کرنا	(عورتوں) سے مباشرت کرو
تُبْدِرُ = (ب ذر) (2) تو فضول خرچی کر	تَبَايَعْتُمْ = (ب ی ع) (5) تم نے خریدو
تُبْدِرُوا = (ب ذر) (2) فضول اڑانا	فروخت کی
تَبْرُجُ = (ب رج) (4) نمائش کرنا	تَبَيْتُ = (ت ب ب) ٹوٹ گئی
تَبْرُنَا = (ت ب ر) (2) ہم نے ہلاک کیا	تَبَيْتُ = (ت و ب) (ن) میں نے توہم کی
تَبْرُوا = (ب رر) (س) تم نیکی کرتے ہو	تَبْتَهَوْا = (ب غ ی) (7) تم چاہو تلاش کرو
تَبْرَأُ = (ب رء) (4) وہ بیزار الگ ہوا	تَبْتَهَوْنَ = (ب غ ی) (7) تم چاہتے ہو
تَبْرِيءُ = (ب رء) (1) تو تندرست کرتا ہے	تَبْتَهِيءُ = (ب غ ی) (7) تو چاہتا ہے
تَبْرَأْنَا = (ب رء) (4) ہم بیزار الگ ہوئے	تَبْتَلُّ = (ب ت ل) (4) تو سب سے الگ ہو جا
تَبْرَأُوا = (ب رء) (4) وہ بیزار ہوئے	تَبْتُمُّ = (ت و ب) (ن) تم نے توہم کی
تَبْسُطُ = (ب س ط) (ن) تو کشادہ کرتا ہے	تَبْتَسُّ = (ب ء س) (7) تو غمگین ہوتا ہے
تَبْسَلُ = (ب س ل) (1) وہ عذاب میں پھنس جائے۔	تَبْتِيَلًا = (ب ت ل) سب سے الگ ہونا
تَبْسَمُ = (ب س م) (4) وہ مسکرایا	تَبْتَحْسُوا = (ب خ س) (ف) تم کم دو
تَبْشِرُ = (ب ش ر) (2) تو خوشخبری دے	تَبْتَحْلُوا = (ب خ ل) (س ک) تم بخل کرتے ہو
تَبْشِرُونَ = (ب ش ر) (2) تم خوشخبری دیتے ہو	تَبْدُ = (ب دی) (1) وہ ظاہر کی جائے
تَبْصِرُ = (ب ص ر) (1) تو دیکھے گا	تَبْدَلُ = (ب دل) (1) تو بدل دے
تَبْصِرَةٌ = (ب ص ر) دکھانا سمجھانا	تَبْدَلُ = (ب دل) (1) وہ تبدیل کی جائے گی
تَبْطَلُوا = (ب ط ل) (1) تم ضائع کرو	تَبْدُوا = (ب دی) (1) تم ظاہر کرو
تَبْعُنَّ = (ب ع ث) (ف) تم ضرور اٹھائے	تَبْدُونَ = (ب دی) (1) تم ظاہر کرتے ہو
	تَبْدِي = (ب دی) (1) وہ ظاہر کرتی ہے

تَبَوَّأَ = (ب وء) (4) تم دونوں جگہ دو
تَبَهَّتُهُمْ = (ب ہ ت) (س-ک) وہ ان کو
بے ہوش کر دے گی

تَبَيَّنَّا = (ب ی ن) بیان۔ وضاحت
تَبَيَّدَ = (ب ی د) (ض) وہ برباد ہوگی
تَبَيَّضُ = (ب ی ض) (8) وہ سفید ہوگی
تَبَيَّعَا = (ت ب ع) مددگار۔ پیروی کرنے
والا

تَبَيَّنَ = (ب ی ن) (4) وہ ظاہر ہو گیا
تَبَيَّنَ = (ب ی ن) (2) تو بیان کر دے
تَبَيَّنَتْ = (ب ی ن) (4) وہ ظاہر ہو گئی
تَبَيَّنْنَاهُ = (ب ی ن) (2) تم اسے ضرور
بیان کرو گے

تَبَيَّنُوا = (ب ی ن) (4) تم بیان رظاہر کرو

ت ت

تَبَدَّلُوا = (ب د ل) (4) تم تبدیل کرو
تَتَّبِعْ = (ت ب ع) (7) تو پیروی کر
تَتَّبِعْ = (ت ب ع) (7) تو پیروی کر
تَتَّبِعْنِ = (ت ب ع) (7) تم دونوں ضرور
پیروی کرنا

تَتَّبِعُوا = (ت ب ع) (7) تم پیروی کرو
تَتَّبِعُونْ = (ت ب ع) (7) تم پیروی

جاؤ گے

تَبَعُونْ = (ب ع ث) (ف) تم اٹھائے جاؤ
گے

تَبِعْ = (ب غ ی) (ض) تو چاہے

تَبِعُوا = (ب غ ی) (ض) تم چاہتے ہو

تَبِعُونَ = (ب غ ی) (ض) تم بتتے ہو

تَبِغِي = (ب غ ی) (ض) تو چاہتا ہے

تَبِغِي = (ب ق ی) (1) وہ باقی چھوڑتی ہے

تَبْكُونْ = (ب ک ی) (ض) تم روتے ہو

تَبْلِي = (ب ل و) (س-ن) وہ آزمائے

جائے گی

تَبْلُغْ = (ب ل غ) (ن) تو پہنچتا ہے

تَبْلُغُوا = (ب ل غ) (ن) تم پہنچتے ہو

تَبْلُوا = (ب ل و) (س-ن) وہ آزمائے گی

تَبْلُونْ = (ب ل و) (س-ن) تم ضرور

آزمائے جاؤ گے

تَبْنُونْ = (ب ن ی) (ض) تم بناتے ہو

تَبْوَرْ = (ب و ر) (ن) وہ ہلاک ہوگی

تَبْوَاءْ = (ب و ء) (ن) تو کمائے حاصل

کرے

تَبَوَّءْ = (ب و ء) (4) انہوں نے جگہ پکڑی

تَبَوَّئِي = (ب و ء) (2) تو جگہ ٹھکانا دیتا ہے

تَفَكَّرُونَ (ف ک ر) (4) تم غور و فکر

کرتے ہو

تَقَلَّبُ (ق ل ب) (4) وہ پلٹ رہے

جاتی

تَقْوًا = (وق ی) (7) تم بچتے رہو

تَقْوَنَ = (وق ی) (7) تم بچتے ہو

تَكْبِيرًا = (ک ب ر) (4) تو تکبر کرے

تَتَلَّى = (ت ل و) (ن) وہ پڑھی جاتی ہے

تَتَلَّقَى = (ل ق ی) (4) وہ ملے گی

تَتَلَّوْا = (ت ل و) (ن) تو پڑھتا تھا

تَتَلَّوْنَ = (ت ل و) (ن) تم پڑھتے ہو

تَتَمَارَى = (م ر ی) (5) تو جھگڑا شک کرتا

ہے

تَتَمَنَّا = (م ن ی) (4) تم تمنا کرو

تَتَنَاجَوْا = (ن ج و) (5) تم سرگوشی کرو

تَتَنَزَّلُ = (ن ز ل) (4) وہ اترتی ہے

تَتُوبَا = (ت و ب) (ن) تم دونوں توبہ کرتی

ہو

تَتَوَفَّهُمْ = (و ف ی) (4) وہ جان نکالتی ہے

اُن کی

تَتَوَلَّوْا = (و ل ی) (4) تم پھرو گے

کرتے ہو

تَبَعُهَا = (ت ب ع) (ف) وہ اس کے

پچھے آئے گی

تَبِيْبٌ = (ت ب ب) نقصان - ہلاکت

تَبِيْرًا = (ت ب ر) بربادی - ویرانی

تَتَجَافَى = (ج ف ی) (5) وہ الگ رہتی

ہے

تَتَخَذُ = (ع خ ذ) (7) تو لیتا پکڑتا ہے

تَتَخَذُ = (ع خ ذ) (7) تو لیتا اختیار کرنا ہے

تَتَخَذُوا = (ع خ ذ) (7) تو بناؤ پکڑو

تَتَخَذُونَ = (ع خ ذ) (7) تم بناتے ہو

تَذَكَّرُونَ (ذ ک ر) (4) تم نصیحت

پکڑتے ہو

تُتَرَا = (و ت ر) لگا تار

تُتَرَكُّوْا = (ت ر ک) (ن) تمہیں چھوڑ دیا

جائے گا

تُتَرَكُّوْنَ = (ت ر ک) (ن) تمہیں چھوڑ دیا

جائے گا

تُتَرَكُّهُ = (ت ر ک) (ن) تو اس کو چھوڑ دے

تَتَفَرَّقُوا = (ف ر ق) (4) تم الگ ہونے

لگو

تَفَكَّرُوا = (ف ک ر) (4) تم غور و فکر کرو

تث

تَثْبِيْتًا = (ث ب ت) (2) ثابت کرنا۔

برقرار رکھنا

تَثْرِيْبٌ = (ث ر ب) (2) الزام۔ ملامت

تَشَقُّفْنَهُمْ = (ث ق ف) (س) تو ان کو

پائے

تَثِيْرٌ = (ث و ر) وہ جوتی ہے

تج

تَجَادُلٌ = (ج د ل) (3) وہ جھگڑا کرتی ہے

تَجَادِلُوْا = (ج د ل) (3) تم جھگڑو

تَجَادِلُوْنَ = (ج د ل) (3) تم جھگڑا کرتے ہو

تِجَارَةٌ = (ت ج ر) (3) تجارت۔ لین دین

تُجَاهِدُوْنَ = (ج ه د) (3) تم جہاد کرتے ہو

تُجْتَبِئُوْا = (ج ن ب) تم بچو گے

تَجِدُّ = (و ج د) (ض) تو پاتا ہے

تَجِدَنَّ = (و ج د) (ض) تو ضرور پائے گا

تَجِدُوْا = (و ج د) (ض) تم پاؤ گے

تَجِدُوْنَ = (و ج د) (ض) تم پاتے ہو

تُجْرِمُوْنَ = (ج ر م) (1) تم جرم رگناہ

کرتے ہو

تَجْرِيْ = (ج ر ي) (ض) وہ بہتی ہے

تَجْرِيْنَ = (ج ر ي) (ض) وہ دونوں بہتی

ہیں

تُجْزِيْ = (ج ز ي) (ض) اُسے بدلہ دیا

جائے گا

تُجْزَوْنَ = (ج ز ي) (ض) تمہیں بدلہ دیا جا

تَجْزِيْ = (ج ز ي) (ض) وہ بدلہ دیتی ہے

تَجَسَّسُوْا = (ج س س) (4) تم جاسوسی کرو

تَجْعَلُ = (ج ع ل) (ف) تو بنائے گا

تَجْعَلُوْا = (ج ع ل) (ف) تم بناؤ گے

تَجْعَلُوْنَ = (ج ع ل) (ف) تم بناتے ہو

تَجَلِّيْ = (ج ل ي) (4) اس نے تجلی کی۔

وہ ظاہر ہوا

تَجْمَعُوْا = (ج م ع) (ف) تم جمع کرتے

ہو

تَجُوعٌ = (ج و ع) (ن) تو بھوکا رہتا ہے

تَجْهَرُ = (ج ه ر) (ف) تو پکارتا ہے

تَجْهَرُوْا = (ج ه ر) (ف) تم پکارتے ہو

تَجْهَلُوْنَ = (ج ه ل) (س) تم نادانی کرتے

ہو

تَجْسُرُوْا = (ج س ر) (ف) تم فریاد کرو۔ تم

چلاؤ

تَجْسُرُوْنَ = (ج س ر) (ف) تم فریاد کرتے

ہو

ت ح

تَحْرِصٌ = (ح رض) (ض) تو حرص راجح

کرتا ہے

تُحَوِّكُ = (ح رک) (2) تو حرکت دے

تُحَرِّمُ = (ح رم) (2) تو حرام قرار دیتا ہے

تُحَرِّمُوا = (ح رم) (2) تم حرام قرار دیتا

ہے

تَحَرَّوْا = (ح ری) (4) وہ چلے۔ انہوں

نے ارادہ کیا

تُحَرِّرُ = (ح رر) (2) آزاد کرنا

تَحْزَنُ = (ح زن) (س-ن) تم غم کھاتا

ہے

تَحْزَنُوا = (ح زن) (س-ن) تم غمگین ہو

تَحْزَنُونَ = (ح زن) (س-ن) تم غمگین

ہوتے ہو

تَحْزَنِي = (ح زن) (س-ن) تو غمگین

ہوتی ہے

تُحَسُّ = (ح سس) (1) تو محسوس کرتا ہے

تَحْسَبُ = (ح سب) (ح) تو گمان

خیال کرتا ہے

تَحْسِبَنَّ = (ح سب) (ح) تو ضرور خیال

کرے گا

تَحْسَبُوا = (ح سب) (ح) تم گمان

تَحَاجُّونَ = (ح جج) (3) تم جھگڑا

کرتے ہو

تَحْضُونُ = (ح ضض) (3) تم رغبت

دلاتے ہو

تُحَاوِرُكُمْ = (ح ور) تم دونوں کی گفتگو

تُحَبِّرُونَ = (ح بر) (ن) تمہیں خوشحال

کیا جائے گا

تَحْبِسُونَهُمَا = (ح بس) (ض) تم ان

دونوں کو قید رکھتے ہو

تَحْبِطُ = (ح بط) (س) وہ ضائع ہو

جائے

تُحِبُّوا = (ح بب) (1) تم پسند کرتے ہو

تُحِبُّونَ = (ح بب) (1) تم پسند کرتے

ہو

تُحَدِّثُ = (ح دث) (2) تو بیان کرتا ہے

تُحَدِّثُونَ = (ح دث) (2) تم بیان کرتے

ہو

تَحْذَرُونَ = (ح زر) (س) تم ڈرتے رہتے

ہو

تَحْرُثُونَ = (ح رث) (ن) تم کھیتی کرتے

ہو

تَحْكُمُونَ (ح ک م) (ن) تم فیصلہ کرتے

کرتے ہو

تَحْسَبُونَ (ح س ب) (ح) تم گمان

ہو

تَحِلُّ = (ح ل ل) (ض) وہ حلال ہوتی ہے

کرتے ہو

تَحُلُّ = (ح ل ل) (ن) وہ نازل ہوگی

تَحْسُدُونَ = (ح س د) (ن) تم ہم

سے حسد کرتے ہو

تَحِلَّةٌ = (ح ل ل) کھولنا۔ حلال کرنا

تَخْلُقُوا = (ح ل ق) (ض) تم سرمنڈاؤ

تَحَسُّسُوا (ح س س) (4) تم تلاش کرو

تَحِلُّوا = (ح ل ل) (1) تم حلال سمجھو

تُحْسِنُوا = (ح س ن) (1) تم احسان

نیکی کرو

تَحْمِلُ = (ح م ل) وہ اٹھاتی ہے

تَحْسُونَ = (ح س س) (ن) تم کاٹے قتل

کرتے ہو

تَحْمَلْنَا = (ح م ل) (2) تو ہم پر ڈال

تَحْشَرُونَ (ح ش ر) (ن) تم جمع

پھیرتے ہو

تَحْشَرُونَ (ح ش ر) (ن) تم جمع

کیے جاؤ گے

تَحْنُثُ = (ح ن ث) (س) تو قسم توڑنا ہے

تَحَصَّنَا = (ح ص ن) (4) پاک دامنی

تَحْوِيلًا = (ح و ل) تبدیلی

تُحْصِنُ = (ح ص ن) (1) وہ روکے

تَحِيَّةٌ = (ح ی ی) دُعا

تُحْصِنُ = (ح ص ن) (1) وہ روکے

بچائے

تَحِيدٌ = (ح ی د) (ض) تو دور بھاگتا ہے

تُحْصِنُونَ (ح ص ن) (1) تم روکے

بچائے رکھو

تَحِيْطًا = (ح و ط) (1) تم احاطہ کرتے ہو

تُحْصُوا = (ح ص ی) (1) تم شمار کرو۔ تم

گنو

تَحْيُونَ = (ح ی ی) (س) تم زندہ رہو گے

تُحْيُونَ = (ح ی ی) (1) تو زندہ کرتا ہے

تَحْيِي = (ح ی ی) (1) تو زندہ کرتا ہے

ت ح

تَخَاصُمٌ = (خ ص م) (5) باہمی جھگڑا

تَحِطٌ = (ح و ط) (1) تو احاطہ کرے گا

تَخَاطَبْنِي (خ ط ب) (5) تو مجھ سے

تَحْكُمُ = (ح ک م) (ن) تو فیصلہ کرتا ہے

خطاب رہا کرتا ہے

تَحْكُمُوا = (ح ک م) (ن) تم فیصلہ کرو

تُخْرِجُ = (خ ر ج) (1) تو نکالتا ہے	تَخْفُفُ = (خ و ف) (ف) تو ڈرے گا
تُخْرِجُوا = (خ ر ج) (ن) وہ نکلیں گے	تَخَافَا = (خ و ف) (ف) تم دونوں ڈرتے ہو
تُخْرِجُونَ = (خ ر ج) (1) تم نکلو گے	تَخَافَتْ = (خ ف ت) (3) تو آواز پست کر
تُخْرِجُونِ = (خ ر ج) (1) تم نکالتے ہو	تَخَافَنَّ = (خ و ف) (ف) تو ضرور ڈرے گا
تُخْرِجُونَا = (خ ر ج) (1) تم نکالے جاؤ گے	تَخَافُوا = (خ و ف) (ف) وہ ڈریں
تُخْرِصُونَ = (خ ر ص) (ن) تم انکل باتیں بناتے ہو	تَخَافُونَ = (خ و ف) (ف) تم ڈرتے ہو
تُخْرِقُ = (خ ر ق) (ض) تو پھاڑے گا	تَخَافِي = (خ و ف) (3) تو (مونث) ڈر
تُخْرِقْنَا = (خ ر ن) (1) تو ہمیں ذلیل کر	تَخَالِطُوهُمْ = (خ ل ط) (3) تم ملا لو ان کو
تُخْرِقُنِي = (خ ر ن) (1) تو مجھے ذلیل کر	تُخَبِّتُ = (خ ب ت) (1) وہ عاجزی کرے رکھے
تُخْرِوُنَ = (خ ز ی) (1) تم مجھے ذلیل کرو	تَخْتَانُونَ = (خ و ن) (7) تم خیانت کرتے ہو
تُخْسِرُوا = (خ س ر) (1) تم گھانا دو	تَخْتَصِمُوا = (خ ص م) (7) تم جھگڑو
تُخْسِرُ = (خ س ر) خسار اگھانا	تَخْتَصِمُونَ = (خ ص م) (7) تم جھگڑتے ہو
تُخْشِي = (خ ش ی) (س) خوف زدہ ہوتا ہے	تَخْتَلِفُونَ = (خ ل ف) (7) تم اختلاف کرتے ہو
تُخْشِعَ = (خ ش ع) (ف) وہ جھک جائے	تَخِرُّ = (خ ر ر) (ض) وہ (پہاڑ) گر پڑیں گے
تُخْشِوْا = (خ ش ی) (س) تم ڈرو	تُخْرِجُ = (خ ر ج) (ن) وہ نکلتا ہے
تُخْشُونَ = (خ ش ی) (س) تم ڈرتے ہو	
تُخْضَعْنَ = (خ ض ع) (ف) تم	

تَخْوِيفٍ = (خ و ف) ڈرانا

تَخْيِرُونَ = (خ ی ر) (4) تم پسند کرتے ہو

ت د

تَدَارِكُهُ = (د ر ک) (5) اُس نے اُسے پایا

تَدَايِنْتُمْ = (د ی ن) (5) تم آپس میں

قرض دو

تَدْخِرُونَ (ذ خ ر) (7) تم ذخیرہ کرتے

ہو

تَدْخِلُ = (د خ ل) (1) تو داخل کرتا ہے

تَدْخُلَنَّ = (د خ ل) (ن) تم ضرور داخل ہو

گئے

تَدْخُلُوا = (د خ ل) (ن) تم داخل ہو گئے

تَدْرُسُونَ (د ر س) (ن) تم پڑھتے ہو

تَدْرِكُ = (د ر ک) (1) وہ ادراک کرے

پالے

تَدْرُونَ = (د ر ی) (ض) تم جانتے ہو

تَدْرِي = (د ر ی) (ض) تو جانتا۔ وہ جانتی

تَدْعُ = (د ع و) (ن) تو پکارتا ہے

تَدْعِي = (د ع و) (ن) وہ پکاری جاتی ہے

تَدْعُوا = (د ع و) (ن) وہ پکارتی ہے۔ تو پکارتا ہے

تَدْعُونَ = (د ع و) (ن) تم پکارتے ہو

تَدْعُونَ = (د ع و) (ن) تمہیں بلایا جاتا ہے

(عورتیں) جھکو

تَحْطِفُ = (خ ط ف) (س) وہ اُچک لے

جاتی ہے

تَحْطِئُ = (خ ط ط) (ن) تو لکھتا اُس کو

تَحْفِي = (خ ف ی) (س) وہ چھپتی ہے

تَحْفُ = (خ و ف) (ف) تو ڈر

تُحْفُوا = (خ ف ی) (1) تم چھپاؤ

تُحْفُونَ = (خ ف ی) (1) تم چھپاتے ہو

تُحْفِي = (خ ف ی) (1) تو چھپاتا ہے

تَحْفِيفُ = (خ ف ف) (کی۔ نرمی۔ رخصت

تَحَلَّتْ = (خ ل و) (4) وہ خالی ہو گئی

تَحْلُدُونَ = (خ ل د) (ن) تم ہمیشہ رہو گئے

تُحْلِفُ = (خ ل ف) (1) تو خلاف کرتا

ہے

تُحْلِفُهُ = (خ ل ف) (1) تو اس کے

خلاف پائے گا

تَخْلُقُ = (خ ل ق) (ن) تو پیدا کرتا ہے

تَخْلُقُونَ = (خ ل ق) (ن) تم پیدا کرتے

ہو

تَخْوِيفُ = (خ و ف) (خ و ف) خوف دلانا۔ کم کرنا

تَخُونُوا = (خ و ن) (ن) تم خیانت کرتے

ہو

کیا۔ وہ چونکے	تَدْعُونَ = (دع و) (7) تم چاہتے رہا کرتے ہو
تَدْكُرُوا = (ذکر ر) (ن) تم یاد کرتے ہو	تَدَلِّي = (دلی) (4) وہ قریب آیا اترتا
تَدْكُرُونَ = (ذکر ر) (4) تم سمجھو	تَدَلُّوْا = (دل و) (1) تم پہنچاؤ
تَدْكُرُونَ = (ذکر ر) (ن) تم یاد کرتے ہو	تَدْمِيرُ = (دمر) (2) وہ ہلاک رجاہ کرتی ہے
تَدْكَبِرِي = (ذکر ر) میرا سمجھانا	تَدْمِيرًا = (دمر) ہلاکت۔ بربادی
تُدْزِلُ = (ذل ل) (1) تو ذلت دیتا ہے	تَدْوُرُ = (دور) (ن) وہ پھرتی ہے
تُدْزِيلًا = (ذل ل) ذلیل کرنا۔ جھکانا	تُدْهِنُ = (دہن) (1) تو زری رستی کرتا ہے
تَدْوُدَانٍ = (ذود) (ن) وہ دونوں ہانکتی روکتی ہے	تُدْبِرُونَهَا = (دور) (1) تم اسے لیتے دیتے ہو
	ت ذ
تَدْوُقُوا = (ذوق) (ن) تم چکھتے ہو	تَدْبَحُوا = (ذبح) (ف) تم ذبح کرو
تَذْهَبُ = (ذہب) (ف) وہ جاتی ہے	تَذْرُ = (وزر) (س) تو چھوڑتا ہے
تَذْهَبُوا = (ذہب) (ف) تم جاتے ہو	تَذْرُ = (وزر) (س) تو چھوڑتا ہے۔ وہ
تَذْهَبُونَ = (ذہب) (ف) تم جاتے ہو	چھوڑتی ہے
تَذْهَلُ = (ذهل) (س) وہ بھول جائے گی	تَذْرُنَّ = (وزر) (س) تو چھوڑو گے
	ت ر
تَرَى = (رئی) (ف) تو دیکھے	تَذْرُونَ = (وزر) (س) تم چھوڑ دیتے ہو
تَرَى = (رئی) (ف) تو دیکھتا ہے	تَذْرُوا = (ذرو) (س) تم چھوڑتے ہو
تُرَابٌ = (ترب) مٹی	تَدْكُرُ = (ذکر ر) (ن) تو یاد کرتا ہے
تُرَاتٌ = (ورث) وراثت۔ ترکہ	تَدْكُرُ = (ذکر ر) (4) اس نے نصیحت
تَرَاضٍ = (رضی) باہمی رضامندی	پکڑی
تَرَاضُوا = (رضی) (5) وہ آپس میں	تُدْكِرُ = (ذکر ر) (2) وہ یاد دلائے
راضی ہوئے	تَدْكِرَةُ = (ذکر ر) نصیحت۔ یاد دہانی
	تَدْكُرُوا = (ذکر ر) (4) انہوں نے یاد

تَرْجَعُونَ = (رجع) (ض) تو لوٹاتے ہو

تَرَاضِيْتُمْ = (رضی) (5) تم آپس میں

تَرْجُفُ = (رجف) (ن) وہ کانپے گی

راضی ہوئے

تَرْجُمُونَ = (رجم) (ن) تم مجھے سنگ

تَرَاقِي = (رقی) = (ترق) = (رق و)

کرو گے

گلے کی ہڈی۔ ہنسی

تَرْجُوا = (رج و) (ن) تو امید رکھتا ہے

تَرَاوِدُ = (رود) (5) وہ پھسلاتی ہے

تَرْجُونَ = (رج و) (ن) تم امید رکھتے ہو

تَرَآءُ = (رہی) (5) وہ دونوں آمنے سامنے

ہوئے

تَرْجِي = (رج و) (1) تو الگ رکھتا ہے

تَرَآيِب = (ترب) سینے۔ چھاتیاں

تَرْحَمُ = (رحم) (س) تو رحم کرے

تَرَآءَت = (رہی) (5) وہ سامنے آئی

تَرْحَمُونَ = (رحم) (ن) تم پر رحم کر

جائے

تَرْبُصُ = (ربص) (4) انتظار کرنا۔ ٹھہرنا

تَرَدُّ = (رد و) (س) وہ رد و رد کر دی جائے

تَرْبُصْتُمْ = (ربص) (4) تم نے انتظار کیا

تَرَدِّي = (ردی) (4) وہ گرے۔ وہ ہلاک ہو

تَرْبُصُوا = (ربص) (4) تم انتظار کرو

تَرَدِّي = (ردی) (س) تو ہلاک رہتا ہو

تَرْبُصُونَ = (ربص) (4) تم انتظار کرتے ہو

جائے

تَرْتَابُوا = (ربی ب) (7) تم شک کرو

تَرْدُن = (رد و) (1) تم چاہتی ہو

تَرْتَدُّوا = (رد و) (7) تم پھر رلوٹ جاؤ

تَرْدُونَ = (رد و) (ن) تمہیں لوٹایا جائے گا

تَرْتِيْلًا = (رت ل) ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا

تَرْدِيْن = (ردی) (1) تو مجھے ہلاک رہتا

تَرْتَوَا = (ورث) (ح) تم وارث ممالک بن

کریے گا

جاؤ

تَرزُقُ = (رزق) (ن) تو رزق دیتا ہے

تَرْجِعُ = (رجع) وہ واپس کی جاتی ہے

تَرزُقِيْن = (رزق) (ن) تم دونوں کو کھانا دیا

تَرْجَعُونَ = (رجع) (ض) تم لوٹائے جاؤ

گے

جاتا ہے

تَرْجِعُوا = (رجع) (ض) تم لوٹاؤ

تَرْضِي = (رضی) (س) تو راضی ہو جائے

تَرْكُنُ = (رک ن) (س) تو جھک جائے

تَرْكُنَا = (ت رک) (ن) ہم نے چھوڑا

تَرْكُنُوا = (رک ن) (س) تم جھک جاؤ

تَرْكُوا = (ت رک) (ن) انہوں نے چھوڑا

تَرْمِي = (رم ی) (ض) وہ بھیجتی ہے

تَرَمِي = (رم ی) (ف) تو مجھے دیکھتا ہے

تَرَوُا = (رم ی) (ف) تم دیکھتے ہو

تَرَوْنَ = (رم ی) (ف) تم دیکھتے ہو

تَرَوْنُ = (رم ی) (ف) تم ضرور دیکھو گے

تُرْهِبُونَ = (رہ ب) (1) تم ڈراتے ہو

تُرْهِقْنِي = (رہ ق) (1) تو مجھ پر مسلط کر

ذال

تُرْهِقُ = (رہ ق) (س) وہ چھا جائے گی

تُرْسِحُونَ = (روح) (1) تم شام کو چرا کر

واپس لاتے ہو

تُرِيدُ = (رود) (1) تو چاہتا ہے

تُرِيدُونَ = (رود) (1) تم چاہتے ہو

تُرِيْنُ = (رم ی) (ف) تو ضرور دیکھے گا

تُرِيْنِي = (رم ی) (1) تو مجھے ضرور دکھائے گا

ت ز

تَزَالُ = (زول) (س) تو زائل ہوگا۔ تو مٹ

جائے گا

تَرْضِعُ = (رض ع) (1) وہ دودھ پلائے

گی

تَرْضُوا = (رض ی) (س) تم پسند کرتے ہو

تَرْضُونَ = (رض ی) (س) تم پسند کرتے ہو

تَرْغُبُونَ = (رغ ب) (س) تم چاہتے ہو

تُرْفِعُ = (رف ع) (ف) وہ بلند کی جائے گی

تُرْفَعُوا = (رف ع) (ف) تم بلند کرتے ہو

تُرْفِي = (رق ی) (س) تو پڑھ جائے

تُرْقِبُ = (رق ب) (ن) تو نے ملحوظ خیال

رکھا

تُرْكِبُ = (رک ب) (س) تم ضرور سوار ہو

گے

تُرْكِبُوا = (رک ب) (س) تم سوار ہو

تُرْكِبُونَ = (رک ب) (س) تم سوار ہوتے

ہو

تَرْكُتُ = (ت رک) (ن) میں نے چھوڑا

تَرْكُمْتُ = (ت رک) (ن) تم نے چھوڑا

تَرْكُمُوْهَا = (ت رک) (ن) تم نے چھوڑا

اُسے

تَرْكُضُوا = (رک ض) (ن) تم بھاگو

تَرْكُسْنَ = (ت رک) (ن) ان عورتوں نے

چھوڑ دیا

تَزِيلُوا = (ز ی ل) (4) وہ الگ ہو گئے

تَس

تُسْقِطُ = (س ق ط) (3) وہ گرائے گی

تَسَاءَلُونَ (س ء ل) (5) تم باہم سوال کرتے ہو

تُسَبِّحُ = (س ب ح) (2) وہ تسبیح کرتی ہے

تُسَبِّحُونَ (س ب ح) (2) تم تسبیح کرتے ہو

تُسَبِّحُوهُ = (س ب ح) (2) تم تسبیح کرو اس کی

تُسَبِّقُ = (س ب ق) (ض) وہ آگے نکلتی ہے

تُسَبُّوا = (س ب ب) (ن) تم برا کہو تم گالی دو

تُسَبِّحُ = (س ب ح) تسبیح

تُسَبِّدُونَ (ب د ل) (9) تم بدلتے ہو

تُسَبِّينَ = (ب ی ن) (9) وہ ظاہر ہو جائے

تُسَيِّرُونَ (س ت ر) (9) تم چھپتے ہو

تُسْتَجِيبُونَ = (ج ب) (9) تم جواب دو گے

تُسْتَخِرُجُوا = (خ ر ج) (9) تم نکالو

تُسْتَخِرُونَ (خ ر ج) (9) تم نکالتے ہو

تَزُورُ = (ز و ر) (5) وہ جھک رہٹ جاتی ہے

تَزِيدُ = (ز ی د) (ض) تو زیادہ کر رہا

تَزِدَاؤُ = (ز ی د) (7) وہ زیادہ کرتی ہے

تَزِدْرِي = (ز ی ر ی) (7) وہ حقیر دیکھتی ہے

تَزِرُ = (ز و ر) (ض) وہ بوجھ اٹھاتی ہے

تَزْرَعُونَ = (ز ر ع) (ف) تم کھیتی کرو گے

تَزْعُمُونَ = (ز ع م) (ن) تم گمان کرتے ہو

تَزِغُ = (ز ی غ) (1) تو بیزھا کرتا ہے

تَزْكِي = (ز ک ی) (4) وہ پاک ہوا

تَزْكُوا = (ز ک ی) (2) تم پاک سمجھو

تَزْكِي = (ز ک ی) (2) تو پاک کرے گا

تَزِلُّ = (ز ل ل) (ض) وہ پھسل جائے

تَزَوَّدُوا = (ز و د) (4) تم زادراہ رسفر خرچ لیا کرو

تَزُولُ = (ز و ل) (ن) وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے

تَزُولَا = (ز و ل) (ن) وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں

تَزْهَقُ = (ز ه ق) (ف) وہ نکل رہٹ جائے

تَزِيدُونِي = (ز ی و) (ض) تم میرے لیے زیادہ کرو گے

تَسْتَفْتِيْنَ = (ف ت ی) (9) تم دونوں	تَسْتَحْفُوْنَهَا (خ ف) (9) تم اسے ہلکا
سوال پوچھتے ہو	جاتے ہو
تَسْتَقْدِمُوْنَ = (ق د م) (9) تم آگے بڑھو	تَسْتَرْضِعُوْا (ر ض ع) (9) تم دودھ پلواؤ
گے	تَسْتَطِعْ = (ط و ع) (9) تو کر سکتا ہے
تَسْتَقْسِمُوْا = (ق س م) (9) تم قسمت	تَسْتَطِيعْ = (ط و ع) (9) تو کر سکے گا
معلوم کرو	تَسْتَطِيعُوْا (ط و ع) (9) تم کر سکو گے
تَسْتَكْبِرُوْنَ (ك ب ر) (9) تم تکبر کرتے	تَسْتَطِيعُوْنَ = (ط و ع) (9) تم کر سکتے ہو
ہو	تَسْتَعْجِلْ = (ع ج ل) (9) تو جلدی کرتا
تَسْتَكْثِرْ = (ك ث ر) (9) تو زیادہ چاہتا	ہے
ہے	تَسْتَعْجِلُوْنَ = (ع ج ل) (9) تم جلدی
تَسْتَمْعُوْنَ (س م ع) (7) تم غور سے سنتے	مچاتے ہو
ہو	تَسْتَعْجِلُوْا (ع ج ل) (9) تم جلدی کرو
تَسْتَوِاْ = (س و ی) (7) تم ہم کر بیٹھو	تَسْتَفْفِرْ = (غ ف ر) (9) تو بخشش مانگتا
تَسْتَوِيْ = (س و ی) (7) وہ برابر ہوتی ہے	ہے
تَسْتَهْزِءُوْنَ = (ه ز ع) (9) تم مذاق	تَسْتَفْفِرُوْنَ (غ ف ر) (9) تم بخشش
اڑاتے ہو	مانگتے ہو
تَسْتَأْخِرُوْنَ = (ء خ ر) (9) تم دیر کرتے	تَسْتَفِيْثُوْنَ (غ و ث) (9) تم فریاد کرتے
ہو	ہو
تَسْتَأْنِسُوْا (ء ن س) (9) تم جان پہچان کرو	تَسْتَفْتِ = (ف ت ی) (9) تو سوال پوچھتا
لو	ہے
تَسْجُدْ = (س ج د) (ن) تو سجدہ کر لے	تَسْتَفِيْحُوْا (ف ت ح) (9) تم فتح فیصلہ
تَسْجُدُوا (س ج د) (ن) تم سجدہ کرو	چاہتے ہو

تُسْقَى = (س ق ی) (ض) وہ پلاتی ہے	تُسْحَرْنَا = (س ح ر) (ف) تو ہم پر جادو کرتا ہے
تُسْكُنُ = (س ک ن) وہ بسائی جائے گی	تُسْحَرُونَ = (س ح ر) (ف) تم پر جادو کیا جاتا ہے
تُسْكُنُوا = (س ک ن) (ن) تم سکون حاصل کرو	تُسْحَرُوا = (س خ ر) (س) تم مذاق کرتے ہو
تُسَلِّمُوا = (س ل م) (2) تم سلام کرو	تُسْحَرُونَ = (س خ ر) (س) تم مذاق اڑاتے ہو
تُسَلِّمُونَ = (س ل م) تم حکم مانتے ہو	تَسْرُّ = (س ر ر) (ن) خوش کرتی ہے
تُسَلِّمًا = (س ل م) (4) سلام بھیجنا۔ حکم ماننا	تَسْرَحُونَ = (س ر ح) (ف) تم صبح کے وقت (جانور) چرانے جاتے ہو
تُسَمَّى = (س م ی) (س) اس کا نام رکھا جاتا ہے	تَسْرِفُوا = (س ر ف) (1) تم حد سے بڑھے تم فضول خرچی کرو
تُسْمِعُ = (س م ع) (1) تو سنتا ہے	تَسِيرُونَ = (س ر ر) (1) تم چمپاتے ہو
تُسْمِعُ = (س م ع) (س) تو سنا تا ہے	تَسْرِيحُ = (س ر ح) (2) چھوڑ دینا
تُسْمَعُنَّ = (س م ع) (س) تم ضرور سنو گے	تَسْطِيعُ = (ط و ع) (9) تجھ سے ہوسکا
تُسْمَعُوا = (س م ع) (س) تم سنو	تَسْعَى = (س ع ی) (ف) وہ دوڑتی ہے
تُسْمَعُونَ = (س م ع) (س) تم سنتے ہو	تَسْفِكُونَ = (س ف ک) (ض) تم بہاتے ہو۔ خون ریزی کرتے ہو
تُسْمِيَةٌ = (س م ی) نام رکھنا	تُسْقَى = (س ق ی) (ض) اُسے پلا جا جائے گا
تُسْنِيمُ = (س ن م) تسنیم۔ جنت کا چشمہ	تَسْقُطُ = (س ق ط) (ن) وہ گرتی ہے
تُسْوَى = (س و ی) (4) وہ برابر کردی جائے گی	
تُسْوَدُّ = (س و د) (8) وہ سیاہ ہو گئے	
تُسَوِّرُوا = (س و ر) (4) انہوں نے دیوار کو پھاندا	

تَشْتَكِي = (ش ک و) (7) وہ شکایت کرتی

ہے

تَشْتَهِي = (ش ہ و) (7) وہ خواہش کرتی ہے

تَشْخِصُ = (ش خ ص) (ف) وہ پھٹی رکھی

رہ جائے گی

تَشْرُبُونَ = (ش ر ب) (س) تم پیتے ہو

تُشْرِكُ = (ش ر ک) (1) تو شرک کرے

تُشْرِكُ = (ش ر ک) (1) تو شرک کرے

تُشْرِكُوا = (ش ر ک) (1) تم شرک کرو

تُشْرِكُونَ = (ش ر ک) (1) تم شرک کرتے

ہو

تُشْطِطُ = (ش ط ط) (1) تو بے انصافی

کرے

تَشْعُرُونَ = (ش ع ر) (ن) تم سمجھتے ہو

تَشْفِي = (ش ق ی) (س) تو مشقت

مصیبت میں پڑے

تَشْقُقُ = (ش ق ق) (4) پھٹ جائے گی

تَشْكُرُوا = (ش ک ر) (ن) تم شکر کرو

تَشْكُرُونَ = (ش ک ر) (1) تو خوش کرے

تُشْمِتُ = (ش م ت) (س) تو گواہی دے

تَشْهَدُ = (ش ہ د) (س) تم گواہی دیتے ہو

تَشْهَدُونَ = (ش ہ د) (ض) تم گواہی دیتے

تَسْؤُكُمْ = (س و ع) (ن) وہ تمہیں بری لگے

تَسْتَلُ = (س ل) (ف) تو پوچھتا ہے

تُسْتَلُ = (س ل) (ف) تجھ سے پوچھا

جائے گا

تَسْتَلُنَّ = (س ل) (ف) تم سے ضرور

پوچھا جائے گا

تَسْتَلُ = (س ل) (ف) تو پوچھتا ہے

تَسْتَلُوا = (س ل) (ف) تم پوچھتے ہو

تُسْتَلُونَ = (س ل) (ف) تم سے پوچھا

جائے گا

تَسْتَمُوا = (س م) (س) تم آگے لگور

کاہلی کرو

تَسِيرُ = (س ی ر) (س) (ض) وہ چلتی ہے

تَسِيمُونَ = (س م) (1) تم چراتے ہو

ت ش

تَشْبَهُ = (ش ب ہ) (5) وہ مشابہ یکساں ہوا

تَشَابَهَتْ = (ش ب ہ) (5) وہ مشابہ یکساں ہوا

تَشَاقُونَ = (ش ق ق) (5) تم جھگڑتے ہو

تَشَاوِرُ = (ش و ر) (5) باہمی مشورہ

تَشَاءُ = (ش ی ا) (س) تو چاہتا ہے

تَشَاءُونَ = (ش ی ا) (س) تم چاہتے ہو

تَشْتَرُوا = (ش ر ی) (7) تم خریدو

والی

ہو

تَصْرِيفُ = (ص ر ف) (ض) تو پھیرے گا

تُصْرِفُونَ (ص ر ف) تم پھیرے جاتے ہو

تَصْرِيفٌ = (ص ر ف) پھیرنا

تُصْطَلُونَ (ص ل ی) (7) تم آگ تاپو

تُصْعِدُونَ (ص ع د) (1) تم چڑھتے ہو

تُصْعِرُ = (ص ع ر) (2) تو چھلا

تُصْفَى = (ص غ ی) (س-ن) وہ مائل

ہوتی جھکتی ہے

تَصِفُ = (و ص ف) (ض) وہ بیان کرتی ہے

تُصَفِّحُوا (ص ف ح) (ف) تم درگزر کرو

تُصَفِّونَ = (و ص ف) (ض) تم بیان کرتے

ہو

تُصَلُّ = (و ص ل) (ض) وہ پہنچتی ہے

تُصَلِّ = (و ص ل و) (2) تو نماز پڑھ-تو دعا کر

تُصَلِّي = (و ص ل ی) (س) وہ داخل ہوں

گے

تُصَلِّحُوا = (و ص ل ح) (1) تم صلح کراتے

ہو

تُصَلِّيَةُ = (و ص ل ی) آگ میں جلنا

تُصْنَعُ = (و ص ن ع) (ف) تو پرورش پائے

گا

تَشْبِيعٌ = (ش ی ع) (ض) وہ پھیلے

ت

تُضْحِيئُ (ص ح ب) (3) تو مجھے ساتھ

رکھ

تُضْبِعُ = (ص ب ح) (1) وہ ہو جائے

تُضْبِحُوا = (ص ب ح) (1) تم ہو جاؤ

تُضْبِحُونَ (ص ب ح) تم ہو جاتے ہو۔ تم

صبح کرتے ہو

تُضْبِرُ = (ص ب ر) (ض) تو صبر کرے گا

تُضْبِرُوا = (ص ب ر) (ض) تم صبر کرو

تُضْبِرُونَ = (ص ب ر) (ض) تم صبر کرتے

ہو

تُضْبِثُ = (ص ب ث) (1) تجھے پہنچے

تُضْبِثُكُمْ = (ص ب ث) (1) تمہیں پہنچتے

تُضْبِثُهُمْ = (ص ب ث) اُن کو پہنچے

تُضَدِّي = (ص د ی) (4) تو فکر کرتا ہے

تُضَدِّقُ = (ص د ق) (4) وہ صدقہ کرے

تُضَدِّقُونَ (ص د ق) (2) تم صدیق کرتے ہو

تُضَدِّونَ = (ص د و) (ن) تم روکتے ہو

تُضَدِّيَةُ = (ص د ی) تالیاں بجانا

تُضَدِّيقُ = (ص د ق) تصدیق سچا کرنے

تَضَعُ = (وض ع) (ف) وہ رکھتی رکھتی رکھتی رکھتی

ہے

تَضَعُوا = (وض ع) (ف) تم رکھتے ہو

تَضَعُونَ = (وض ع) (ف) تم اتارتے ہو

تَضِلُّ = (ض ل ل) (ض) وہ بھول رہا ہے

جائے

تَضِلُّوا = (ض ل ل) (1) تو گمراہ (عورت)

کرتا ہے

تَضِلُّوا = (ض ل ل) (ض) تم گمراہ ہو جاؤ

تَضِلُّوا = (ض ل ل) (ض) تم گمراہ کرنا۔ گمراہی

تَضَيَّقُوا = (ض ی ق) (2) تم تنگی کرو

ت

تَطَاوَلُ = (ط و ل) (5) وہ طویل رہا ہوا

تَطْرُدُ = (ط ر د) (ن) تو نکالے رہا ہے

تَطْعُ = (ط و ع) (1) تو اطاعت کر

تَطْعُ = (ط و ع) تو اطاعت کر

تَطْعَمُونَ = (ط ع م) (1) تم کھلاتے ہو

تَطْفُوا = (ط غ ی) (س۔ ن) تم سرکشی کرو

تَطْلِعُ = (ط ل ع) (7) تو مطلع خبردار ہوتا

ہے

تَطْلُعُ = (ط ل ع) (ن) وہ طلوع ہوتی نکلتی

ہے

تَضَعُونَ = (ض ن ع) (ف) تم بتاتے ہو

تَضَوُّوا = (ض و م) (ن) تم روزہ رکھو

تَضَيَّبُ = (ض و ب) (1) وہ پہنچتی ہے

تَضَيَّبَنَّ = (ض و ب) (1) وہ ضرور پہنچے گی

تَضَيَّبُوا = (ض و ب) (1) تم پہنچاؤ

تَضَيَّرُ = (ض ی ر) (ض) وہ پھرتی رلوتی

ہے

ت

تَضَارُّوا = (ض ر ر) (3) اے نقصان پہنچایا

جائے

تَضَارُّوْهُنَّ = (ض ر ر) (3) تم نقصان پہنچاؤ

تَضْحَى = (ض ح ی) (س) تو دھوپ

کھائے گا

تَضْحَكُونَ = (ض ح ك) (س) تم ہنستے ہو

تَضْرِبُوا = (ض ر ب) (ض) تم مارو

تَضْرَعَا = (ض ر ع) (4) عاجزی سے

تَضْرَعُوا = (ض ر ع) (4) انہوں نے

عاجزی کی

تَضْرُونَ = (ض ر ر) (ن) تم نقصان

پہنچاتے ہو

تَضْرُوْهُ = (ض ر ر) تم اے نقصان پہنچاؤ

گے

تُعَذُّونَ = (ع ذ و) (ن) تم گنتی کرتے ہو	تَسَعَتُّوْهُنَّ = (ع و د) (7) تم اس کی عدت (گنتی) پوری کرو
تُعَذِّبُ = (ع ذ ب) (2) تم عذاب دے	تُعْتَذِرُوا = (ع ذ ر) (7) تم بہانے بناؤ
تُعْرَى = (ع ر ی) (س) تو ننگا ہوگا	تَعْتَوُوا = (ع ث ی) (س) تم پھرو
تَعْرُجُ = (ع ر ج) (ن) وہ چڑھتی ہے	تُعْجَبُ = (ع ج ب) (س) تو تعجب کرے
تُعْرِضُ = (ع ر ض) (1) تو منہ پھیرے گا	تُعْجِبُ = (ع ج ب) (1) وہ تجھے پسند
تُعْرِضَنَّ = (ع ر ض) (1) تو ضرور منہ پھیرے گا	آئے تعجب میں ڈالے
تُعْرِضُوا = (ع ر ض) (1) تم منہ پھيرو	تُعْجِبُونَ = (ع ج ب) (س) تم تعجب کرتے ہو
تُعْرِضُونَ = (ع ر ض) تم حاضر کیے جاؤ گے	تُعْجِبِينَ = (ع ج ب) (س) تم تعجب کرتی ہے
تُعْرِفُ = (ع ر ف) (ض) تو پہچانتا ہے	تُعْجَلُ = (ع ج ل) (س) تو جلدی کر
تُعْرِفَهُمْ = (ع ر ف) (ض) تو ضرور پہچانتا ہے اُن کو	تُعْجَلُ = (ع ج ل) (4) وہ جلدی کر لے
تُعْرِفُونَ = (ع ر ف) (ض) تم پہچانتے ہو	تُعَدُّ = (ع و د) (ن) وہ پھرے۔ انہوں نے
تُعِزُّ = (ع ز ز) (1) تو عزت دیتا ہے	زیادتی کی
تُعِزُّوْهُ = (ع ز ر) (2) تم اس کی مدد کرو	تَعِدُّ = (و ع د) (ض) تو وعدہ کرتا ہے
تُعِزُّمُوا = (ع ز م) (ض) تم ارادہ کرو	تَعِدْنِي = (و ع د) (ض) تو وعدہ کرتا ہے
تُعْضِلُوْهُنَّ = (ع ض ل) (ن) تم روکو اُن کو	تَعْدِلُ = (ع د ل) (ض) تم دونوں مجھ سے
تَعْطُونَ = (و ع ط) (ض) تم نصیحت کرتے ہو	وعدہ کرتے ہو
تَعْفُفُ = (ع ف ف) (4) سوال نہ کرنا	تَعْدِلُوا = (ع د ل) (ض) تم انصاف کرو
تَعْفُوا = (ع ف و) (ن) تم درگزر کرو	تَعْدُوا = (ع و د) (ن) تم زیادتی کرو
تَعْقِلُونَ = (ع ق ل) (ض۔ ن) تم عقل	تَعْدُوا = (ع و د) (ن) تم گنتی کرو

تَعَوَّلُوا = (ع و ل) (ن) تم ایک طرف

جھک جاؤ گے تم بنا انصافی کرو گے

تَعَيَّهَا = (ع ی) (ض) وہ اسے یاد رکھے

ت ع

تَغَابَنَ = (غ ب ن) ہارجیت۔ نقصان پہنچانا

تَغْتَسِلُوا = (غ س ل) (7) تم غسل کر لو

تَغْرُبُ = (غ ر ب) (ن) وہ غروب ہوتا ہے

تُغْرِقُ = (غ ر ق) (1) تو غرق کر دے

تَغْرُتْكُمْ = (غ ر ر) (ن) وہ تمہیں ضرور دھوکا

دے گی

تَغْشَى = (غ ش ی) (س) وہ ڈھانپ لیتی

ہے

تَغْشَى = (غ ش ی) (4) اس نے ڈھانپ

لیا

تَغْفِرُ = (غ ف ر) (ض) تو بخشتا ہے

تَغْفِرُوا = (غ ف ر) (ض) تم بخش دو

تَغْفُلُونَ = (غ ف ل) (ن) تم غافل ہوتے

ہو

تَغْلِبُونَ = (غ ل ب) (ض) تم غالب آتے

ہو

تُغْلَبُونَ = (غ ل ب) (ض) تم مغلوب ہو

گئے

سے کام لیتے ہو

تَعْلَمُ = (ع ل م) (س) تو جانتا ہے وہ جانتی ہے

تَعْلَمَنَّ = (ع ل م) (س) تم ضرور جان لو

گے

تُعَلِّمَنَّ = (ع ل م) (2) تو مجھ کو سکھا دے

تَعْلَمُوا = (ع ل م) (س) تم جانو

تَعْلَمُونَ = (ع ل م) (س) تم جانتے ہو

تُعَلِّمُونَ = (ع ل م) (2) تم سکھاتے ہو

تَعْلَنَنَّ = (ع ل و) (ن) تم ضرور سرکشی کرو

گے

تُعْلِنُونَ = (ع ل ن) (1) تم ظاہر کرتے ہو

تَعْلُوا = (ع ل و) (ن) تم سرکشی کرو

تَعْمَى = (ع م ی) (س) وہ اندھی ہوتی ہے

تَعْمَدَتْ = (ع م و) (4) اس نے جان

بوجھ کر کیا

تَعْمَلُ = (ع م ل) (س) وہ کام کرے گی

تَعْمَلُونَ = (ع م ل) (س) تم کام کرتے

ہو

تَعْوَدَنَّ = (ع و د) (ن) تم ضرور واپس آؤ

گے

تَعْوَدُوا = (ع و د) (ن) تم پھر آؤ

تَعْوَدُونَ = (ع و د) (ن) تم پھر آؤ گے

تَفَجَّرَ = (ف ج ر) (2) تو پھاڑر بہا دے
تَفَجِيرًا = (ف ج ر) پھاڑر ڈالنا
تَفْرُحٌ = (ف ر ح) (س) تو خوش ہو جائے
إِترَاءٌ
تَفْرَحُوا = (ف ر ح) (س) تو خوش ہو جاؤ
إِترَادٌ
تَفْرَحُونَ = (ف ر ح) (س) تم خوش رہو
تَفْرِضُوا = (ف ر ض) (ض) تم مقرر کرو
تَفَرَّقَ = (ف ر ق) (4) وہ جدا ہوئے
تَفَرَّقُوا = (ف ر ق) (4) وہ جدا ہو گئے
تَفَرُّونَ = (ف ر ر) (ض) تم بھاگتے ہو
تَفْرِيقًا = (ف ر ق) پھوٹ ڈالنا
تَفْسَحُوا = (ف س ح) (4) تم کھل کر بیٹھو
تَفْسِدُنَ = (ف س و) (1) تم ضرور فساد کرو
گے
تَفْسِدُوا = (ف س و) (1) تم فساد کرو
تَفْسِدُونَ = (ف س ق) (1) تم فساد کرتے
رہو
تَفْسُقُونَ = (ف س ق) (ن) تم نافرمانی
کرتے ہو
تَفْسِيرًا = (ف س ر) (ن) تشریح کرنا
تَفْشَلًا = (ف ش ل) (س) وہ دونوں بزدلی

تَغْلُوا = (غ ل و) (ن) تم زیادتی کرو
تَغْمِضُوا = (غ م ض) (1) تم چشم پوٹی کرو
تَغْنَنَ = (غ ن ی) (س) وہ رات ہی ہے
تَغْنَنَ = (غ ن ی) (1) وہ کام آئے
تَغْنِي = (غ ن ی) (1) وہ کام آتی ہے
تَغْيِضُ = (غ ی ض) (ض) وہ کی کرتی ہے
تَغْيِظًا = (غ ی ظ) غصے میں آنا

ت ف

تَفَاخُرًا = (ف خ ر) (5) باہم فخر کرنا
تَفِدُوهُمْ = (ف د ی) (3) تم فیدہ دے کر
اُن کو چھڑاتے ہو
تَفَوُّتٌ = (ف و ت) فرق - چوک - خطا
تَفْتَحُ = (ف ت ح) (2) وہ کھولی جائے گی
تَفْتَرُوا = (ف ر ی) (7) تم گھرو
تَفْتَرُونَ = (ف ر ی) (7) تم گھرتے ہو
تَفْتَرِي = (ف ر ی) (7) تو جھوٹ گھڑے
تَفْتَنُونَ = (ف ت ن) (ض) تم آزمائے
جاتے ہو
تَفْتِي = (ف ت ن) (ض) تو مجھے فتنے میں
ڈال
تَفْتُوا = (ف ت ء) (س) تو ہمیشہ رہے گا
تَفَجَّرَ = (ف ج ر) (ن) تو پھاڑر ڈالے

تَفَوَّرُ = (ف و ر) (ن) وہ جوش مارتی ہے
تَفِيضُ = (ف ی ض) (ض) وہ بہتی ہے
تُفِيضُونَ = (ف ی ض) (1) تم مشغول
ہوتے ہو

تَفِيءٌ = (ف ی ء) (ض) وہ لوٹ آئے

تق

تَقِي = (وق ی) (ض) تو بچاتا ہے
تُقِيَةٌ = (وق ی) بچنا۔ بچاؤ کرنا
تُقَاتِلُ = (ق ت ل) (3) وہ لڑتی ہے
تُقَاتِلُونَ = (ق ت ل) (3) تم لڑو
تُقَاتِلُونَ = (ق ت ل) (3) تم لڑتے ہو
تُقَاسِمُوا = (ق س م) (5) تم آپس میں قسم
کھاؤ
تُقَبَّلُ = (ق ب ل) (4) تو قبول کر
تُقَبَّلُ = (ق ب ل) (4) وہ قبول کی گئی
تُقَبَّلُ = (ق ب ل) (س) وہ قبول کی جائے
گی
تُقَبَّلُوا = (ق ب ل) (س) تم قبول کرو
تُقْتَلُ = (ق ت ل) (ن) تم قتل کر لے
تُقْتَلُونَ = (ق ت ل) (ن) تم قتل کرو
تُقْتَلُونَ = (ق ت ل) (ن) تم قتل کرتے ہو
تُقْتَلُوا = (ق ت ل) خوب قتل کرنا

کریں
تَفْشَلُوا = (ف ش ل) (س) تم بزدلی کرو
گے
تَفْصِيلُ = (ف ص ل) تفصیل سے بیان کرنا
تَفْضَحُونَ = (ف ض ح) (ف) تم مجھے
ذلیل کرو

تَفْضِيلًا = (ف ض ل) فضیلت دینا
تَفْعَلُ = (ف ع ل) (ف) تو کام کرے
تَفْعَلُوا = (ف ع ل) (ف) تو کام کرو
تَفْعَلُونَ = (ف ع ل) (ف) تم کام کرتے
ہو

تَفَقَّدَ = (ف ق د) (4) اس نے حاضری لی
تَفَقِدُونَ = (ف ق د) (ض) تم گم کرتے ہو
تَفْقَهُونَ = (ف ق ه) (س-ک) تم سمجھتے
ہو
تَفْكَهُونُ = (ف ک ه) (4) تم باتیں بناتے
ہو

تُفْلِحُوا = (ف ل ح) (1) تم کامیاب ہو
تُفْلِحُونَ = (ف ل ح) (1) تم کامیاب
ہوتے ہو
تُفْنِدُونَ = (ف ن د) (2) تم مجھے بہکا ہوا
مجھتے ہو

کردو	تَقْدِرُوا = (ق در) (ض) تم قابو پاؤ
تَقْضُصُ = (ق ص) (ن) تو بیان کر	تَقَدَّمَ = (ق دم) (4) وہ پہلے ہو گزرار چکا
تَقْضِي = (ق ض ی) (ض) تو فیصلہ کرتا ہے	تَقَدَّمُوا = (ق دم) (2) تم آگے بھیجو
تَقَطَّعَ = (ق ط ع) (4) وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو	تَقْدِيرٌ = (ق در) تقدیر۔ اندازہ
جائے	تَقَرَّرَ = (ق ر ر) (س) وہ ٹھنڈی رہے
تَقَطَّعَ = (ق ط ع) (4) وہ کاٹی جاتی ہے	تَقَرَّرَاهُ = (ق ر ع) (ن ف) تو اُسے پڑھنا
تَقَطَّعَتْ = (ق ط ع) (4) کٹ جائیں گے	ہے
تَقَطَّعُوا = (ق ط ع) (4) انہوں نے کات دیا	تَقَرَّبَا = (ق رب) (س ک) تم دونوں
تَقَطَّعُوا = (ق ط ع) (2) تم کاٹو توڑو گے	قریب جاؤ
تَقَطَّعُونَ = (ق ط ع) (ف) تم کاٹتے ہو	تَقَرَّبْكُمْ = (ق رب) (2) وہ تمہیں قریب
تَقَعَ = (ق ع) (ف) وہ گر پڑے	کرے
تَقَعْدُ = (ق ع د) (ن) تو بیٹھتا ہے	تَقَرَّبُوا = (ق رب) (س ک) تم قریب
تَقَعْدُوا = (ق ع د) (ن) تم بیٹھتے ہو	جاؤ
تَقَفَّ = (ق ف و) (ن) تو پیچھے چل	تَقَرَّبُونَ = (ق رب) (س ک) تم قریب
تَقَلُّ = (ق ول) (ن) تو کہہ	آؤ میرے
تَقَلَّبُ = (ق لب) چلنا پھرنا	تَقَرُّضُوا = (ق رض) (1) تم قرض دو
تَقَلَّبُونَ = (ق لب) (ض) تو پھرے جاؤ	تَقَرِّضُ = (ق رض) (ض) وہ ہنسی رہتی ہے
گے	تَقْسِطُوا = (ق س ط) (1) تم انصاف کرو
تَقَمُّ = (ق دم) (ن) تو کھڑا ہو	تَقْسِمُوا = (ق س م) (1) تم قسم کھاؤ
تَقَنُّطُوا = (ق ن ط) (س) تم نہ مایوس ہو	تَقْشَعِرُّ = (ق ش ع ر) (11) وہ کانپنے لگتی
تَقْوَى = (ق و ی) تقویٰ۔ پرہیزگاری	ہے
تَقُولُ = (ق ول) (ن) تو کہتا ہے	تَقْصُرُوا = (ق ص ر) (ن) تم قصر کرو۔ تم کم

تَكْتُمُونَ = (ک ت م) (ن) تم چھپاتے

تَقُولُ = (ق و ل) (4) اُس نے بات گھڑ لی

تَقُولُنَّ = (ق و ل) (ن) تو ضرور کہے گا

تُكْذِبِينَ = (ک ذ ب) (2) تم دو لوں

تُكْذِبُونَ = (ک ذ ب) (2) تم جھٹلاتے ہو

تُكْذِبُونَ = (ک ذ ب) (2) تم جھٹلاتے ہو

تُكْذِبُونَ = (ک ذ ب) (ض) تم جھوٹ

تُكْذِبُونَ = (ک ذ ب) (ض) تم جھوٹ

تُكْذِبُونَ = (ک ذ ب) (ض) تم جھوٹ

تُكْذِبُونَ = (ک ذ ب) (ض) تم جھوٹ

تُكْرِمُونَ = (ک ر م) (1) تم عزت کرتے

تُكْرِمُونَ = (ک ر م) (1) تم عزت کرتے

تُكْرِمُونَ = (ک ر م) (1) تم عزت کرتے

تُكْرِمُونَ = (ک ر م) (1) تم عزت کرتے

تُكْرِمُونَ = (ک ر م) (1) تم عزت کرتے

تُكْرِمُونَ = (ک ر م) (1) تم عزت کرتے

تُكْرِمُونَ = (ک ر م) (1) تم عزت کرتے

تُكْرِمُونَ = (ک ر م) (1) تم عزت کرتے

تُكْفُرُونَ = (ک ف ر) (ن) تو کفر کرے گا

تُكْفُرُونَ = (ک ف ر) (ن) تو کفر کرے گا

تُكْفُرُونَ = (ک ف ر) (ن) تو کفر کرے گا

تُكْفُرُونَ = (ک ف ر) (ن) تو کفر کرے گا

تُكْفُرُونَ = (ک ف ر) (ن) تو کفر کرے گا

تَقُولُوا = (ق و ل) (ن) تم کہو

تَقُولُونَ = (ق و ل) (ن) تم کہتے ہو

تَقُولُونَ = (ق و ل) (ن) تم کہتے ہو

تَقُولُوا = (ق و م) (ن) تو کھڑا ہوتا ہے

تَقُولُوا = (ق و م) (ن) تم کھڑے ہو جاؤ

تَقْوِيمٍ = (ق و م) ساخت۔ اندازہ

تَقْهَرُ = (ق و ر) (ف) تو سختی کر

تَقِيًّا = (ق و ی) پرہیزگار

تَقِيكُمْ = (ق و ی) (ض) وہ تمہیں بچاتی ہے

تَقِيمُوا = (ق و م) (1) تم قائم کرو

ت ک

تَلُثُ = (ک و ن) (ن) تو ہے

تَكَثُرُ = (ک ث ر) کثرت کی ہوس

تَكَادُ = (ک و د) (ن) وہ قریب ہے

تُكْبِرُوا = (ک ب ر) (2) تم بڑائی بیان

تُكْبِرُوا = (ک ب ر) (2) تم بڑائی بیان

تُكْتَبُ = (ک ت ب) (ن) وہ لکھی جائے

تُكْتَبُ = (ک ت ب) (ن) وہ لکھی جائے

تُكْتَبُوا = (ک ت ب) (ن) تم لکھو

تُكْتَبُوا = (ک ت ب) (ن) تم لکھو

تُكْتَمُونَ = (ک ت م) (ن) تم چھپاؤ

تُكْتَمُونَ = (ک ت م) (ن) تم چھپاؤ

تَلَبَّثُوا = (ل ب ث) (4) وہ دیر کریں
 تَلَبَّسُوا = (ل ب س) (ض) تم ملاؤ
 تَلَبَّسُونَ = (ل ب س) (ض) تم ملاتے ہو
 تَلَذُّذٌ = (ل ذ ذ) (س) وہ لذت پاتی ہے
 تَلَطَّطِي = (ل ط ی) (4) وہ شعلہ مارتی ہے
 تَلَفَّتْنَا = (ل ف ت) (ض) تو ہم کو ہٹاتا ہے
 تَلْفَحُ = (ل ف ح) (ف) وہ جھلس دے گی
 تُلْقَى = (ل ق ی) (4) تجھے سکھایا جاتا ہے
 تَلْقَى = (ل ق ی) (4) اس نے سیکھا
 تُلْقَى = (ل ق ی) (1) تو ڈالا جائے گا
 تَلْقَاءٌ = (ل ق ی) (طرف - جانب
 تَلْقَائِي = (ل ق ی) (طرف - جانب
 تَلْقَفٌ = (ل ق ف) (س) وہ نکل جائے گا
 تَلْقُوا = (ل ق ی) (1) تم ڈالو
 تَلْقُونُ = (ل ق ی) (1) تم ڈالتے ہو
 تَلْقُونَهُ = (ل ق ی) (4) تم اس کو لینے لگے
 تَلْقَوْهُ = (ل ق ی) (س) تم اس سے
 ملاقات کرو
 تَلْقَى = (ل ق ی) (1) تو ڈالتا ہے
 تَلْمِزُوا = (ل م ز) (ض) تم عیب رطعنہ دو
 تَلَّوْا = (ل و ی) (ض) تم زبان کو مروڑو
 تَلَوْتُهُ = (ت ل و) (ن) میں پڑھتا اُس کو

تُكَلِّفُ = (ك ل ف) (2) اسے تکلیف
 حکم دیا جاتا ہے
 تُكَلِّمُ = (ك ل م) (4) وہ کلام کرتی ہے
 تُكَلِّمُ = (ك ل م) (2) تو کلام کرتا ہے
 تُكَلِّمُونِ = (ك ل م) (2) تم کلام کرو مجھ
 سے
 تُكَلِّمَانَا = (ك ل م) کلام کرنا
 تُكَلِّمُوا = (ك ل م) (1) تم پورا کرو
 تُكِنُّ = (ك و ن) (ن) تو ہو
 تُكِنُّ = (ك ن ن) (1) وہ چھپاتی ہے
 تُكَيِّزُونَ = (ك ن ز) (ض) تم جمع کرتے
 ہو
 تُكْوِي = (ك و ی) (ض) وہ داغا جائے گا
 تُكُونُ = (ك و ن) (ن) تو ہو۔ وہ ہو
 تُكُونَانَا = (ك و ن) (ن) تم دونوں ہو
 تُكُونَنَّ = (ك و ن) (ن) تو ضرور ہو
 تُكُونُوا = (ك و ن) (ن) تم ہو
 تُكُونُونَ = (ك و ن) (ن) تم ہوتے ہو
 تَل
 تَلَاقٍ = (ل ق ی) (5) ملاقات
 تَلَاوْتَهُ = (ت ل و) (ن) تلاوت اُس کی
 تَلَّهَا = (ت ل و) (ن) پیچھے آئے اُس کے

جائے گا
 تَمَثَّلُ = (م ث ل) (4) وہ مانند ہوا
 تَمَدَّنُ = (م د ن) (ن) تو پھیلا
 تَمِذُّونِي = (م د ن) (1) تو میری مدد کرتے ہو
 تَمَرُّ = (م ر ر) (ن) وہ چلتی ہے
 تَمَرُّحُونَ = (م ر ح) (س) تم اترا تے رخوش ہوتے ہو
 تَمَرُّونُ = (م ر ر) (ن) تم گزرتے ہو
 تَمَسَسُ = (م س س) (ن-ض) وہ چھوئے
 تَمَسَّ = (م س س) (ن-ض) وہ چھوئے
 تَمَسِّكُوا = (م س ك) (1) تم روکو
 تَمَسُّونُ = (م س ی) (1) تم شام کرتے ہو
 تَمَسُّوا = (م س س) (ن-ض) تم چھوؤ
 تَمَشُّ = (م ش ی) (ض) تو چلتا ہے
 تَمَشُّونُ = (م ش ی) (ض) تم چلتے ہو
 تَمَشِّیْ = (م ش ی) (ض) وہ چلتی ہے
 تَمَكِّرُونَ = (م ك ر) (ن) تم مکر کرتے ہو
 تَمَلِّیْ = (م ل ی) (1) وہ کھوائی جاتی ہے
 تَمَلِّكُ = (م ل ك) (ض) تو اختیار رکھتا ہے
 تَمَلِّكُونَ = (م ل ك) (ض) تم اختیار

تَلَوُّ مَوْنِي = (ل و م) (ن) تم الزام دیتے ہو مجھے
 تَلَوْنُ = (ل ی ی) (ض) تم مڑ کر دیکھتے ہو
 تَلَهَى = (ل ہ ی) (4) تو غفلت کرتا ہے
 تَلَهُكُمْ = (ل ہ و) (1) وہ غافل کرے تمہیں
 تَلَهُهُمْ = (ل ہ و) (1) غافل کرتی اُن کو
 تَلِيَتْ = (ت ل و) (ن) پڑھی جاتی ہے
 تَلِيْنُ = (ل ی ن) (ض) وہ نرم ہو جاتی ہے

ت م

تَمَائِلُ = (م ث ل) مورتیاں
 تَمَارٍ = (م ر ی) (3) تو بحث کرتا ہے
 تَمَارُوا = (م ر ی) (5) انہوں نے بحث کی
 تَمَرُّونَهُ = (م ر ی) (3) تم اس سے بحث کرتے ہو
 تَمَامًا = (ت م م) پورا کرنا
 تَمَّتْ = (ت م م) (ض) وہ پوری ہوئی
 تَمُتْ = (م و ت) (ن) وہ مرتی ہے
 تَمْتَرَنَّ = (م ر ی) (7) تم ضرور شک کرو گے
 تَمْتَرُونَ = (م ر ی) (7) تم شک کرتے ہو
 تَمَتَّعَ = (م ت ع) (4) تو فائدہ اٹھا
 تَمَتَّعُوا = (م ت ع) (4) تم فائدہ اٹھاؤ
 تَمَتَّعُونَ = (م ت ع) (4) تم کو فائدہ دیا

تَنَاجَوْا = (ن ج و) (5) تم سرگوشی کرو
 تَنَاجِيْتُمْ = (ن ج و) (5) تم نے سرگوشی کی
 تَنَادَ = (ن د ی) (5) فریاد کرنا۔ پکارنا
 تَنَادَوْا = (ن د ی) (5) انہوں نے ایک
 دوسرے کو آواز دی

تَنَازَعْتُمْ = (ن ز ع) (5) تم نے جھگڑا کیا
 تَنَازَعُوا = (ن ز ع) (5) تم آپس میں جھگڑا
 کرو
 تَنَاصَرَوْا = (ن ص ر) (5) تم ایک دوسرے
 کی مدد کرتے ہو

تَنَالُوا = (ن ی ل) (س) تم پہنچو
 تَنَالَهُ = (ن ی ل) (س) پہنچیں اُس تک
 تَنَاشُ = (ن و ش) (5) پہنچ۔ رسائی
 تَنَبُّتٌ = (ن ب ت) (ن) اگتا ہے
 تَنَبُّتٌ = (ن ب ت) (1) اگاتی ہے
 تَنَبُّوا = (ن ب ت) (1) تم اگاؤ
 تَنَبُّونَ = (ن ب ت) (2) تمہیں ضرور خبر دی
 جائے گی
 تَنَبِّئْهُمْ = (ن ب ت) (2) تو ضرور اُن کو خبر
 دے گا

تَنَبِّئُونِ = (ن ب ت) (2) تم خبر دیتے ہو
 تَنَبِّئْهُمْ = (ن ب ت) (2) وہ اُن کو آگاہ کرے

رکھتے ہو
 تَمَنَّى = (م ن ی) اس نے تمنا کی
 تُمْنَى = (م ن ی) (ض) وہ ڈالی جاتی ہے
 تَمْنَعُ = (م ن ع) (ف) وہ منع کرتی ہے
 تَمُنُّنُ = (م ن ن) (ن) تو احسان کر
 تَمُنُّ = (م ن ن) (ن) تو احسان جتلاتا ہے
 تَمْنُوْا = (م ن ن) (ن) تم احسان جتلاؤ
 تَمَنُّوْا = (م ن ی) (4) تم نے تمنا کی
 تَمَنُّوْا = (م ن ی) (4) تم تمنا کرو
 تَمَنُّونَ = (م ن ی) (4) تم تمنا کرتے ہو
 تُمْنُونَ = (م ن ی) (1) تم نپکاتے ہو
 تَمُوْتُ = (م و ت) (ن) وہ مرجائے
 تَمُوْتُنَّ = (م و ت) (ن) تم کرو
 تَمُوْتُونَ = (م و ت) (ن) تم مرتے ہو
 تَمُوْرٌ = (م و ر) (ن) وہ کانپتی ہے
 تَمْهِيْدًا = (م ہ د) بچھونا۔ ہموار کرنا
 تَمِيْدٌ = (م ی د) (ض) وہ ڈگر لگاتی ہے
 تَمِيْزٌ = (م ی ز) (4) وہ پھٹ جائے
 تَمِيْلُوْا = (م ی ل) (ض) تم جھکو

ت ن

تَنَابَزُوْا = (ن ب ز) (5) تم برے نام
 لقب سے پکارو

تَنْشُقُ = (ش ق ق) (6) وہ پھٹ جائے
 تَنْصُرُهُ = (ن ص ر) (ن) تم اُس کی ضرور
 مدد کر گے
 تَنْصُرُوا = (ن ص ر) (ن) تم مدد کرتے ہو
 تَنْصُرُونَ = (ن ص ر) (ن) تمہاری مدد کی
 جاتی ہے
 تَنْطُقُونَ = (ن ط ق) (ض) تم بولتے ہو
 تَنْظُرُ = (ن ظ ر) (ن س) وہ دیکھے
 تَنْظُرُونَ = (ن ظ ر) (ن س) تم دیکھتے ہو
 تَنْظُرُونَ = (ن ظ ر) (1) تم مجھے مہلت دو
 تَنْفِخُ = (ن ف خ) (ن) تو پھونک مارتا ہے
 تَنْفِذُ = (ن ف ذ) (س) وہ ختم ہو
 تَنْفِذُوا = (ن ف ذ) (ن) تم نکل بھاگو
 تَنْفِذُونَ = (ن ف ذ) (ن) تم نکلتے ہو
 تَنْفِرُوا = (ن ف ر) (ض) دن تم نہ نکلو
 تَنْفَسُ = (ن ف س) (4) وہ سانس لے
 تَنْفَعُ = (ن ف ع) (ف) تو فائدہ دے وہ
 فائدہ دے
 تَنْفِقُوا = (ن ف ق) (1) تم خرچ کرو
 تَنْفِقُونَ = (ن ف ق) (1) تم خرچ کرتے
 ہو
 تَنْقِذُ = (ن ق ذ) (1) تو رہا کرانے گا

گ
 تَنْتَشِرُونَ (ن ش ر) (7) تم پھیلتے ہو
 تَنْتَصِرَانِ (ن ص ر) (7) تم دونوں بدل لو
 گے
 تَنْتَهٍ = (ن ہ ی) (7) تو باز آتا ہے
 تَنْجِيكُمْ = (ن ج و) (1) وہ تم کو نجات
 دے گی
 تَنْحِتُونَ = (ن ح ت) (ض) تم تراشتے ہو
 تَنْذِرُ = (ن ذ ر) (1) تو ڈراتا ہے
 تَنْزِعُ = (ن ز ع) (ض) تو چھین لیتا ہے
 تَنْزِلُ = (ن ز ل) (4) وہ نازل ہوتی ہے
 تَنْزِلُ = (ن ز ل) (4) وہ نازل کی جائے گی
 تَنْزِلُ = (ن ز ل) (2) تو اتار دے
 تَنْزَلْتُ = (ن ز ل) (4) وہ نازل ہوئی
 تَنْزِيلُ = (ن ز ل) اتارنا۔ نازل کرنا
 تَنْسُ = (ن س ی) (س) تو بھولے
 تَنْسِي = (ن س ی) (س) تو بھولتا ہے
 تَنْسِي = (ن س ی) (س) تجھے بھلایا جائے
 گ
 تَنْسُوا = (ن س ی) (س) تم نہ بھولو
 تَنْسُونَ = (ن س ی) (س) تم بھول جاتے
 ہو

تَنْهَى = (نہی) (نہی) (ف) وہ روکتی ہے

تَنْهَرُ = (نہر) (ف) توجھڑکے

تَنْهُونُ = (نہی) (ف) تم منع کرتے ہو

تُنْهَوْنَ = (نہی) (ف) تم کو منع کیا جاتا

ہے

تَنْبِيَاً = (ونی) (ض) تم دونوں سستی کرو

ت و

تَوَّابٌ = (توب) (توب) قبول کرنے والا۔

مہربان

تَوَّابِينَ = (توب) (توب) توبہ کرنے والے

تَوَّارِثٌ = (وری) (5) وہ چھپ گئی

تَوَّاصُوا = (وصی) (5) انہوں نے نصیحت

کی

تَوَاعَدْتُمْ = (وعد) (5) تم نے باہم وعدہ

کیا

تَوَاعَدُوهُنَّ = (وعد) (3) تم ان عورتوں

سے وعدہ کرو

تَوْبَةً = (توب) (توب) توبہ

تَوْبُوا = (توب) (ن) تم توبہ کرو

تَوَجَّلْ = (وجل) (س) توڑ

تَوَجَّهْ = (وجه) (4) اس نے رخ کیا

تَوَدُّ = (ودد) (س) وہ چاہے گی

تَنْقُصُ = (نقص) (ن) وہ کم کرتی ہے

تَنْقُصُوا = (نقص) (ن) تم کم کرو

تَنْقُصُوا = (نقص) (ن) تم توڑو

تَنْقَلِبُوا = (قلب) (6) تم پھر پلٹ جاؤ

گے

تَنْقِمُ = (نقم) (ض-س) توبہ بردہنی لیتا

ہے

تَنْقِمُونَ = (نقم) (ض-س) تم بدلہ لیتے

ہو

تَنْكِحُ = (نکح) (ف-ض) وہ

(مونث) نکاح کرے

تَنْكِحُوا = (نکح) (ف-ض) تم نکاح

کرو

تَنْكِحُوا = (نکح) (1) تم نکاح کرادو

تَنْكِرُونَ = (نکر) (1) تم انکار کرتے

ہو

تَنْكِصُونَ = (نقص) (ض) تم پھرتے

بھاگتے ہو

تَنْكِيلاً = (نکل) (س) سزا عذاب دینا

تَنْوِرٌ = (تنور) (ت) تنور

تَنْوَاءٌ = (نوء) (ن) وہ بھاری پڑتی تھکاتی

ہے

تَوْفِيقِي = (وفق) میری توفیق
 تَوْقِدُون = (وقد) تم چلاتے ہو
 تَوْقِرُوهُ = (وقر) تم اس کی توفیر
 عزت کرو

تَوْقِنُون = (وقن) تم یقین کرو
 تَوْكَلْ = (وكل) تو توکل کر
 تَوْكَلْتُ = (وكل) میں نے توکل کیا
 تَوْكَلْنَا = (وكل) ہم نے توکل کیا
 تَوْكَلُوا = (وكل) تم توکل کرو

تَوْكِيْد = (وكد) مضبوطی
 تَوَلَّ = (ولي) تو ہٹ جا۔ تو منہ پھیر
 لے
 تَوَلَّى = (ولي) اس نے منہ پھیرا۔
 اُس نے دوستی کی

تَوَلَّجْ = (ولج) تو داخل کرتا ہے
 تَوَلَّوْا = (ولي) تم پھر جاؤ گے
 تَوَلَّوْا = (ولي) تم پھر جاؤ
 تَوَلَّوْنَ = (ولي) تم منہ پھیرو گے
 تَوَلَّيْتُمْ = (ولي) تم نے منہ پھیرا

ت

تُهَاجِرُوا = (هجر) تم ہجرت کر جاؤ
 تَهْتَدُوا = (هدى) تم ہدایت پاؤ

تَوَدُّون = (ودد) تم چاہتے ہو

تَوْرَاهُ = (تور) توریت

تَوْرُونَ = (وزى) تم جلاتے ہو

تَوَسُّوسٌ = (وسوس) وہ وسوسہ ڈالتی

ہے

تَوَصُّونَ = (وصى) تم وصیت کرتے

ہو

تَوَصِيَّةٌ = (وصى) وصیت کرنا

تَوَعَّدُون = (وعد) تم سے وعدہ کیا

جاتا ہے

تَوَعَّدُونَ = (وعد) تم ڈراتے ہو

تَوَعَّظُونَ = (وعظ) تمہیں نصیحت

کی جاتی ہے

تَوَفَّى = (وفى) اُسے پورا بدلہ دیا

جائے گا

تَوَفَّى = (وفى) اس نے اٹھالیا

تَوَفَّتْ = (وفى) اس نے وفات دی

تَوَفَّوْنَ = (وفى) تم کو پورا بدلہ دیا

جائے گا

تَوَفَّيْتِي = (وفى) تو نے وفات دی

مجھے۔ تو نے وقت پورا کیا میرا

تَوَفِّيقًا = (وفق) توفیق۔ ملانا

تَأْتُونَ = (عت ی) (ض) تم آتے ہو
تُؤْتُوهُ = (عت ی) (1) تمہیں وہ (حکم) دیا
جائے

تَأْتِي = (عت ی) (ض) وہ آئے۔ تو آئے
تَأْتِيَنَّكُمْ = (عت ی) (ض) وہ تمہارے
پاس ضرور آئے گی

تُؤْتِرُونَ = (ع ث ر) (1) تم ترجیح دیتے ہو
تَأْتِيْمُ = (ع ث م) گناہ کی بات
تَأْجِرُنِي = (ع ج ر) (ن) تو ملازم رکھے مجھ کو

تَأْخُذُ = (ع خ ذ) (ن) تو لیتا ہے
تَأْخُذُوا = (ع خ ذ) (ن) تم لے لو
تَأْخُذُونَ = (ع خ ذ) (ن) تم لیتے ہو

تَأْخِرُ = (ع خ ر) (4) اس نے دیر کی۔ وہ
پیچھے رہا

تُؤَدُّوْا = (عد ی) (2) تم ادا کرو پونہچاؤ
تَأْذَنُ = (ع ذ ن) (4) اس نے اعلان کیا
تُؤَدُّوْا = (عد ی) (1) تم ایذا تکلیف دو

تُؤَدُّوْنَ = (عد ی) (ن) تم ایذا تکلیف
دیتے ہو
تُؤَزِّهْمُ = (ع ز ه) (ع ز ز) وہ اُن کو ابھارتے ہیں

تَأْسُ = (ع س ی) (س ف ض) تو افسوس کرتا
ہے

تَهْدُونَ = (هد ی) (7) تم ہدایت پاتے ہو
تَهْدِي = (هد ی) (7) وہ ہدایت پاتی ہے
تَهْتَزُ = (ه ز ز) (7) وہ ہلتی ہے

تَهْجَدُ = (ه ج د) (4) تو تہجد پڑھ
تَهْجُرُونَ = (ه ج ر) (ن) تم چھوڑتے ہو
تَهْدُوا = (هد ی) (ض) تم ہدایت پاؤ

تَهْدِي = (هد ی) (ض) تو ہدایت دیتا ہے
تُهْلِكُ = (ه ل ک) (1) تو ہلاک کرتا ہے
تَهْلِكَةُ = (ه ل ک) ہلاکت

تَهْنُؤُوا = (ه ن) (ض خ ک) تم کمزور پڑ
جاؤ
تَهْوِي = (ه و ی) (س) وہ چاہتی ہے

تَهْوِي = (ه و ی) (ض) وہ پھینک دیتی ہے
ت

تُؤَاخِذُ = (ع خ ذ) (3) تو پکڑ
تَأْبِي = (ع ب ی) (ف) وہ (دل) انکار
کرتے ہیں

تَأْتِ = (عت ی) (ض) وہ آئے
تَأْتِنِي = (عت ی) (ض) تم ضرور میرے
پاس لاؤ گے

تَأْتُوا = (عت ی) (ض) تم آؤ
تُؤْتُوا = (عت ی) (1) تم دو

تَوَمَّنُوا = (ءم ن) (1) تم ایمان لاؤ

تَوَمَّنُونَ = (ءم ن) (1) تم ایمان لاتے ہو

تَأْمَنُهُ = (ءم ن) (س) تو اس کے پاس امانت رکھتا ہے

تَوَوِيءٌ = (ءو ی) (1) توجہ دیتا ہے

تَأْوِيلٌ = (ءول) مطلب - حقیقت

ت ی

تَيَسَّرَ = (ی س ر) (4) وہ آسان ہو

تَيَمَّمُوا = (ی م م) (4) تم ارادہ کرو۔ تم تیمم کرو

تَأْيِسُوا = (ی ءس) (س-ف-ض) تم مایوس ہو

ث

ثَابِتٌ = (ث ب ت) مضبوط

ثَاقِبٌ = (ث ق ب) چمک دار

ثَالِثٌ = (ث ل ث) تیسرا

ثَائِفَةٌ = (ث ل ث) تیسرا

ثَامِنٌ = (ث م ن) آٹھواں

ثَانِيٌّ = (ث ن ی) دوسرا

ثَاوِيئًا = (ث و ی) رہنے والا

ثُبَاتٍ = (ث ب ی) الگ الگ گروہ

ثَبَّتْ = (ث ب ت) (2) تو ثابت رہا تم رکھ

تَأْسِرُونَ = (ءس ر) (ض) تم قید کرتے

ہو

تَأْسُوا = (ءس ی) (س ف ض) تم افسوس

کرو

تَأْفِكْنَا = (ءف ک) (ض) تو ہم کو پھیر رہا

دے گا

تُوَفِّكُونُ = (ءف ک) (ض-س) تم

پھیرے رہا پلٹائے جاتے ہو

تَأْكُلُ = (ءک ل) (ن) وہ کھاتی ہے

تَأْكُلُوا = (ءک ل) (ن) تم کھاؤ

تَأْكُلُونَ = (ءک ل) (ن) تم کھاتے ہو

تَأْمُونَ = (ءل م) (س) تمہیں تکلیف ہوتی

ہے

تَوَمَّرُ = (ءم ر) (ن) تجھے حکم دیا جاتا ہے

تَأْمُرُ = (ءم ر) (ن) تو حکم دیتا ہے

تَأْمُرُونَ = (ءم ر) (ن) تم حکم دیتے ہو

تَوَمَّرُونَ = (ءم ر) (ن) تمہیں حکم دیا جاتا

ہے

تَأْمُرِينَ = (ءم ر) (ن) تو حکم دیتی ہے

تَوَمِّنُ = (ءم ن) (1) تو ایمان لاتا ہے

تَأْمَنَّا = (ءم ن) (س) تو ہم پر اعتبار کرتا ہے

تَوَمِّنُنَّ = (ءم ن) (1) تم ضرور ایمان لاؤ گے

ثَمِنِي = (ث م ن) آٹھ (8)	ثَبْتًا = (ث ب ت) (2) ہم نے تجھے
ثَمِينَةٌ = (ث م ن) آٹھ (8)	ثَابِتًا = ثابت قدم رکھا
ثَمِينِينَ = (ث م ن) اسی (80)	ثَبَّتُوا = (ث ب ت) (2) تم ثابت قدم رکھو
ثَمَرَاتٍ = (ث م ر) پھل (جمع)	ثَبَّطَهُمْ = (ث ب ط) (2) اس نے اُن کو
ثَمْرَةً = (ث م ر) پھل	رُكِّدَ = روک دیا
ثَمُودًا = (ث م و د) ثمود کا نام	ثُبُوتَهَا = (ث ب ت) اس کا ثابت ہونا
ثَوَابٌ = (ث و ب) ثواب بدلہ	ثُبُورًا = (ث ب ر) ہلاکت
ثَوْبٌ = (ث و ب) (2) اُسے بدلہ دیا گیا	ثَجَّاجًا = (ث ج ح) موسلا دھار بارش
ثِيَابٌ = (ث و ب) کپڑے	ثُعْبَانٌ = (ث ع ب) اژدھا
ثِيَابٍ = (ث ی ب) سابقہ شادی شدہ	ثِقَالٌ = (ث ق ل) بھاری۔ بوجھل۔ (جمع)
عورتیں۔ شوہر دیدہ عورتیں	ثَقِفْتُمُوهُمُ = (ث ق ف) (س) تم نے
ج	اُن کو پایا
جَسْمِينًا = (ج س م) اونڈھے پڑے ہوئے	ثَقِفُوا = (ث ق ف) (س) وہ پائے جائیں
جَسَائِيَّةٌ = (ج س و) = (ج س ی) گھٹنوں	ثَقَلْنِي = (ث ق ل) دو بھاری چیزیں (جن
کے بل گری ہوئی	اور انسان)
جَادِلٌ = (ج د ل) (3) تو بحث کر	ثَقِيلًا = (ث ق ل) بوجھل۔ بھاری
جَادَلْتُ = (ج د ل) (3) تو نے بحث کی	ثَلَاثٌ = (ث ل ث) تین (3)
جَادَلْتُمْ = (ج د ل) (3) تم نے جھگڑا کیا	ثَلَاثَةٌ = (ث ل ث) تین (3)
جَادَلُوا = (ج د ل) (3) انہوں نے جھگڑا کیا	ثَلَاثُونَ = (ث ل ث) تیس (30)
جَارٌ = (ج و ر) پڑوسی۔ ہمسایہ	ثَلَاثِينَ = (ث ل ث) (30)
جَارِيَةٌ = (ج ر ی) کشتیاں	ثَلَاثَةٌ = (ث ل ل) ایک بڑی جماعت
جَارِيَةٌ = (ج ر ی) کشتی	ثَلَاثَانِ = (ث ل ث) دو تہائی

جہلین = (ج ہ ل) جاہل۔ نادان (جمع)	جساز = (ج ز ی) کام آنے والا۔ بدلہ دینے والا
جاء = (ج ی ء) (ض) وہ آیا	جاسوا = (ج و س) (ن) وہ گھس گئے
جاءت = (ج ی ء) (ض) وہ آئی	جاعل = (ج ع ل) بنانے والا
جائر = (ج و ر) ٹیزھا۔ غلط	جاعلون = (ج ع ل) بنانے والے
جاءوا = (ج ی ء) (ض) وہ آئے	جاعلوہ = (ج ع ل) بنانے والے اُس کو
جائر = (ج ب ر) زبردست۔ سرکش	جامدة = (ج م د) جمی رٹھری ہوئی
جبارین = (ج ب ر) بڑے سرکش لوگ	جامع = (ج م ع) جمع کرنے والا
جبال = (ج ب ل) پہاڑ (جمع)	جان = (ج ن ن) سانپ
جباہ = (ج ب ہ) پیشانیاں	جانب = (ج ن ب) جانب۔ طرف
جبریل = (ج ب ر ی ل) جبرئیل علیہ السلام	جاوز = (ج و ز) (3) وہ پارا ترا
جبل = (ج ب ل) مخلوق۔ جماعت	جاوزا = (ج و ز) (3) وہ دونوں آگے
جبلۃ = (ج ب ل) خلقت۔ مخلوقات	بڑھے
جبین = (ج ب ن) پیشانی	جاوز نما = (ج و ز) (3) ہم نے پارا تارا
جیشا = (ج ش و) = (ج ش ی) اوندھے گے ہوئے	جاہد = (ج ہ د) (3) اس نے جہاد کیا
جحیم = (ج ح م) دوزخ	جاہدک = (ج ہ د) (3) وہ دونوں تجھ پر
جدار = (ج د ر) دیوار	زور ڈالیں
جدال = (ج د ل) جھگڑا	جاہدوا = (ج ہ د) (3) انہوں نے جہاد کیا
جدیدنا = (ج د ن ا) نیا	جاہدوا = (ج ہ د) (3) تم جہاد کرو
جداد = (ج د و) نکلنے نکلنے	جاہل = (ج ہ ل) جاہل۔ نادان
جدوة = (ج و و) چنگاری۔ انگارا	جہلون = (ج ہ ل) جاہل۔ نادان (جمع)
جدوع = (ج و ع) درخت۔ تنے	جاہلیۃ = (ج ہ ل) جہالت۔ نادانی

جَمِيعٌ = (ج م ع) سارے۔ تمام	جَوَادٌ = (ج و ا د) نڈیاں
جَمِيْلٌ = (ج م ل) خوبصورت	جَوُوْحٌ = (ج و ح) زخم (جمع)
جَنِيٌّ = (ج ن ی) پھل میوہ	جَوْرِيْنٌ = (ج و ر ی) وہ جاری ہوئیں رہے نکلیں
جَنَّتٌ = (ج ن ن) باغات	جَزَاءٌ = (ج ز ی) جزا۔ بدلہ
جَنَاحٌ = (ج ن ح) پر	جَزُوْعًا = (ج ز ع) پریشان
جُنَاحٌ = (ج ن ح) گناہ۔ حرج	جَزِيَّةٌ = (ج ز ی) جزیہ
جَنَاحِيْهِ = (ج ن ح) دوپرائس کے	جَزِيْتٌ = (ج ز ی) میں نے بدل دیا
جُنَّةٌ = (ج ن ن) ڈھال	جَزِيْنَا = (ج ز ی) ہم نے بدل دیا
جَنَّةٌ = (ج ن ن) باغ۔ جنت	جَفَانٌ = (ج ف ن) بڑے پیالے لگن
جَنَّةٌ = (ج ن ن) جن۔ جنوں	جُفَاءً = (ج ف ء) کوڑا کرکٹ
جَنَّتِيْنٌ = (ج ن ن) دو باغ	جَلَابِيْبٌ = (ج ل ب) چادریں
جَنَّتِيْنٌ = (ج ن ن) دو باغ	جَلِيْلٌ = (ج ل ل) جلال۔ عظمت۔ بزرگی
جَنَحُوْا = (ج ن ح) وہ جھکیں	جَلَّهَآ = (ج ل ی) (2) اس نے اس کو روشن
جُنُوْبٌ = (ج ن ب) پہلو۔ کروٹ (جمع)	کیا
جُنُوْدٌ = (ج ن د) لشکر (جمع)	جَلَاءٌ = (ج ل ی) جلا وطنی
جِنِيًّا = (ج ن ی) تروتازہ	جَلْدَةٌ = (ج ل د) کوڑے۔ تازیانے
جَوَابٌ = (ج و ب) جواب	جُلُوْدٌ = (ج ل د) کھالیں
كَآلِ جَوَابٍ = (ج ب ی) بڑے حوض رتالاب	جَمَالٌ = (ج م ل) خوبصورتی
جَوَارٍ = (ج و ر ی) کشتیاں۔ جہاز	جَمَلْتُ = (ج م ل) اونٹ (جمع)
جَوَارِحٌ = (ج و ر ح) شکاری جانور (جمع)	جَمْعِيْنٌ = (ج م ع) دو لشکر
زنجی کرنے والے	جُمُعَةٌ = (ج م ع) جمع۔ جمعے کا دن
جُوْدِيٌّ = (ج و د ی) جود۔ پہاڑ کا نام	جُمْلَةٌ = (ج م ل) اکٹھا۔ سارے کا سارا

حَادٌّ = (ح ذ د) (3) وہ مخالف ہوا
 حَذِرُ وُنْ = (ح ذ ر) ڈرنے والے محتاط۔
 مسلح
 حَارِبٌ = (ح ر ب) (3) اُس نے جنگ کی
 حَاسِبِنَا = (ح س ب) (3) ہم نے حساب
 لیا
 حَسِبِينَ = (ح س ب) حساب لینے والے
 حَاسِدٌ = (ح س د) حسد کرنے والا
 حَاشٌ = (ح ش) توبہ توبہ۔ پاکی ہے۔ دور
 ہے
 حَشِيرِينَ = (ح ش ر) جمع کرنے والے
 حَاصِبَا = (ح ص ب) پتھروں والی سخت
 آندھی
 حَاضِرًا = (ح ض ر) حاضر۔ موجود
 حَاضِرَةٌ = (ح ض ر) حاضر۔ موجود (مونث)
 حَاضِرِيٌّ = (ح ض ر) حاضرین۔
 باشندے
 حَافِرَةٌ = (ح ف ر) پہلی حالت۔ قبر کی جگہ
 حَافِظٌ = (ح ف ظ) حفاظت کرنے والا
 حِفْظٌ = (ح ف ظ) (3) حفاظت کرنے
 والیاں
 حِفْظُوا = (ح ف ظ) (3) تم حفاظت کرو

جِهَادٌ = (ج ہ د) جہاد۔

جِهَارٌ = (ج ہ ر) پکارنا

جِهَازٌ = (ج ہ ز) سامان

جِهَالَةٌ = (ج ہ ل) جہالت۔ نادانی

جَهْرَةٌ = (ج ہ ر) ظاہر۔ برملا

جَهْزٌ = (ج ہ ز) (2) اس نے تیار کیا

جَهَنَّمٌ = (ج ہ ن م) جہنم۔ دوزخ

جَهُولًا = (ج ہ ل) بڑا جاہل۔ نادان

جِنْتُ = (ج ی ء) (ض) تو آیا

جِيَادٌ = (ج د د) بہت عمدہ (گھوڑے)

جِيُوبٌ = (ج ی ب) گریبان (جمع)

ح

حَاجٌ = (ح ج ج) (3) اُس نے بحث کی

جھگڑا کیا

حَاجٌ = (ح ج ج) حاجی۔ حج کرنے والے

حَاجَةٌ = (ح و ج) حاجت۔ ضرورت

حَاجِبُكُمْ = (ح ج ج) (3) تم نے بحث

کی

حَاجِزًا = (ح ج ز) روکنے والا۔ پردہ

حَاجِزِينَ = (ح ج ز) روکنے والے

حَاجُّوْا = (ح ج ج) (3) انہوں نے جھگڑا

کیا

حُجُرَاتٍ (ح ج ر) کرے	حَفِظُونْ = (ح ف ظ) حفاظت کرنے
حُجُورِكُمْ (ح ج ر) گودیں تمہاری	والے
حِدَادٍ = (ح د و) تیز۔ غضبناک (جمع)	حَفِظِينَ = (ح ف ظ) حفاظت کرنے والے
حَدَائِقُ = (ح د ق) باغات	حَاقِينَ = (ح ف ف) حلقہ بنائے ہوئے
حَدِيثٌ = (ح د ث) (2) تو بتا۔ تو بیان کر	حَاقٍ = (ح ی ق) (ض) اس نے گھریا
حُدُودٌ = (ح د و) حدیں	حَاقَّةٌ = (ح ق ق) حق ہونے والی (قیامت)
حَدِيثٌ = (ح د ث) بات	حَكِيمِينَ = (ح ک م) فیصلہ کرنے والے
حَدِيدٌ = (ح د و) لوہا	حَالَ = (ح و ل) (س) حاکم ہوا
حَرَامٌ = (ح ر م) حرام	حَامٌ = (ح م ی) دس بچے جنوانے والا اونٹ
حَرِيضٌ = (ح ر ض) (2) تو ترغیب دے	حَمِيدُونَ = (ح م و) حمد و تعریف کرنے
حَرِيقٌ = (ح ر ق) (2) تم جلاؤ اس کو	والے
حَرَمٌ = (ح ر م) (2) اس نے حرام کیا	حَمَلَتْ = (ح م ل) اٹھانے والیاں
حُرْمٌ = (ح ر م) (2) وہ حرام کیا گیا	حَمَلِينَ = (ح م ل) اٹھانے والے
حُرْمَتٌ = (ح ر م) حرمتیں	حَامِيَةٌ = (ح م ی) سخت گرم۔ دوزخ
حُرْمَتٌ = (ح ر م) (2) حرام کی گئی	حِبَالٌ = (ح ب ل) رسیاں
حَرَمْنَا = (ح ر م) (2) ہم نے حرام کیا	حَبَبٌ = (ح ب ب) (2) اُس نے محبت
حَرَمُوا = (ح ر م) (2) انہوں نے حرام کیا	ڈالی
حُرُورٌ = (ح ر و) لو۔ گری۔ دھوپ	حَبَّةٌ = (ح ب ب) دانہ
حَرِيرٌ = (ح ر ر) ریشم	حَبِيثًا = (ح ث ث) تیزی سے دوڑتا ہوا
حَرِيصٌ = (ح ر ص) خواہش مند	حِجَابٌ = (ح ج ب) پردہ
حَرِيْقٌ = (ح ر ق) آگ	حِجَارَةٌ = (ح ج ر) پتھر
حَزْبِينَ = (ح ز ب) دو گروہ	حُجَّةٌ = (ح ج ج) حجت۔ دلیل

حُصُونُ = (ح ص ن) قلعے	حِسَابٌ = (ح س ب) حساب
حَصِيدٌ = (ح ص د) کٹی ہوئی کھیتی	حِسَانٌ = (ح س ن) خوبصورت (جمع)
حَصِيرًا = (ح ص ر) قید خانہ۔ جیل خانہ	حُسْبَانٌ = (ح س ب) حساب۔ شمار
حَضْرُوهُ = (ح ض ر) (ن س) وہ اُس کے پاس حاضر	حَسْرَاتٌ = (ح س ر) حسرتیں۔ پشیمائیاں
حُطَامًا = (ح ط م) پُورا پُورا	حَسْرَةٌ = (ح س ر) حسرت۔ پشیمانی
حِطَّةٌ = (ح ط ط) معافی۔ بخشش۔ توبہ	حُسْنِيٌّ = (ح س ن) اچھی۔ خوبصورت
حُطْمَةٌ = (ح ط م) پیس ڈالنے والی۔ دوزخ کے پاس	حَسَنَةٌ = (ح س ن) نیکیاں
حَفْدَةٌ = (ح ف د) پوتے	حَسَنَةٌ = (ح س ن) نیکی
حُفْرَةٌ = (ح ف ر) گڑھا	حُسَيْنٌ = (ح س ن) دو اچھائیاں
حَفِظَةٌ = (ح ف ظ) نگہبان۔ حفاظت کرنے والے	حُسُومًا = (ح س م) لگاتار۔ جڑکانے والی
حَفِيٌّ = (ح ف ي) بحث تحقیق کرنے والا۔ مہربان	حَسِيْبًا = (ح س ب) حساب لینے والا
حَفِيْظٌ = (ح ف ظ) نگہبان۔ محافظ	حَسِيْرٌ = (ح س ر) تھکا ہوا۔ عاجز
حَقَّتْ = (ح ق ق) (ن) وہ ثابت ہوئی	حَسِيْسَهَا = (ح س س) اس کی آہٹ رکھنا
حُقَّتْ = (ح ق ق) (ن) وہ اسی لائق ہے۔ وہ ثابت کی گئی	حُسْرَتٌ = (ح ش ر) (ن) جمع کی گئی
حَقِيْقٌ = (ح ق ق) لائق۔ مناسب قائم	حَصَادِه = (ح ص د) فصل کاٹنا اس کی
حُكَّامٌ = (ح ك م) حکام۔ حکمران	حَصْصَ = (ح ص ح ص) (10) وہ ظاہر ہو گیا
حَكْمَتٌ = (ح ك م) (ن) تم فصل کاٹو	حَصَدْتُمْ = (ح ص د) (ن ص) تم فصل کاٹو
	حُصِّلَ = (ح ص ل) (2) وہ حاصل رہا ہر کیا گیا
	حُصُوْرًا = (ح ص ر) پاکباز۔ عورتوں سے بے رغبت

فیصلہ کیا

کے لائق	حِكْمَةٌ = (ح ک م) دانائی
حَمِيرٌ = (ح م ر) گدھا	حَكِيمٌ = (ح ک م) دانا۔ حکمت والا
حَمِيمٌ = (ح م م) جگری دوست۔ کھولتا ہوا	حَلَّافٌ = (ح ل ف) زیادہ قسمیں کھانے والا
حَنَاجِرٌ = (ح ن ج ر) گلے۔ حلق (جمع)	حَلَلٌ = (ح ل ل) حلال
حَنَانٌ = (ح ن ن) مہربانی۔ شفقت	حَلَاتِلٌ = (ح ل ل) بیویاں۔ ذہنیں
حُنْفَاءٌ = (ح ن ف) یکسو ہونے والے	حُلُقُومٌ = (ح ل ق م) گلا۔ حلق
حَنِيدٌ = (ح ن ذ) بھتا ہوا	حُلُوٌّ = (ح ل ی) وہ پہنائے جائیں گے
حَنِيفًا = (ح ن ف) یکسو	حَلِيَّةٌ = (ح ل ی) زیور
حُنَيْنٌ = (ح ن ی ن) حنین۔ جگہ کا نام	حَلِيمٌ = (ح ل م) تحمل والا
حَوَارِیُّونَ = (ح و ا ر ی ن) حواری۔ شاگرد	حِمَارٌ = (ح م ر) گدھا
(جمع)	حَمَالَةٌ = (ح م ل) خوب بوجھ اٹھانے والی
حَوَارِیِّنَ = (ح و ا ر ی ن) حواری۔ شاگرد	حَمَلٌ = (ح م ل) (2) اُس نے بوجھ لا دیا
(جمع)	حَمَلَتْ = (ح م ل) (ض) وہ اٹھائی گئی
حَوَايَا = (ح و ی آ ن ت ی ا) انتڑیاں	حَمَلْتُمْ = (ح م ل) (2) تم پر بوجھ رکھا گیا
حَوَلِیْنِ = (ح و ل ن) دو سال	حَمَلْنَا = (ح م ل) (2) ہم پر بوجھ ڈالا گیا
حَیوَةٌ = (ح ی ی) زندگی	حَمَلُوا = (ح م ل) (2) اُن پر بوجھ لا دیا گیا
حَیَّةٌ = (ح ی ی) سانپ	حَمُولَةٌ = (ح م ل) بوجھ اٹھانے والے
حَیثَا نُهْمُ = (ح و ت) مچھلیاں اُن کی	حَمِئَةٌ = (ح م ء) کچھڑ والا۔ سیاہ دلدل کا پانی
حَیْرَانٌ = (ح ی ر) حیران۔ پریشان	حَمِيَّةٌ = (ح م ی) حمیت۔ عزت۔ ضد۔ عار
حِیْلٌ = (ح و ل) (س۔ ن) وہ حائل کردی گئی	حَمِيْدٌ = (ح م د) تعریف کیا گیا۔ تعریف

خَاشِعًا = (خ ش ع) عاجزی کرنے والا
 خُشِفَتْ = (خ ش ع) عاجزی کرنے
 والیاں
 خَاشِعَةٌ = (خ ش ع) عاجزی کرنے والی
 خُشِعُونَ = (خ ش ع) عاجزی کرنے
 والے
 خُشِعِينَ = (خ ش ع) عاجزی کرنے
 والے
 خَاصَّةً = (خ ص ص) خاص کر مخصوص
 خُضِعِينَ = (خ ض ع) جھکنے والے
 خَاصُّوْا = (خ ض ن) انہوں نے بحث
 کی
 خَاطَبَ = (خ ط ب) (3) اس نے بات
 چیت کی
 خَاطِبَةٌ = (خ ط ب) گناہ گار۔ خطا کار
 خَاطِبُونَ = (خ ط ب) گناہ گار لوگ
 خَاطِبِينَ = (خ ط ب) گناہ گار لوگ
 خَافَ = (خ و ف) وہ ڈر گیا
 خَافَتْ = (خ و ف) وہ ڈر گئی
 خَافِصَةٌ = (خ ف ض) پست کرنے والی
 خَافُوا = (خ و ف) وہ ڈرے

حَيْلَةٌ = (ح و ل) حیلہ۔ چارہ گری
 حَيُّوْا = (ح ی ی) تم دعا دو اور سلام کرو
 حَيَوَانٌ = (ح ی ی) زندگی۔ ہمیشہ کی زندگی
 حَيَوَاتٌ = (ح ی ی) وہ دعا دیتے تھے کو
 حَيِّتُمْ = (ح ی ی) تمہیں دعا دی جائے۔
 تمہیں سلام کیا جائے

خ

خَابَ = (خ ی ب) (ض) وہ نامراد ہوا۔ وہ
 ناکام ہوا
 خَاتِمٌ = (خ ت م) ختم کرنے والا۔ مہر
 خَادِعٌ = (خ د ع) دھوکا دینے والا
 خَارِجٌ = (خ ر ج) نکلنے والا
 خُذْ = (خ ذ) (ن) تولے۔ تو پکڑ
 خِرَجِينَ = (خ ر ج) نکلنے والے
 خُزَيْنٌ = (خ ز ن) خزانہ جمع کرنے والا
 خَاسِرَةٌ = (خ س ر) نقصان والی
 خُسِرُونَ = (خ س ر) خسار پانے والے
 خُسِرِينَ = (خ س ر) خسار پانے والے
 خَاسِنًا = (خ س ع) ذلیل کرنے والا
 خُسَيْيُنٌ = (خ س ع) ذلیل۔ دھتکارے
 ہوئے

کی	خَافِيَةٌ = (خ ف ی) چھپنے والی
خَاوِيَةٌ = (خ و ی) گری پڑی	خَالَتْ = (خ و ل) خالائیں
خَائِبِينَ = (خ ی ب) ناکام۔ نامراد (جمع)	خَالِدٌ = (خ ل د) ہمیشہ رہنے والا
خَائِضِينَ = (خ و ض) بحث کرنے والے	خَالِدُونَ = (خ ل د) ہمیشہ رہنے والے
خَائِفًا = (خ و ف) ڈرتا ہوا	خَالِدِينَ = (خ ل د) ہمیشہ رہنے والے
خَائِفِينَ = (خ و ف) ڈرتے ہوئے۔	خَالِدِينَ = (خ ل د) دونوں ہمیشہ رہنے
ڈرنے والے	والے
خَائِنَةٌ = (خ و ن) خیانت	خَالِصٌ = (خ ل ص) خالص۔ صاف
خَائِنِينَ = (خ و ن) خیانت کرنے والے	خَالِصَةٌ = (خ ل ص) خالص۔ صاف
خَبَالًا = (خ ب ل) خرابی	خَالِفِينَ = (خ ل ف) پیچھے رہنے والے
خَبِيثٌ = (خ ب ث) ناپاک چیزیں	خَالِقٌ = (خ ل ق) پیدا کرنے والا
خَبَثٌ = (خ ب و) وہ دھبی ہوئی۔ وہ تبھی	خَالِقُونَ = (خ ل ق) پیدا کرنے والے
خَبِيثٌ = (خ ب ث) ناپاک	خَالِقِينَ = (خ ل ق) پیدا کرنے والے
خَبِيثَةٌ = (خ ب ث) ناپاک عورتیں	خَالِكَ = (خ و ل) تیرا۔ ماموں
خَبِيثُونَ = (خ ب ث) ناپاک مرد	خَالِيَةً = (خ ل و) خالی ہونے والا۔ گزشتہ
خَبِيثِينَ = (خ ب ث) ناپاک مرد	خَمِيدُونَ = (خ م و) بچھے ہوئے
خَبِيرٌ = (خ ب ر) باخبر	خَمِيدِينَ = (خ م و) بچھنے والے
خَبَارٍ = (خ ت ر) بڑا دھوکا باز۔ عہد توڑنے	خَامِسَةٌ = (خ م س) پانچواں
والا	خَانَتْهُمَا = (خ و ن) (ن) دونوں نے
خَتْمَةٌ = (خ ت م) اس کے مہر لگانے کی چیز	دونوں سے خیانت کی
خُذٌ = (خ ذ ن) تو پکڑ۔ تو لے	خَانُوا = (خ و ن) (ن) انہوں نے خیانت

خَصِيمٌ = (خ ص م) جھگڑالو
 خُضْتُمْ = (خ وض) (ن) تم نے فضول بحث
 کی
 خِطَابٍ = (خ ط ب) خطاب۔ گفتگو
 خَطَايَاً = (خ ط اء) خطائیں۔ گناہ
 خِطْبَةٌ = (خ ط ب) مکتبی
 خُطْفَةٌ = (خ ط ف) اچک لینا۔ چھٹ لینا
 خُطُوبٍ = (خ ط و) قدم۔ نقش قدم (جمع)
 خِطِيَّتٍ = (خ ط اء) خطائیں۔ گناہ
 خِطِيئَةٌ = (خ ط اء) خطا۔ گناہ
 خِفَافًا = (خ ف ف) ہلکے
 خِفْتُ = (خ ف ف) (ض) وہ ہلکی ہوئی
 خِفْتٍ = (خ و ف) (ن) تو ڈری
 خِفْتُ = (خ و ف) (ن) میں ڈرا
 خِفْتُمْ = (خ و ف) (ن) تم ڈرے
 خَفَّفَ = (خ ف ف) (ض) اس نے ہلکا کر دیا
 خَفِيًّا = (خ ف ی) پوشیدہ
 خُفِيَّةٌ = (خ ف ی) خفیہ۔ چھپی ہوئی
 خَفِيْفًا = (خ ف ف) ہلکا
 خَلَاً = (خ ل و) (ن) وہ ہوگزرا۔ وہ اکیلا
 ہوا

خُدُوْا = (ء خ ذ) (ن) تم پکڑو۔ تم لو
 خُدُوْا لَّا = (خ ذ ل) بے وفا
 خَوَّابِهَآ = (خ ر ب) اُس کا ویران کرنا
 خَوَّاجٌ = (خ ر ج) خراج۔ معاوضہ۔ ثواب
 خَوَّاصُوْنَ = (خ و ص) اٹکل دوڑانے والے
 خَوَّذِلٌ = (خ و ذ ل) رائی۔ رائی کا دانہ
 خَوَّطُوْمٌ = (خ و ط م) بڑی ناک۔ سونڈ
 خَوَّوْجٌ = (خ و ج) نکلنا
 خَوَّزَيْنٌ = (خ ز ن) خزانے
 خَوَّزِنَةٌ = (خ ز ن) محافظ فرشتے
 خَسَّارًا = (خ س ر) گھانا۔ نقصان
 خُسْرَانٌ = (خ س ر) گھانا۔ نقصان
 خُشَّعًا = (خ ش ع) عاجزی کرنے والے
 خُشُوْعًا = (خ ش ع) خشوع۔ عاجزی
 خَشِيَّةٌ = (خ ش ی) ڈر۔ خوف
 خَشِيْنًا = (خ ش ی) ہم نے اندیش کیا
 خَصَّاصَةٌ = (خ ص ص) حاجت۔ ضرورت
 خِصَامٌ = (خ ص م) جھگڑا کرنا۔ جھگڑا
 کرنے والے
 خِصْمِيْنَ = (خ ص م) دو مخالف فریق
 خِصْمُوْنَ = (خ ص م) جھگڑنے والے

خَمْسِينَ = (خ م س) پچاس (50)
 خَنَازِيرٌ = (خ ن ز ر) سور۔ خنزیر۔ (جمع)
 خَنَاسٍ = (خ ن س) پیچھے ہٹنے والا
 خَنْزِيرٌ = (خ و ر) خنزیر۔ سور
 خُنْسٍ = (خ ل س) پیچھے ہٹنے والے۔ چھپنے والے
 خُوَارٌ = (خ و ر) گائے کی آواز
 خَوَالِفٍ = (خ ل ف) پیچھے رہنے والیاں
 خَوَانٌ = (خ و ن) بڑا خیانت کرنے والا
 خَوَالٌ = (خ و ل) (2) اُس نے دیا
 خَوَلْنَا = (خ و ل) (2) ہم نے دیا
 خِيَابٌ = (خ ي ط) سوئی
 خِيَامٌ = (خ ي م) خیمے
 خِيَانَةٌ = (خ و ن) خیانت
 خَيْرَاتٌ = (خ ي ر) نیکیاں۔ خوب سیرت عورتیں
 خَيْرَةٌ = (خ ي ر) اختیار
 خِيْفَةٌ = (خ و ف) خوف کرنا۔ ڈرنا
 دَابَّةٌ = (د ب ب) جاندار۔ چلنے والا
 دَابِرٌ = (د ب ر) جڑ

خَلْفٌ = (خ ل ف) خلاف۔ پیچھے
 خَلَاقٌ = (خ ل ق) حصہ
 خَلْقٌ = (خ ل ق) بڑا پیدا کرنے والا
 خَلَلٌ = (خ ل ل) اندر۔ درمیان
 خَلِيفٌ = (خ ل ف) خلفاء جانشین
 خَلَّتْ = (خ ل و) (ن) وہ ہو گزری
 خُلَّةٌ = (خ ل ل) دوستی
 خُلَطَاءٌ = (خ ل ط) حصے دار۔ شراکت دار
 خُلَفَاءٌ = (خ ل ف) خلفاء۔ جانشین
 خِلْفَةٌ = (خ ل ف) آگے پیچھے آنے والے
 خَلَفْتُمُونِي = (خ ل ف) (ن) تم نے میری جانشینی کی
 خُلِفُوا = (خ ل ف) (ن) وہ پیچھے چھوڑ گئے
 خُلِقْتُ = (خ ل ق) (ن) پیدا کی گئی
 خُلِقُوا = (خ ل ق) (ن) وہ پیدا کیے گئے
 خَلَوْا = (خ ل و) (ن) وہ گزرے۔ وہ اکیلے ہوئے
 خَلُّوا = (خ ل و) (2) تم چھوڑ دو
 خُلُودٌ = (خ ل و) ہمیشہ رہنا
 خَلِيفَةٌ = (خ ل ف) خلیفہ۔ نائب جانشین
 خَلِيلًا = (خ ل ل) دوست

دِرَاسَةٌ = (درس) پڑھنا پڑھانا
 دِرَاهِمٌ = (درہم) درہم (جمع)
 دِرَجَاتٌ = (درج) درجے۔ مرتبے
 دُرِّيٌّ = (درر) چمک دار
 دَسَّهًا = (دس) (2) اس نے اُسے خاک
 میں ملا دیا
 دَعَا = (دع و) (ن) اُس نے پکارا
 دُعَاءٌ = (دع و) (ن) دعا۔ پکارنا
 دَعْوًا = (دع و) (ن) انہوں نے پکارا
 دُعْوًا = (دع و) (ن) انہیں بلایا گیا
 دَعْوًا = (دع و) (ن) ان دونوں نے دعا کی
 دَعْوُهُمْ = (دع و) اُن کی پکار
 دَعْوَةٌ = (دع و) دعا۔ پکار
 دَعْوَتٌ = (دع و) (ن) میں نے دعوت دی
 دَعْوَتٌ = (دع و) (ن) تو نے دعوت دی
 دَعْوَتُمُوهُمْ = (دع و) (ن) تم نے ان کو
 دعوت دی
 دُعِيَ = (دع و) (ن) وہ پکارا گیا
 دُعِيْتُمْ = (دع و) (ن) تم پکارے گئے
 دُعِيْتِ = (دک ک) (ن) وہ ریزہ ریزہ کی گئی
 دُعِيْتَا = (دک ک) (ن) وہ دونوں ریزہ ریزہ
 کی گئیں

دَاخِضَةٌ = (دخض) کمزور۔ بودی
 دَاخِرُونَ = (دخ ر) ذلیل لوگ
 دَاخِرِينَ = (دخ ر) ذلیل لوگ
 دَاخِلُونَ = (دخ ل) داخل ہونے والے
 دَاخِلِينَ = (دخ ل) داخل ہونے والے
 دَارٌ = (دور) گھر
 دَاعٍ = (دع و) بلانے والا۔ دعوت دینے والا
 دَاعِيٌّ = (دع و) بلانے والا۔ دعوت دینے
 والا
 دَاعِيًّا = (دع و) دعوت دینے والا
 دَافِعٌ = (دفع) دفع کرنے والا
 دَافِقٌ = (دفع) اُچھلنے والا
 دَامَتْ = (دوم) (ن۔ض) وہ ہمیشہ رہی
 دَامُوا = (دوم) (ن۔ض) وہ ہمیشہ رہے
 دَانَ = (دن و) نزدیک۔ جھکنے والے
 دَانِيَّةٌ = (دن و) نزدیک جھکنے والی
 دَايِسِينَ = (دعب) پھرنے والے
 دَايِرَةٌ = (دور) گردش
 دَايِمٌ = (دوم) ہمیشہ
 دَايْمُونَ = (دوم) ہمیشہ رہنے والے
 دَاوْرًا = (دخ ر) دور کرنا
 دَاخَانَ = (دخ ن) دھوان

دینار = (دن ر) دینار۔ اشرفی

ذَلْهُمَا = (دل ل) (2) اس نے دونوں کو گرا

ذ

دیا

ذَات = (زو و) والی

ذُلُوبٌ = (دل ک) ذھلنا

ذَرِيْبٌ = (زرو) بکھیرنے / اڑانے والیاں

ذَيْلًا = (دل ل) نشانی

ذَاقًا = (زوق) (ن) دونوں نے چکھا

دِمَاءٌ = (دم ی) خون (جمع)

ذَاقَتْ = (زوق) (ن) اُس (عورت) نے

دُمْتُ = (دوم) (ن) تو ہمیشہ رہا۔ تو رہا

چکھا

دُمْتُ = (دوم) (ن) میں ہمیشہ رہا۔ میں رہا

ذَاقُوا = (زوق) (ن) انہوں نے چکھا

دُمْتُمْ = (دوم) (ن) تم ہمیشہ رہے۔ تم رہے

ذَاكِرَاتٍ = (ذکر ر) ذکر کرنے والیاں

دُمْدَمٌ = (دم دم) (10) اُس نے ہلاک و تباہ

ذَاكِرِينَ = (ذکر ر) ذکر کرنے والے

کر دیا

ذَاهِبٌ = (ذهب) جانے والا

دَمْرٌ = (دمر) (2) اس نے تباہ کیا

ذَائِقَةٌ = (زوق) چکھنے والی

دَمْرُنَا = (دمر) (2) ہم نے تباہ کیا

ذَائِقُوا = (زوق) چکھنے والے

دَنَا = (دن و) (ن) وہ قریب ہوا

ذَائِقُونَ = (زوق) چکھنے والے

دُنْيَا = (دن و) دنیا۔ بہت نزدیک

ذُبَابٌ = (ذب ب) مکھی

ذَوَابٌّ = (ذب ب) جاندار۔ جانور (جمع)

ذَرٍ = (وزر) (س ف) تو چھوڑ

ذَوَائِرٌ = (دور) گردشیں۔ گردش حالات

ذِرَاعًا = (ذرع) ہاتھ۔ گز

ذُوْلَةٌ = (ذول) ہاتھوں ہاتھ لینا۔ لین دین

ذِرَاعِيْهِ = (ذرع) اس کے دونوں ہاتھ بازو

دِهَاقًا = (دهق) چھلکے۔ بھرے ہوئے

ذَرَّةٌ = (زرر) ذرہ۔ چوٹی

دِهَانٍ = (دهن) سرخ چمڑا۔ تیل کی تلچھٹ

ذَرْنَا = (وزر) (س ف) تو چھوڑ ہم کو

دِيَارٍ = (دور) گھر (جمع)

ذَرْنِيْ = (وزر) (س ف) تو چھوڑ مجھے

دِيَارًا = (دور) بسنے والا۔ رہنے والا

ذَرُوا = (وزر) (س ف) تم چھوڑو

دِيَّةٌ = (ودی) دیت۔ خون بہا

ذَهَابٌ = (ذہب) لے جانا

رَابِطُوا = (ربط) (نض) تم تیار رہو

رَابِئًا = (ربو) بڑھنے چڑھنے والا

رَابِيَةً = (ربو) بلند۔ ٹیلہ۔ سخت

رَاجِعُونَ = (رجع) رجوع کرنے والے

رَاجِفَةٌ = (رجف) کاپٹنے والی

رَاحِمِينَ = (رحم) رحم کرنے والے

رَادُّ = (ردو) ہٹانے والا

رَادِفَةٌ = (ردف) پیچھے آنے والی

رَادُّوهُ = (ردو) اس کو پھیرنے والے

رَادِّي = (ردو) ہٹانے پھیرنے والے

رَازِقِينَ = (رزق) رزق مروزی دینے والے

رَاسِخُونَ = (رسخ) مضبوط۔ ٹھوس (جمع)

رَاسِيَتٍ = (رسو) جمی رہنے والیاں

رَاشِدُونَ = (رشد) ہدایت یافتہ

رَاضِيَةً = (رضی) خوش ہونے والی

رَاعِنًا = (رعی) (3) تو ہماری رعایت کر

رَاعُونَ = (رعی) رعایت/خیال رکھنے

والے

رَاعٍ = (روغ) (ن) وہ جاگسا۔ وہ ٹوٹ

پڑا

ذُرَّةٌ نَاءٌ = (ذرم) (ف) ہم نے پیدا کیا

ذُرِّيَّةٌ = (ذرم) اولاد

ذُقْ = (ذوق) (ن) تو چکھ

ذِكْرٌ = (ذکر) (2) اُسے سبھایا گیا

ذِكْرٌ = (ذکر) (2) تو سبھایا دولا

ذِكْرِي = (ذکر) یاد دہانی۔ نصیحت

ذُكْرَانٌ = (ذکر) مرد (جمع)

ذُكْرْتُمْ = (ذکر) (2) تم کو سبھایا گیا

ذُكْرُوا = (ذکر) (2) ان کو سبھایا گیا

ذُكْرَيْنِ = (ذکر) دونوں

ذُكُورٌ = (ذکر) مرد (جمع)

ذُكَيْتُمْ = (ذکی) (2) تم نے ذبح کیا

ذُلٌّ = (ذل) (ض) ذلت۔ عاجزی

ذِلَّةٌ = (ذل) (ل) ذلت۔ رسوائی

ذُلِّلْتُ = (ذل) (ل) وہ تابع کیے گئے

ذُلِّلْنَاهَا = (ذل) (ل) ہم نے اُن کو تابع کر

ذیا

ذُلُولٌ = (ذل) (ل) اہل میں جوتا ہوا

ذِمَّةٌ = (ذمم) وعدہ۔ عہد

ذُنُوبٌ = (ذنوب) گناہ (جمع)

ذُنُوبًا = (ذنوب) ہاری۔ حصہ۔ ڈول

ذُوقُوا = (ذوق) (ن) تم چکھو

رَبْعٌ = (رب ع) چار چار	رَاغِبٌ = (رغ ب) رغبت کرنے والا منہ پھیرنے والا
رَبِّيُّونَ = (رب ب) اللہ والے	رَاغِبُونَ = (رغ ب) رغبت کرنے والے
رَبَّنِينَ = (رب ب) اللہ والے	رَافِعٌ = (رف ع) بلند کرنے والا
رَبَّائِكُمْ = (رب ب) تمہاری بیوی کی بیٹیاں	رَافِعَةٌ = (رف ع) بلند کرنے والی
رَبْتُ = (رب و) (ن) وہ بڑھی پھلی پھولی	رَاقٍ = (رق ی) جھاڑ پھونک کرنے والا
رَبِّيُنِي = (رب ب) (2) ان دونوں نے مجھ کو پالا	رَاكِعًا = (رك ع) جھکنے والا۔ رکوع کرنے والا
رَبِّيُّونَ = (رب ب) اللہ والے	رَاكِعُونَ = (رك ع) جھکنے والے۔ رکوع کرنے والے
رَبَّلٌ = (رت ل) (2) تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو	رَاكِعِينَ = (رك ع) جھکنے والے۔ رکوع کرنے والے
رَتَّلْنَاهُ = (رت ل) (2) ہم نے اُسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا	رَانٌ = (رى ن) (ض) اس نے زنگ پکڑا
رِجَالٌ = (رج ل) مرد (جمع)	رَاوَدَتْ = (ر و د) (3) اُس عورت نے
رُجَبٌ = (رج ج) (ن) وہ ہلائی گئی	ورغلايا
رُجْعِيٌّ = (رج ع) واپس ہونا۔ لوٹنا	رَاوَدْتُ = (ر و د) (3) میں نے ورغلايا
رُجِعْتُ = (رج ع) (ض) مجھے لوٹایا گیا	رَاوَدْتُنَّ = (ر و د) (3) اُن عورتوں نے
رُجْفَةٌ = (رج ف) زلزلہ	ورغلايا
رُجْلِيْنٌ = (رج ل) دو آدمی	رَاوَدُوهُ = (ر و د) (3) انہوں نے اس کو
رُجْلِيْنٌ = (رج ل) دو آدمی	ورغلايا
رُجْلِيْنٌ = (رج ل) دو پاؤں	رَبًّا = (رب و) سود
رُجُوْمًا = (رج م) پتھر مارنا	رَبَاطٌ = (رب ط) باندھنا۔ پلے ہوئے
رُجِيْمٌ = (رج م) مردود	

رِضْوَانٌ = (رضی) رضا۔ خوشنودی
 رِضِيًّا = (رضی) پسندیدہ
 رِضِيْتُ = (رضی) (س) میں راضی ہوا
 رِضِيْتُمُ = (رضی) ت (س) تم راضی ہوئے
 رِعَاءٌ = (رعی) چرواہے
 رِعَايَتَهَا = (رعی) رعایت اُس کی
 رِعْوَاهَا = (رعی) (ف) انہوں نے
 رعایت کی اُس کی
 رِفَاتًا = (رفت) ریزہ ریزہ
 رَفْرَفٌ = (رفرف) زرف زرف۔ قالین
 رَفَعْتُ = (رفع) وہ بلند کی گئی
 رَفِيعٌ = (رفع) بلند مرتبہ
 رَفِيقًا = (رفق) ساتھی۔ دوست
 رِقَابٌ = (رقب) گردنیں۔ غلام لونڈیاں
 رِقَبَةٌ = (رقب) گردن۔ غلام لونڈی
 رُقُودٌ = (رقد) سوتے ہوئے۔ سونے
 والے
 رَقِيبٌ = (رقب) نگران
 رُقَيْبٌ = (رقی) چڑھنا تیرا
 رَقِيمٌ = (رقم) کتبہ۔ رقم
 رِكَابٌ = (رکب) اونٹ۔ سواری
 رُكَامٌ = (رکم) تہ بہ تہ۔ ڈھیر

رِحَالِهِمْ = (رحل) اُن کا سامان رکجاوے
 رِحْلَةً = (رحل) سفر۔ کچا وہ
 رَحْمَنٌ = (رحم) رحمان
 رُحَمَاءُ = (رحم) رحمل (جمع)
 رَحْمَةٌ = (رحم) رحمت
 رَحِيقٌ = (رحق) خالص شراب
 رَحِيمٌ = (رحم) مہربان رحیم
 رُحَاءٌ = (رخو) نرم
 رُدْدٌ = (ردو) (ن) وہ لوٹائی گئی
 رُدِّدٌ = (ردو) (ن) مجھے لوٹایا گیا
 رُدُّوْا = (ردو) (ن) انہوں نے لوٹایا
 رُدُّوْا = (رزق) (ن) تم لوٹاؤ پھر دو
 رَزَاقٌ = (رزق) بہت روزی دینے والا
 رُزُقْنَا = (رزق) (ن) ہمیں رزق دیا گیا
 رُزُقُوْا = (رزق) (ن) ان کو رزق دیا گیا
 رِسَالَتٌ = (رسل) پیغامات۔ احکامات
 رِسَالَةٌ = (رسل) پیغام۔ حکم
 رَسُوْلٌ = (رسل) رسول۔ پیغمبر
 رَشَادٌ = (رشد) بھلائی۔ ہدایت
 رَشِيْدٌ = (رشد) نیک۔ اچھا
 رَضَاعَةٌ = (رضع) دودھ پلانا
 رَضُوْا = (رضی) (س) وہ راضی ہوئے

رَهِيْنٌ = (رہن) گروی۔ رہن رکھا ہوا
 رَهِيْنَةٌ = (رہن) گروی (موث) (ف)
 رَأَى = (رءى) (ف) اُس نے دیکھا
 رِئَاءٌ = (رءى) ریا کاری۔ دکھاوا
 رَأَتْ = (رءى) (ف) اُس (عورت) نے
 دیکھا
 رَأْفَةٌ = (رءف) نرمی۔ شفقت
 رَأَوْا = (رءى) (ف) انہوں نے دیکھا
 رُءٌ وُسٌّ = (رءس) سر (جمع)
 رُءٌ وُفٌّ = (رءف) شفیق۔ شفقت کرنے
 والا
 رَأَيْتُ = (رءى) (ف) میں نے دیکھا
 رَأَيْتُ = (رءى) (ف) تو نے دیکھا
 رَأَيْتُمْ = (رءى) (ف) تم نے دیکھا
 رَأَيْسَةٌ = (رءى) (ف) اُن (عورتوں) نے
 اُسے دیکھا
 رِيْحٌ = (رىح) ہوائیں۔ آندھیاں
 رِيْبَةٌ = (رىب) شک۔ الجھن
 رِيْحَانٌ = (رىحى) خوشبودار پھول

ز

زُجْرَاتٌ = (زرج) (ن) ڈانٹنے والیاں
 زَادٌ = (زىد) (ض) اُس نے زیادہ کیا

رَكِبًا = (ركب) دونوں سوار ہوئے
 رُكْبَانًا = (ركب) سوار
 رَكْبَكَ = (ركب) (ن) اس نے تجھے
 جوڑ دیا
 رُكِعَ = (ركع) رکوع کرنے والے۔ جھکنے
 والے
 رُكُوْبُهُمْ = (ركب) اُن کا سوار ہونا
 رِمَا حُكْمٌ = (رمح) نیزے تمہارے
 رِمَادٍ = (رمد) راکھ
 رُمَانٌ = (رمن) اتار
 رَمَضَانَ = (رمض) رمضان المبارک
 رَمِيَتْ = (رمى) (ن-ض) تو نے پھینکا
 رَمِيْمٌ = (رمم) ریزہ ریزہ۔ بوسیدہ
 رَوَّاحَهَا = (روح) اس کا شام کا سفر
 رَوَّاسِيٌّ = (رسو) پہاڑ (جمع)
 رَوَّاحِكِدٌ = (ركد) ٹھہری رڑکی ہوئی
 رَوْضَتِ = (روض) باغات
 رَوْضَةٌ = (روض) باغ
 رِهْنٌ = (رهن) رہن۔ گروی
 رُهْبَانَ = (رهب) راہب درویش (جمع)
 رَهْبَانِيَّةٌ = (رهب) رہبانیت۔ ترک دنیا
 رَهْبَةٌ = (رهب) دہشت۔ رعب

زُدْنِي = (زى د) (ض) تو زيادہ دے مجھے
 زُرَابِي = (زرب) قائلین۔ محمل کے گدے
 زُرَاع = (زرع) کسان۔ کاشتکار
 زُرُتْم = (زور) (ن) تم ملے
 زُرُوع = (زرع) کھیتیاں
 زَعْمَتُمْ = (زع م) (ف) تم نے گمان
 دعویٰ کیا
 زَعِيم = (زع م) ضامن۔ فمردار
 زَفِير = (زف ر) چلانا۔ چیخ و پکار کرنا
 زَقُوم = (زق م) زقوم۔ تھوہر کا درخت
 زَكْوَة = (زک و) زکوٰۃ۔ پاکیزگی
 زَكَّاهَا = (زک ی) (2) اُس نے اُس کو
 سنوارا پاک کیا
 زَكِيًّا = (زک ی) پاکیزہ
 زَكِيَّة = (زک ی) پاکیزہ (مونث)
 زَلْتُمْ = (زى ل) (ض) تم الگ رہے
 زَلُّوَال = (زل زل) زلزلہ۔ بھونچال
 زَلُّوَلَةٌ = (زل زل) زلزلہ۔ بھونچال
 زُلُوتْ = (زل زل) وہ ہلائی گئی
 زُلْفَى = (زل ف) قرب۔ نزدیکی
 زُلْفَةٌ = (زل ف) قریب نزدیک
 زُلَّتُمْ = (زل ل) (ض۔س) تم ڈگمگائے

زَادِي = (زود) سفر خرچ۔ زادِ راہ
 زَادَتْ = (زى د) اُس (مونث) نے زيادہ کیا
 زَادِعُونَ = (زرع) کسان۔ کاشت کار
 زَاغ = (زى غ) (ض) وہ ٹیڑھا ہوا۔ وہ ہٹا
 زَاغَتْ = (زى غ) (ض) وہ ٹیڑھی ہوئی
 زَاغُوا = (زى غ) (ض) وہ ٹیڑھے ہوئے
 زَالَتْ = (زول) (ن۔ض) وہ ہمیشہ رہی
 زَالَتَا = (زول) (ن۔ض) وہ دونوں ٹل گئے
 زَان = (زن ی) زنا کرنے والا
 زَانِي = (زن ی) زنا کرنے والا
 زَانِيَةٌ = (زن ی) زنا کرنے والی
 زَاهِدِينَ = (زه د) بے رغبت
 زَاهِق = (زه ق) مٹنے والا
 زَبَانِيَّة = (زبان) داروغہ۔ نگران
 زَبُورًا = (زب ر) زبور
 زُبَّاجَةٌ = (زج ج) شیشہ فانوس
 زَجْرَةٌ = (زج ر) ڈانٹ
 زُحْرَح = (زح ج) (10) وہ بچا لیا گیا
 زُخْرُف = (زخ ر) چکنی چیز کی بات۔
 سونا
 زِدْ = (زى د) (ض) تو زيادہ دے
 زِدْنَا = (زى د) (ض) تو زيادہ دے ہمیں

س

سَبَّحَتْ = (س ب ح) تیرنے والیاں
(فرشتے)

سَبَّغَتْ = (س ب غ) کھلی اور پوری زر ہیں

سَابِقٌ = (س ب ق) آگے بڑھنے والا

سَبَقَتْ = (س ب ق) آگے بڑھنے والیاں
(فرشتے)

سَابِقُونَ = (س ب ق) (3) دوڑو

سَابِقُونَ = (س ب ق) آگے بڑھنے والے

سَابِقِينَ = (س ب ق) آگے بڑھنے والے

سَاجِدًا = (س ج د) سجدہ کرنے والا

سَاجِدُونَ = (س ج د) سجدہ کرنے والے

سَاجِدِينَ = (س ج د) سجدہ کرنے والے

سَاحِرٌ = (س ح ر) جادوگر

سَاحِرِينَ = (س ح ر) دو جادوگر

سَاحِرُونَ = (س ح ر) جادوگر (جمع)

سَاحِلٌ = (س ح ل) ساحل

سَاحِرِينَ = (س ح ر) مذاق اڑانے والے

سَادَتَنَا = (س و د) سردار ہمارے

سَادِئِهِمْ = (س و س) چھٹا اُن کا

سَارٌ = (س ی ر) (ض) اُس نے سیر کی۔ وہ

چلا

زَمَّهْرِيْرًا = (ز م ہ ر) سخت سردی

زَنْجَبِيلًا (زن ج ب ل) ادراک

زُنُوًا = (وزن) (ض) تم تو لہو وزن کرو

زَنِيْمٌ = (زن م) بے اصل۔ بد اصل

زَوَالٍ = (زول) زوال

زَوْجِيْنٍ = (زوج) دو جوڑے

زُوجَاتٍ = (زوج) (2) اس کا جوڑا ملایا
جائے گا

زَوْجَنَا = (زوج) (2) ہم نے شادی کر دی

زَوْجِيْنٍ = (زوج) میاں بیوی

زَهْرَةٌ = (زہ ر) رونق۔ پھول

زَهُوْفًا = (زہ ق) مت جانے والا

زِيَادَةٌ = (زی د) زیادہ ہونا

زَيْتُونَ = (زی ت) زیتون۔ زیتون کا درخت

زَيْتُونَةٍ = (زی ت) زیتون کا درخت

زَيْلَنَا = (زی ل) (2) ہم نے الگ کر دیا

زَيْنٌ = (زی ن) (2) اس نے زینت دی

زَيْنٌ = (زی ن) (2) اُس کو زینت دی گئی

زَيْنًا = (زی ن) (2) ہم نے سنوارا

زَيْنَةٌ = (زی ن) زینت۔ زیبائش

زَيْنُوا = (زی ن) (2) انہوں نے سنوارا

سَائِيَةٌ = (س ی ب) سائبہ جانور جو بتوں کے نام پر آزاد کیا جاتا تھا
 سَاءَتْ = (س و ع) (ن) وہ بری ہوئی
 سَأْسَحَتْ = (س ی ح) سیر کرنے والیاں۔ روزہ دار
 سَائِحُونَ = (س ی ح) سیر و سیاحت کرنے والے
 سَائِعٌ = (س و ع) خوش گوار
 سَائِقٌ = (س و ق) ہانکنے والا
 سَائِلٌ = (س ع ل) مانگنے والا۔ سوالی
 سَائِلِينَ = (س ع ل) سوال کرنے والے
 سَابَاتٌ = (س ب ت) آرام
 سَبَّحٌ = (س ب ح) (2) اُس نے تسبیح کی
 سَبَّحٌ = (س ب ح) تو تسبیح کر
 سَبَّحْنٌ = (س ب ح) پاک
 سَبَّحُوا = (س ب ح) (2) انہوں نے تسبیح کی
 سَبَّحُوا = (س ب ح) (2) تم تسبیح کرو
 سَبْعُونَ = (س ب ع) ستر (70)
 سَبْعَةٌ = (س ب ع) سات
 سَبْعِينَ = (س ب ع) ستر (70)
 سَبِيلٌ = (س ب ل) راستہ
 سَبْتِينَ = (س ت ت) ساٹھ (60)

سَارِبٌ = (س ر ب) چلنے پھرنے والا
 سَارِعُوا = (س ر ع) (3) تم جلدی کر دوڑو
 سَارِقٌ = (س ر ق) چور مرد
 سَارِقَةٌ = (س ر ق) چور عورت
 سِرْقُونَ = (س ر ق) چور (جمع)
 سِرْقِينَ = (س ر ق) چور (جمع)
 سَاعَةٌ = (س و ع) گھڑی۔ قیامت
 سَافِلَهَا = (س ف ل) اُس کا پست
 سَافِلِينَ = (س ف ل) نیچے والے
 سَاقٍ = (س و ق) پنڈلی
 سَاقِطًا = (س ق ط) گرنے والا
 سَاقِيهَا = (س و ق) اس کی دونوں پنڈلیاں
 سَاكِنًا = (س ک ن) ساکن۔ رکا ہوا
 سَأَلْتُ = (س ی ل) وہ جاری ہوئی۔ وہ ہی
 سَلِمُونَ = (س ل م) صحیح سلامت (جمع)
 سَنِدُونٌ = (س ن د) غافل (جمع)
 سَمِرًا = (س م ر) کہانی سنانے والا
 سَاوِي = (س و ی) (3) اُس نے برابر کر دیا
 سَاهِرَةٌ = (س و ر) میدان
 سَاهِمٌ = (س ہ م) (3) اُس نے قرعہ ڈالا
 سَاهُونَ = (س و و) (ن) بھولنے والے
 سَاءٌ = (س و ع) وہ برا ہے

سُخْرِيًّا = (س خ ر) خدمت گار۔ تابع	سَجِي = (س ج و) (ن) اُس نے ڈھانپ لیا
سِدْرَةٌ = (س در) پیری کا درخت	سُجَّدًا = (س ج د) سجدہ کرنے والے
سَدِيدًا = (س دد) سیدھا	سُجْرَتٌ = (س ج ر) (2) وہ بھڑکائے جائیں گے
سَدَيْنٍ = (س دد) دو پہاڑوں کا وادی	سَجَلٌ = (س ج ل) کاغذ کا رول
سَرَابًا = (س رب) سراب۔ دھوکا	سُجُودٌ = (س ج د) سجدے۔ سجدہ کرنے والے
سَرَابِيلٌ (س ر ب ل) لباس۔ قمیص۔ کرتے	سَجِيلٌ = (س ج ل) کنگر
سِرَاجًا = (س ر ج) چراغ	سَجِينٌ = (س ج ن) قید خانہ۔ برا اعمال نامہ
سَرَاخًا = (س ر ح) رخت کرنا	سَحَابٌ = (س ح ب) بادل
سُرَادِقُهَا = (س ر د ق) اس کے پردے پر	سَحَارٌ = (س ح ر) بڑا جادوگر
قاتیں	سَحْرَانٌ = (س ح ر) دو جادوگر
سِرَاعًا = (س ر ع) جلدی کرتے ہوئے	سَحْرَةٌ = (س ح ر) جادوگر
سَرَّاءٌ = (س ر ر) خوشی	سَحِيقِي = (س ح ق) (2) بہت دور
سَرَّاءٌ = (س ر ر) بھید۔ راز (جمع)	سَخَوٌ = (س خ ر) (2) اس نے تابع کر دیا
سَرَّحُوهُنَّ = (س ر ح) (2) تم ان کو رتوں کو رخت کرو	سَخَوْنَا = (س خ ر) (2) ہم نے کام پر لگا دیا
سَرْمَدًا = (س ر م د) ہمیشہ	سَخِرُوا = (س خ ر) (س) انہوں نے مذاق اڑایا
سُرُورًا = (س ر ر) خوش کرنا	سَخِرِيًّا = (س خ ر) مذاق بنائے گئے
سَرِيعٌ = (س ر ع) جلد کرنے والا	
سَطِطَتْ = (س ط ح) (ف) وہ بچھائی گئی	
سُعِدُوا = (س ع د) (ف) وہ نیک بخت بنائے گئے	

سُكْرَةٌ = (س ک ر) بے ہوشی۔ گمراہی
 سُكْرَتٌ = (س ک ر) (2) وہ مست ہو گئی
 سُكْرَتِهِمْ = (س ک ر) اُن کی مستی رہنے
 ہوشی

سُكِّنَا = (س ک ن) چھری۔ چاقو
 سُكِّنَةٌ = (س ک ن) تسکین۔ اطمینان
 سَلْسِلٌ (س ل س ل) زنجیریں
 سَلَلَةٌ = (س ل ل) ست۔ خلاصہ۔ نچوڑ
 سَلْمٌ = (س ل م) سلام سلامتی
 سَلْسِلَةٌ (س ل س ل) زنجیر
 سُلْطَنٌ = (س ل ط) طاقت۔ غلبہ۔ اقتدار
 سَلَّمَ = (س ل م) (2) اس نے حفاظت کی
 سَلَّمَ = (س ل م) نیزھی
 سَلَّمْتُمْ = (س ل م) (2) تم نے حوالے کر
 دیا

سَلِّمُوا = (س ل م) (2) تم سلام کرو
 سَلِّمٌ = (س ل م) صحیح سالم۔ پاک
 سَمْعُونٌ = (س م ع) بہت سننے والے۔
 جاسوس
 سَمَكُمُ = (س م و) (2) اُس نے نام رکھا
 تمہارا
 سَمَانٌ = (س م ن) موٹی (جمع)

سُعْرَتٌ = (س ع ر) (2) وہ بھڑکائی گئی
 سَعَوَا = (س ع ی) (ف) انہوں نے کوشش
 کی

سَعِيدٌ = (س ع د) خوش قسمت
 سَعِيرًا = (س ع ر) دوزخ
 سَفَاهَةٌ = (س ف ہ) بے وقوفی
 سَفْرَةٌ = (س ف ر) لکھنے والے
 سُفْلَى = (س ف ل) بہت نیچی
 سُفْهَاءٌ = (س ف ہ) بیوقوف لوگ
 سَفِينَةٌ = (س ف ن) کشتی
 سَفِيهَاً = (س ف ہ) بے وقوف نادان
 سَفَّهُمُ = (س ق ی) (ض) اُس نے پلایا
 اُن کو

سَفْيَاةٌ = (س ق ی) پانی پلانا
 سَقْنَةٌ = (س و ق) (ن) ہم نے اُس کو چلایا
 ہانکا
 سُقُوا = (س ق ی) (ض) وہ پلائے گئے
 سُقِيهَاً = (س ق ی) اُس کو پانی پلانا
 سَقِيَتْ = (س ق ی) (ض) تو نے پانی پلایا
 سَقِيمٌ = (س ق م) بیمار۔ ناخوش
 سُكْرَى = (س ک ر) نشے میں مست۔ بے
 ہوش (جمع)

سَوَّلَ = (س و ل) (2) اس نے فریب دیا

سَوَّلَتْ = (س و ل) (2) اس (مونث) نے فریب دیا

سَوَّيْتُ = (س و ی) سیدھا درست

سَوَّيْتُمْ = (س و ی) (2) میں نے درست کیا

سَوَّأَى = (س و ء) برائی۔ گناہ

سَوَّأَتْ = (س و ء) شرم گاہ

سَوَّءَةٌ = (س و ء) لاش۔ ستر

سُئِلَ لَهَا = (س و ل) اس (زمین) کا نرم

حصہ

سُئِلَ = (س و ل) سوال۔ پوچھنا

سُئِلَتْ = (س و ل) (ف) وہ پوچھی گئی

سُئِلُوا = (س و ل) (ف) وہ پوچھے گئے

سَيَّارَةٌ = (س و ی ر) قافلہ

سَيَّرُوا = (س و ی ح) (ض) تم سیر کرو

سَيَّرَا = (س و و) سردار

سَيَّرَتْ = (س و ی ر) (2) وہ چلائی گئی

سَيَّرَةٌ = (س و ی ر) حالت

سَيَّرُوا = (س و ی ر) (ض) تم سیر کرو تم چلو

پھرو

سَيَّقُ = (س و ق) (ن) وہ ہانکا گیا

سَيَّمَهُمْ = (س و م) نشانی اُن کی۔ علامت اُن کی

سَمَوْتُ = (س م و) آسمان (جمع)

سَمَاءٌ = (س م و) آسمان

سَمُومٌ = (س م م) آلود

سَمُوهُمْ = (س م و) (2) تم نام لو اُن کے

سَمِيًّا = (س م و) ہم نام

سَمَيْتُ = (س م و) (2) میں نے نام رکھا

سَمَيْتُمُوهَا = (س م و) (2) تم نے نام

رکھے اُن کے

سَمِيعٌ = (س م ع) سننے والا

سَمِينٌ = (س م ن) موٹا

سَنَابِلٌ = (س ن ب ل) بالیں

سُنْبُلٌ = (س ن ب ل) بال

سُنْبَلٌ = (س ن ب ل) بالیں

سُنْبَلَةٌ = (س ن ب ل) بال

سَنَّةٌ = (س ن ن) عادت۔ طریقہ

سُنْدُسٌ = (س ن د س) بازیگ ریشمی کپڑا

سِنِينٌ = (س ن ن) قحط برس (جمع)

سَوَّيْتُ = (س و ی) (2) اس نے ٹھیک برابر

بنایا

سَوَّأَى = (س و ی) برابر

سَوَّرَةٌ = (س و ر) سورت

سَوَّقٌ = (س و ق) پنڈلی۔ بالی۔ تاتا

شَمِخَتْ = (ش م خ) اُونچے۔ بلند
 شَانِثُكْ = (ش ن ء) تیرا دشمن
 شَاوِرُهُمْ = (ش و ر) (3) تو مشورہ کر اُن سے
 شَاهِدٌ = (ش ہ د) گواہ
 شَاهِدُونَ = (ش ہ د) گواہ (جمع)
 شَاهِدِينَ = (ش ہ د) گواہ (جمع)
 شَاءَ = (ش ی ء) (س) اس نے چاہا
 شُبَّةٌ = (ش ب ہ) (2) وہ مانند مشتبہ کر دیا
 گیا
 شَتَّى = (ش ت ت) الگ الگ
 شِتَاءٌ = (ش ت و) سردی کا موسم
 شَجْرَةٌ = (ش ج ر) درخت
 شُحُوْمُهُمَا = (ش ح م) چربیوں کی
 شِدَادٌ = (ش د و) سخت (جمع)
 شُدُوْا = (ش د و) (ن ض) تم مضبوط
 باندھو
 شَدِيدٌ = (ش د و) سخت
 شَرَابٌ = (ش ر ب) پینا۔ مشروب
 شَرْدٌ = (ش ر د) (2) تو منتشر کر دے
 شَرْدِمَةٌ = (ش ر ذ م) جتنا۔ گروہ
 شَرَعًا = (ش ر ع) پانی پر تیرتی ہوئی
 (مچھلیاں)

سَبَّأٌ = (س و ء) وہ غمگین ہوا
 سَبَّأٌ = (س و ء) برا
 سَبَّأٌ = (س و ء) برا
 سَبَّاتٌ = (س و ء) برائیاں
 سَبَّتٌ = (س و ء) (ن) وہ بد شکل ہو گئی
 سَبَّتٌ = (س و ء) برائی تکلیف

ش

شَاخِصَةً = (ش خ ص) کھلی کی کھلی رہ
 جانے والی آنکھیں
 شَرِبُونَ = (ش ر ب) پینے والے
 شَرِبِينَ = (ش ر ب) پینے والے
 شَارِكُهُمْ = (ش ر ک) (3) تو ان کے
 ساتھ شریک ہو جا
 شَاطِئِءٌ = (ش ط ء) کنارہ
 شَاعِرٌ = (ش ع ر) شاعر
 شَافِعِينَ = (ش ف ع) شفاعت (سفارش)
 کرنے والے
 شَاقِقُوا = (ش ق ق) (3) وہ مخالف ہوئے
 شَاكِرٌ = (ش ک ر) شکر کرنے والا
 شَاكِرُونَ = (ش ک ر) شکر کرنے والے
 شَاكِرِينَ = (ش ک ر) شکر کرنے والے
 شَاكِرِيَّةٌ = (ش ک ل) اس کا طریقہ

شَقِيٌّ = (ش ق ی) بد بخت	شُرُوعَةٌ = (ش ر ع) طریقہ۔ شریعت
شَكُورٌ = (ش ک ر) شکر کرنے والا۔ قدر دان	شُرُوقِيًّا = (ش ر ق) مشرقی
شِمَالٌ = (ش م ل) بائیں طرف	شُرُوقِيَّةٌ = (ش ر ق) مشرقی
شِمَائِلٌ = (ش م ل) بائیں طرف (جمع)	شُرُوكَاءُ = (ش ر ك) حصہ دار شریک (جمع)
شَنَانٌ = (ش ن ء) دشمنی	شُرُوًا = (ش ر ی) (ض) انہوں نے بیچا
شُورًا = (ش و ظ) شعلے۔ لپٹ	شُرَيْعَةٌ = (ش ر ع) شریعت۔ طریقہ
شُورَى = (ش و ر) (3) مشورہ کرنا	شُرَيْكٌ = (ش ر ك) شریک۔ حصہ دار
شُوكَةٌ = (ش و ك) کاٹنا	شُعَائِرٌ = (ش ع ر) نشانیاں
شِهَابٌ = (ش ہ ب) شعلہ	شُعْرَاءُ = (ش ع ر) شاعر (جمع)
شِهَادَةٌ = (ش ہ د) گواہیاں	شُعُوبًا = (ش ع ب) خاندان کنبے
شِهَادَةٌ = (ش ہ د) گواہی	شُعَلَّتْنَا = (ش ع ل) (ف) مشغول رکھا ہم کو
شُهَدَاءُ = (ش ہ د) گواہ۔ شہید (جمع)	شُفَا = (ش ف ی) کنارہ
شَهْرَيْنِ = (ش ہ ر) دو مہینے	شُفَاعَةٌ = (ش ف ع) شفاعت۔ سفارش
شَهْوَاتٍ = (ش ہ و) خواہشیں	شُفَاءٌ = (ش ف ی) شفا
شَهْوَةٌ = (ش ہ و) خواہش	شُفْتَيْنِ = (ش ف ت) دو ہونٹ
شُهُودٌ = (ش ہ د) گواہ (جمع)	شُفَعَاءُ = (ش ف ع) سفارشی (جمع)
شُهُورٍ = (ش ہ ر) مہینے	شُفِيعٌ = (ش ف ع) سفارشی
شَهِيدٌ = (ش ہ د) گواہ۔ شہید	شُفَاقٌ = (ش ق ق) ضد۔ دشمنی
شَهِيدَيْنِ = (ش ہ د) دو گواہ	شُقَّةٌ = (ش ق ق) مشقت
شَهِيْقٌ = (ش ہ ق) دھاڑنا۔ چیخنا	شُقُقْنَا = (ش ق ق) (ن) ہم نے پھاڑا
شِئْتٌ = (ش ی ء) (س) تو نے چاہا	شُقُوًا = (ش ق ی) (س) وہ بد بخت ہوئے
	شُقُوْتْنَا = (ش ق ی) ہماری بد قسمتی

صَاحِبِي = (ص ح ب) میرے دوستوں
 صَاخَّةٌ = (ص خ غ) سخت آواز
 صَادِقٌ = (ص د ق) سچا آدمی
 صِدْقَتِ = (ص د ق) سچی عورتیں
 صِدْقُونٌ = (ص د ق) سچے مرد
 صِدْقِيْنَ = (ص د ق) سچے مرد
 ضَرْمِيْنَ = (ص ر م) کانٹے والے پھل
 توڑنے والے

ضِعْقَةٌ = (ص ع ق) بھلی کی کڑک
 ضِعْرُونٌ = (ص ع ر) ذلیل (جمع)
 ضِعْرِيْنَ = (ص ع ر) ذلیل (جمع)
 ضَفَّتِ = (ص ف ف) صف باندھے ہوئے
 ضَفِنَتْ = (ص ف ن) تیز رفتار گھوڑے
 صَافُونٌ = (ص ف ف) صف باندھے ہوئے
 صَالِيٌ = (ص ل ی) داخل ہونے والا
 صَالِحٌ = (ص ل ح) نیک آدمی
 صَلِحَتْ = (ص ل ح) نیک کام (جمع)
 صَلِحُونٌ = (ص ل ن) نیک لوگ
 صَلِحِيْنَ = (ص ل ح) نیک لوگ
 صَلِحِيْنَ = (ص ل ح) دو نیک آدمی
 صَالُوا = (ص ل ی) داخل ہونے والے
 صَامِتُونَ = (ص م ت) خاموش (جمع)

شَتْمٌ = (ش ی ء) تم نے چاہا
 شَتْمًا = (ش ی ء) تم دونوں نے چاہا
 شَتْنَا = (ش ی ء) ہم نے چاہا
 شَيْطَانٌ = (ش ط ن) شیطان (جمع)
 شَيْطَانٌ = (ش ط ن) شیطان
 شَيْعَةٌ = (ش ی ع) گروہ
 شَيْوُخًا = (ش ی خ) بوڑھے

ص

صَابِرًا = (ص ب ر) صبر کرنے والا
 صَبِيرٌ = (ص ب ر) صبر کرنے والیاں
 صَابِرَةٌ = (ص ب ر) صبر کرنے والی
 صَابِرُونَ = (ص ب ر) تم صبر کرو
 صَبِرُونَ = (ص ب ر) صبر کرنے والے
 صَبِيرِيْنَ = (ص ب ر) صبر کرنے والے
 صَبِيُونٌ = (ص ب ء) صابی لوگ۔ ستارہ
 پرست
 صَبِيُونٌ = (ص ب ء) صابی لوگ۔ ستارہ
 پرست
 صَاحِبٌ = (ص ح ب) والا
 صَاحِبَةٌ = (ص ح ب) والی۔ بیوی
 صَاحِبُهُمَا = (ص ح ب) (3) تو ان
 دونوں کے ساتھ رہ

صُدُّوْا = (ص د و) (ن) وہ روکے گئے	صَّيْمِتْ = (ص و م) روزہ دار عورتیں
صُدُّوْذًا = (ص د و) رکنا۔ منہ موڑنا	صَّائِمِيْنَ = (ص و م) روزہ دار مرد
صُدُوْرُ = (ص د ر) سینے۔ دل (جمع)	صَبَاحٌ = (ص ب ح) صبح کا وقت
صَدِيْدٌ = (ص د و) پیپ۔ رونا	صَبَّارٌ = (ص ب ر) بڑا صبر کرنے والا
صَدِيْقٌ = (ص د ق) دوست	صَبَّحَهُمْ = (ص ب ح) (2) وہ اُن پر
صَدِيْقٌ = (ص د ق) بڑا سچا	صَبَّ كَ وَتْ اَنْ يُّزَا
صَدِيْقَةٌ = (ص د ق) بڑی سچی	صَبْغَةٌ = (ص ب غ) رنگ
صَدِيْقُوْنَ = (ص د ق) صدیق۔ بڑے	صَبُّوْا = (ص ب ب) (ن) وہ ڈالے
سچے	گئے
صَدِيْقِيْنَ = (ص د ق) صدیقین۔ بڑے	صَبِيْثًا = (ص ب ي) بچہ
سچے	صِحَافٌ = (ص ح ف) پلٹیں
صِرَاطٌ = (ص ر ط) راستہ	صَحْرَةٌ = (ص خ ر) بڑا پتھر
صِرَّةٌ = (ص ر ر) چیخ فریاد	صَدْفِيْنَ = (ص د ف) پہاڑ کے دو کنارے
صِرْصِرًا = (ص ر ص ر) سخت آندھی	صَدَّقٌ = (ص د ق) (2) اُس نے تصدیق
صِرْعَى = (ص ر ع) گرے ہوئے	کی
صُرْفَتْ = (ص ر ف) (ض) وہ پھیری گئی	صَدَقْتُ = (ص د ق) صدقاتِ زکوٰۃ
صِرْفْنَا = (ص ر ف) (2) ہم نے پھیر پھیر	صَدَقْتِ = (ص د ق) مہر۔ حق مہر (جمع)
کر سمجھایا	صَدَقْتِ = (ص د ق) (2) تو نے سچ کر
صُرْهَنَّ = (ص و ر) (ن) تو مانوس کر اُن کو	دکھایا
صَرِيْحٌ = (ص ر خ) فریاد	صَدَقَةٌ = (ص د ق) صدقہ۔ خیرات
صَرِيْمٌ = (ص ر م) کٹا ہوا کھیت	صَدَقْتُهُمْ = (ص د ق) (ن) ہم نے اُن کو
صَعُوْدًا = (ص ع د) بری چڑھائی	سچ بتایا

صَمَوًا = (ص م م) وہ بہرے ہو گئے
 صَنَعَةٌ = (ص ن ع) صنعت۔ کاریگری
 صَنَعُوا = (ص ن ع) انہوں نے بنایا
 صِنُونٌ = (ص ن و) ایک جڑ سے دو شاخیں
 صَوَابًا = (ص و ب) ٹھیک بات
 صَوَاعٍ = (ص و ع) پیانہ۔ پیالہ
 صَوَاعِقٍ = (ص و ع) بجلیاں
 صَوَافٍ = (ص ف ف) صف باندھنے
 والیاں

صَوَامِعٌ = (ص م ع) گرجا گھر (جمع)
 صُورَةٌ = (ص و ر) شکل صورت
 صَوْرَكُمُ = (ص و ر) (2) اس نے تمہاری
 صورت بنائی
 صَوْرُنْكُمْ = (ص و ر) (2) ہم نے تمہاری
 صورتیں بنائیں
 صَيَاصِيْهِمْ = (ص ی ص) ان کے قلعے
 صِيَامٌ = (ص و م) روزہ رکھنا۔ روزے
 صَيِّبٌ = (ص و ب) بارش
 صَيِّحَةٌ = (ص ی ح) سخت آواز

ض

ضَاحِكًا = (ض ح ك) ہنستا ہوا
 ضَاحِكَةٌ = (ض ح ك) ہنستی ہوئی

صَعِيدًا = (ص ع د) مٹی۔ خاک
 صَغَارٌ = (ص غ ر) ذلت
 صَغَتْ = (ص غ و) جبک گئی رائل ہوئی
 = (ص غ ی)
 صَغِيرٌ = (ص غ ر) چھوٹا
 صَغِيرَةٌ = (ص غ ر) چھوٹی
 صَفْرَاءٌ = (ص ف ر) زرد رنگ
 صَفْصَفًا = (ص ف ص ف) ہموار میدان
 صَفْوَانٌ = (ص ف و) صاف پتھر
 صَكَّتْ = (ص ك ك) (ن) اس نے ہاتھ

مارا
 صَلَّى = (ص ل و) (2) تو نماز پڑھ۔ تو دعا
 دے
 صَلَّى = (ص ل و) (2) اُس نے نماز پڑھی
 صَلَوَةٌ = (ص ل و) نماز۔ دعا
 صَلْبُوَةٌ = (ص ل ب) (ض) انہوں نے
 سولی دی اُس کو
 صَلِّصَالٍ = (ص ل ص ل) بجتی ہوئی مٹی
 صَلُّوا = (ص ل و) تم نماز پڑھو۔ تم درود بھیجو
 صَلَوْتُ = (ص ل و) نمازیں۔ دعائیں۔
 رحمتیں

صَلِيًّا = (ص ل ی) داخل ہونا

ضَمِينٌ = (ض ن ن) بخیل کنجوس

ضِيَاءٌ = (ض و و) روشنی

ضِيْزِيٌّ = (ض ی ز) بہت بے ڈھنگی

ضَيْقًا = (ض ی ق) تنگ

ط

طَارِدٌ = (ط ر د) دور کرنے والا

طَارِقٌ = (ط ر ق) رات کو آنے والا (تارا)

طَاعَةٌ = (ط و ع) اطاعت۔ فرماں برداری

طَاعِمٌ = (ط ع م) کھانے والا

طَاغُوتٌ = (ط غ ی) شیطان۔ سرکش

طَاغِيَةٌ = (ط غ ی) سرکشی۔ زور کی آواز

طَاغِيْنَ = (ط غ ی) شیطان۔ سرکش (جمع)

طَافٌ = (ط و ف) (ن) اس نے چکر لگایا

طَاقَةٌ = (ط و ق) طاقت

طَالَ = (ط و ل) (ن۔ک) وہ لمبا ہوا

طَالِبٌ = (ط ل ب) طالب۔ چاہنے والا

طَامَةٌ = (ط م م) آفت۔ ہنگامہ

طَائِرٌ = (ط ی ر) پرندہ

طَائِعِيْنَ = (ط و ع) خوشی سے کرنے والے

طَائِفٌ = (ط و ف) پھر جانے والا (عذاب)

طَائِفَةٌ = (ط و ف) گروہ

طَائِفَتَانِ = (ط و ف) دو گروہ

ضَارِبٌ = (ض ر ر) اُن کو نقصان پہنچانے

والا

ضَارِبِيْنَ = (ض ر ر) نقصان پہنچانے والے

ضَاقٌ = (ض ی ق) (ض) وہ تنگ ہوا

ضَاقَتْ = (ض ی ق) (ض) وہ تنگ ہوئی

ضَالًّا = (ض ل ل) گمراہ بے خبر

ضَالُّوْنَ = (ض ل ل) گمراہ (جمع)

ضَالِّيْنَ = (ض ل ل) گمراہ لوگ

ضَامِرٌ = (ض م ر) کمزور اور مٹی

ضَائِقٌ = (ض ی ق) تنگ ہونے والا

ضَحِجَتْ = (ض ح ک) (س) وہ ہنس

پڑی

ضَرَارًا = (ض ر ر) نقصان پہنچانا

ضَرَاءٌ = (ض ر ر) تکلیف۔ سختی

ضَرِيْعٌ = (ض ر ع) کانٹے دار درخت

ضِعْفًا = (ض ع ف) نانا توں۔ کمزور

ضُعْفَاءٌ = (ض ع ف) کمزور (جمع)

ضِعْفِيْنَ = (ض ع ف) ڈوگنا

ضِعْفِيْنَا = (ض ع ف) کمزور

ضَفَادِعٌ = (ض ف د ع) مینڈک (جمع)

ضَلُّلٌ = (ض ل ل) گمراہی

ضَلَّلَةٌ = (ض ل ل) گمراہی

طَوِيلًا = (طویل) طویل۔ لمبا
 طَهْرًا = (طہر) (2) تو پاک کر
 طَهْرًا = (طہر) (2) تم دونوں پاک کرو
 طَهُورًا = (طہر) پاکیزہ
 طَيِّبًا = (طیب) پاک۔ اچھا
 طَيِّبَاتٍ = (طیب) پاکیزہ چیزیں
 طَيِّبَةً = (طیب) پاکیزہ
 طَيِّبُونَ = (طیب) پاک مرد (جمع)
 طَيِّبِينَ = (طیب) پاک مرد (جمع)

ظ

ظَالِمًا = (ظالم) ظالم
 ظَالِمَةً = (ظالم) ظالم (مونث)
 ظَالِمُونَ = (ظالم) ظالم لوگ
 ظَالِمِينَ = (ظالم) ظالم لوگ
 ظَانِينَ = (ظان) گمان کرنے والے
 ظَاهِرًا = (ظہر) ظاہر۔ کھلا
 ظَاهِرَةً = (ظہر) ظاہر۔ کھلی
 ظَهْرًا = (ظہر) (3) انہوں نے مدد کی
 ظَهْرِينَ = (ظہر) غلبہ پانے والے
 ظِلُّلًا = (ظلل) سائے
 ظَلَامًا = (ظلم) بڑا ظلم کرنے والا
 ظَلَّتْ = (ظلل) (س) تو ہو گیا

طَائِفَتَيْنِ = (طواف) دو گروہ
 طَائِفِينَ = (طواف) طواف کرنے والے
 طِبَاقًا = (طباق) اوپر تلے
 طِبْنًا = (طیب) تم مزے میں رہے
 طَحَّحَهَا = (طرح) (ف) اس نے اس کو بچھایا
 (طرح و)
 طَرِيقًا = (طریق) طریقے۔ راہیں
 طَرَفِي = (طرف) دو کنارے
 طَرِيًّا = (طری۔ طرو) تروتازہ
 طَرِيقًا = (طریق) راستہ
 طَرِيقَةً = (طریق) طریقہ۔ راستہ
 طَعَامًا = (طعم) کھانا
 طَعَا = (طغی) (ن۔س) اس نے سرکشی کی
 طَعَوِيهَا = (طغی) سرکشی اس کی
 طُعْيَانًا = (طغی) سرکشی
 طَلَاقًا = (طالق) طلاق
 طَلَّقَ = (طالق) (2) اس نے طلاق دی
 طَلَّقْتُمْ = (طالق) (2) تم نے طلاق دی
 طُلُوعًا = (طلوع) طلوع ہونا۔ نکلنا
 طَوْفُونَ = (طواف) بہت پھرنے والے
 طَوَّعَتْ = (طوع) (2) اس نے آمادہ کیا
 طَوْفَانًا = (طواف) طوفان۔ آفت

عَاجِلَةٌ = (ع ج ل) فوری ملنے والی۔ دنیا
عَادُوا = (ع و د) (ن) وہ واپس ہوئے
عَادُونَ = (ع و و) حد سے نکلنے والے۔ سرکش
عَدِيتٍ = (ع و و) تیز دوڑنے والیاں گھوڑے

اور نٹیاں

عَادَيْتُمْ = (ع و و) (3) تم نے دشمنی رکھی
عَادِينَ = (ع و د) گننے والے
عَارِضٌ = (ع ر ض) بادل
عَاشِرُوهُنَّ = (ع ش ر) (3) تم ان عورتوں
کے ساتھ زندگی بسر کرو

عَاصِفٌ = (ع ص ف) سخت آندھی
عَصِيفٌ = (ع ص ف) سخت آندھیاں
عَاصِمٌ = (ع ص م) بچانے والا۔ بچنے والا
عَافِينَ = (ع ف و) معاف کرنے والے
عَاقِبٌ = (ع ق ب) (3) اس نے بدلہ لیا۔
تکلیف پہنچائی

عَاقِبَةٌ = (ع ق ب) عاقبت۔ انجام
عَاقِبْتُمْ = (ع ق ب) (3) تم نے بدلہ لیا
عَاقِبُوا = (ع ق ب) (3) تم بدلہ لو
عَاقِرٌ = (ع ق ر) بانجھ
عَاكِفٌ = (ع ک ف) استکاف کرنے
والا۔ گوشہ نشین

ظُلَّةٌ = (ظ ل ل) سائبان۔ بادل
ظَلْتُمْ = (ظ ل ل) (س) تم ہو گئے
ظَلَلْنَا = (ظ ل ل) (2) ہم نے سایہ کیا
ظَلَمْتُ = (ظ ل م) اندھیرے
ظَلِمُوا = (ظ ل م) (ض) ان پر ظلم کیا گیا
ظَلُّوا = (ظ ل ل) (س) وہ ہو گئے
ظُلُومٌ = (ظ ل م) ظالم۔ ظلم کرنے والا
ظَلِيلٌ = (ظ ل ل) گھنا سا یہ
ظَمَانٌ = (ظ م م) پیاسا
ظُنُونًا = (ظ ن ن) طرح طرح کے گمان

خیالات

ظَهْرِيًّا = (ظ ه ر) پس پشت ڈالا ہوا
ظُهُورٌ = (ظ ه ر) پٹھیں
ظَهِيرٌ = (ظ ه ر) مدوگار
ظَهِيرَةٌ = (ظ ه ر) دو پہر۔ ظہر کا وقت

ع

عَابِدٌ = (ع ب و) عبادت کرنے والا
عَبِدٌ = (ع ب و) عبادت کرنے والیاں
عَبِدُونَ = (ع ب و) عبادت کرنے والے
عَبِيدِينَ = (ع ب و) عبادت کرنے والے
عَابِرِيٌّ = (ع ب ر) عبور کرنے والے
عَاتِيَةٌ = (ع ت و) حد سے نکلنے والی۔ تیز

عَائِدُونَ = (ع و د) دوبارہ (کفر) کرنے

والے

عَائِلًا = (ع ی ل) تنگ دست

عِبَادٌ = (ع ب د) بندے

عِبَادَةٌ = (ع ب د) عبادت

عَبْدَتٌ = (ع ب د) (2) تو نے غلام بنایا

عَبْدَيْنِ = (ع ب د) دو بندے

عِبْرَةٌ = (ع ب ر) عبرت۔ سبق

عَبْقُورِيٌّ = (ع ب ق ر) نادر۔ عجیب

عَبُوسًا = (ع ب س) اُداس کرنے والا۔ منہ

بنانے والا

عَبِيدٌ = (ع ب د) بندے

عَتَّتْ = (ع ت و) (ن) اُس نے سرکشی کی

عُتِلَّ = (ع ت ل) سخت مزاج (کافر)

عَتَوُا = (ع ت و) (ن) انہوں نے سرکشی کی

عَتِيذٌ = (ع ت د) تیار

عَتِيْقٌ = (ع ت ق) آزاد

عُثْرٌ = (ع ث ر) (ن - ض) اُسے خبر دی گئی

عُجَابٌ = (ع ج ب) عجیب

عِجَافٌ = (ع ج ف) کمزور۔ ذیلی

عَجَلٌ = (ع ج ل) (2) اُس نے جلدی کی

عَجَلٌ = (ع ج ل) (2) تو جلدی کر

عَاكِفُونَ = (ع ك ف) اعتکاف کرنے

والے

عَاكِفِينَ = (ع ك ف) اعتکاف کرنے والے

عَالٍ = (ع ل و) بلند۔ سرکش

عَالِمٌ = (ع ل م) علم والا

عَالِمُونَ = (ع ل م) علم والے

عَالِمِينَ = (ع ل م) علم والے

عَالَمِينَ = (ع ل م) سارے جہان

عَالِيٌّ = (ع ل و) (ع ل ی) اوپر کا حصہ

عَالِيًّا = (ع ل و) (ع ل ی) سرکش۔ بلند

عَالِيَّةٌ = (ع ل و) (ع ل ی) بلند۔ اونچی

عَالِيْنٌ = (ع ل و) (ع ل ی) سرکش (جمع)

عَامٌ = (ع و م) سال

عَامِلٌ = (ع م ل) کام کرنے والا

عَامِلَةٌ = (ع م ل) کام کرنے والی

عَمِلُونَ = (ع م ل) کام کرنے والے

عَمِلِينَ = (ع م ل) کام کرنے والے

عَامِينَ = (ع و م) دو سال

عَاهَدٌ = (ع و د) (3) اس نے عہد کیا

عَهْدَتٌ = (ع و د) (3) تو نے عہد کیا

عَهْدَتُمْ = (ع و د) (3) تم نے معاہدہ کیا

عَهْدُوا = (ع و د) (3) انہوں نے عہد کیا

عَرَضْتُمْ = (ع رض) (2) تم نے اشارے سے کہا
 عَرَضُوا = (ع رض) (ض) وہ پیش کیے گئے
 عَرَفَ = (ع رف) (2) اس نے پہچان کرائی
 عُرْوَةٌ = (ع رو) کڑا حلقہ
 عَرِيضٌ = (ع رض) چوڑا
 عَزَّرْتُمُوهُمْ = (ع زر) (2) تم نے ان کی مدد کی
 عَزَّزُوهُ = (ع زر) (2) انہوں نے اس کی مدد کی
 عَزَّزْنَا = (ع زر) (2) ہم نے طاقت دی
 عَزَّيْبِيٌّ = (ع زر) اُس نے مجھے (گفتگو میں) دبا لیا
 عَزِيْزٌ = (ع زر) غالب۔ زبردست
 عَزِيْزِيْنَ = (ع زو) (ع زی) گروہ درگروہ
 عُسْرِيٌّ = (ع س ر) تنگی۔ مشکل
 عُسْرَةٌ = (ع س ر) تنگی۔ مفلسی
 عَسَسَ = (ع س ع س) (ع س ی) (10) وہ جانے لگے۔ وہ تاریک ہو
 عَسِيْتُمْ = (ع س ی) اُمید ہے۔ تم قریب ہوئے

عَجَلْنَا = (ع ج ل) (2) ہم نے جلدی کی
 عَجُوْزٌ = (ع ج ز) بڑھیا
 عَجُوْلًا = (ع ج ل) جلد باز
 عَجِيْبٌ = (ع ج ب) عجیب
 عَدَاوَةٌ = (ع دو) دشمنی
 عِدَّةٌ = (ع دو) گنتی
 عَدَدٌ = (ع دو) (2) اس نے بار بار گنا
 عُدْنَا = (ع دو) (ن) ہم نے دوبارہ کیا
 عُدُوْا = (ع دو) زیادتی
 عُدُوْرَةٌ = (ع دو) کنارے
 عِدْهُمْ = (و ع د) (ن) تو ان سے وعدہ کر
 عَذَابٌ = (ع ذ ب) عذاب
 عَذَبَ = (ع ذ ب) (2) اس نے عذاب دیا
 عَذَّبْنَا = (ع ذ ب) (2) ہم نے عذاب دیا
 عُدْتُ = (ع و ذ) (ن) میں نے پناہ مانگی
 عَرَآءٌ = (ع ری) چٹیل میدان
 عَرَبِيٌّ = (ع رب) عربی
 عُرْجُوْنٌ = (ع ر ج ن) (ع ر ج و ن) کھجور کی ٹہنی
 عُرِضَ = (ع رض) (ض) پیش کیا گیا
 عُرْضَةٌ = (ع رض) نشانہ۔ ٹارگٹ

کی
 عَصِيبٌ = (ع ص ب) کٹھن بھاری
 عَصِيْبٌ = (ع ص ب) کٹھن۔ سخت۔
 بھاری
 عَصِيْنٌ = (ع ض و) (ع ض و) نکلنے
 نکلنے
 عَطَاءٌ = (ع ط و) عطا۔ عطیہ۔ انعام
 عَطَلْتُ = (ع ط ل) (2) وہ بیکار چھوڑی گئی
 عِظَامٌ = (ع ظ م) ہڈیاں
 عِظُوْهُنَّ = (و ع ظ) (ض) تم سمجھاؤ ان
 (عورتوں کو)
 عِظُوْهُمُ = (و ع ظ) (ض) تو سمجھاؤ ان کو
 عَظِيْمٌ = (ع ظ م) بڑا۔ عظمت والا
 عَفَاً = (ع ف و) (ن) اُس نے معاف کیا
 عَفْرِيتٌ = (ع ف ر) بڑا جن
 عَفْوًا = (ع ف و) (ن) انہوں نے معاف
 کیا۔ وہ زیادہ ہو گئے
 عَفِيٌّ = (ع ف و) (ن) معاف کیا گیا
 عِقَابٌ = (ع ق ب) میری سزا
 عَقَبَةٌ = (ع ق ب) گھاتی
 عَقِيْبِيْهِ = (ع ق ب) اس کی دونوں اڑیاں
 عَقْدَةٌ = (ع ق د) گرہ گانٹھ
 عَقُوْدٌ = (ع ق د) گرہیں۔ عہد

عَسِيْرٌ = (ع س ر) تنگ کٹھن بھاری
 عِشَارٌ = (ع ش ر) دس مہینے کی حاملہ اونٹنیاں
 عِشَاءٌ = (ع ش ء) عشا کا وقت
 عَشْرَةٌ = (ع ش ر) دس (10)
 عِشْرُوْنَ = (ع ش ر) بیس (20)
 عِشِيٌّ = (ع ش ء) شام کا وقت
 عِشِيَّةٌ = (ع ش ء) شام کا وقت
 عِشِيْرٌ = (ع ش ر) ساتھی
 عِشِيْرَةٌ = (ع ش ر) خاندان۔ رشتہ دار
 عَضِيٌّ = (ع ص ی) (ض) اس نے نافرمانی
 کی
 عَصَاً = (ع ص و) عصا۔ لاشی
 عَصَانِيٌّ = (ع ص ی) (ض) اس نے
 نافرمانی کی میری
 عَصْبَةٌ = (ع ص ب) جماعت
 عَصَوًا = (ع ص ی) (ض) انہوں نے
 نافرمانی کی
 عَصِيًّا = (ع ص ی) بڑا نافرمان
 عَصِيْبٌ = (ع ص ی) (ض) میں نے
 نافرمانی کی
 عَصِيَانٌ = (ع ص ی) نافرمانی
 عَصِيْتُمْ = (ع ص ی) (ض) تم نے نافرمانی

عَلِيَيْنَ = (ع ل ی) اوپر والے	عَقِيْمٌ = (ع ق م) بانجھ۔ منحوس
عَمَاتٍ = (ع م م) پھوپھیاں	عَلَا = (ع ل و) (ن) اس نے چڑھائی کی
عِمَادٍ = (ع م د) ستون (جمع)	عَلَوُ = (ع ل و) (ن) انہوں نے سرکشی کی
عِمَارَةَ = (ع م ر) آباد کرنا	عَلَامٌ = (ع ل م) بڑا علم والا
عُمْرَةَ = (ع م ر) عمر	عَلَمْتِ = (ع ل م) علامتیں۔ نشانیاں
عَمُوًا = (ع م ی) (س) وہ اندھے بن گئے	عَلَانِيَةً = (ع ل ن) علانیہ۔
عَمُونٌ = (ع م ی) اندھے	عَلَقِيَةً = (ع ل ق) جما ہوا خون
عُمَيَانًا = (ع م ی) اندھے	عَلَمَاءٌ = (ع ل م) علم والے
عُمِيَّتٍ = (ع م ی) (2) وہ چھپادی گئی	عَلِمٌ = (ع ل م) (2) اس نے سکھایا
عَمِيْقٍ = (ع م ق) گہرا	عَلَمْتُ = (ع ل م) (2) تو نے سکھایا
عَمِيْنٌ = (ع م ی) اندھے	عَلِمْتُ = (ع ل م) (2) تجھے سکھایا گیا
عَنْكَبُوْتٍ = (ع ن ک ب) کڑوی	عَلِمْتُ = (ع ل م) (2) میں نے سکھایا
عَنِيدٍ = (ع ن د) مخالف۔ دشمن	عَلِمْتُمْ = (ع ل م) (2) تم نے سکھایا
عَوَانٌ = (ع و ن) درمیانی عمر	عَلِمْتُمْ = (ع ل م) (2) تمہیں سکھایا گیا
عَوْرَاتٍ = (ع و ر) پردے کی باتیں	عَلِمْنَا = (ع ل م) (2) ہمیں سکھایا گیا
عَوْرَةٌ = (ع و ر) غیر محفوظ۔ پردہ	عَلِمْنَا = (ع ل م) (2) ہم نے سکھایا
عُرُقَبٍ = (ع ق ب) (3) اس کی تکلیف دی گئی	عَلَوًا = (ع ل و) (ن) انہوں نے سرکشی کی
عُرُقُبُسٌ = (ع ق ب) (3) تمہیں تکلیف دی گئی	عَلِيًّا = (ع ل ی) بلند مرتبہ
عِيْدًا = (ع و د) عید۔ جشن۔ خوشی	عَلَى = (ع ل و) بلند۔ اونچے
	عَلِيًّا = (ع ل و) بلندی۔ اونچی جگہ
	عَلِيْمٌ = (ع ل م) علم والا۔ جاننے والا
	عَلِيُوْنَ = (ع ل ی) اوپر والے

غَائِيْسِنَ = (غ ی ب) غائب غیر حاضر
(جمع)

غَائِطٍ = (غ و ط) نشی جگہ۔ قضائے حاجت
کی جگہ

غَائِظُونَ = (غ ی ظ) غصہ دلانے والے

غَبْرَةٌ = (غ ب ر) گردوغبار

غُبَاءٌ = (غ ث ء) کوڑا کرکٹ۔ خس و
خاشاک

غَدٍ (غ دو) (غ دی) کل

غَدْوَةٍ (غ دو) (غ دی) صبح کا وقت

غَدَاءٌ نَا = (غ دو) (غ دی) ہمارا ناشتہ

غُرَابٍ = (غ ر ب) کوا

غُرَابِيْبٌ = (غ ر ب) سیاہ۔ کالا۔ (جمع)

غُرَامًا = (غ ر م) لگا تار تکلیف۔ ہلاکت

غُرَيْبٍ = (غ ر ب) مغربی

غُرَيْبَةٍ = (غ ر ب) مغربی

غُرْفَةٍ = (غ ر ف) بالا خانہ

غُرْفَةٌ = (غ ر ف) بالا خانہ

غُرُوبٍ = (غ ر ب) غروب ہونا۔ ڈوبنا

غُرُوزٌ = (غ ر ر) دھوکا

غُرُوزِي = (غ ز و) لڑنے والے۔ غازی (جمع)

غُسَّاقٍ = (غ س ق) پیپ

عَيْشِيَّةٌ = (ع ی ش) زندگی۔ جینا

عَيْلَةٌ = (ع ی ل) تنگ دستی

عَيْوُنٌ = (ع ی ن) چشمے پانی کے

عَيْيْنَا = (ع ی ی) (س) ہم تھک گئے

ع

عَيْرِيْنٌ = (ع ب ر) پیچھے رہ جانے والے

عَارٍ = (ع و ر) غار۔ کھو

عَرْمِيْنٌ = (ع ر م) مقروض

عَاسِقٌ = (ع س ق) اندھیرا

عَاشِيَّةٌ = (ع ش ی) چھاجانے والی

عَافِرٍ = (ع ف ر) بخشنے والا

عُفْرِيْنٌ = (ع ف ر) بخشنے والے

عَافِلٍ = (ع ف ل) غافل۔ بے خبر

عُفْلِتٍ = (ع ف ل) غافل رہے خبر عورتیں

عُفْلُوْنٌ = (ع ف ل) غافل۔ بے خبر (جمع)

عُفْلِيْنٌ = (ع ف ل) غافل۔ بے خبر (جمع)

غَالِبٌ = (غ ل ب) غالب

غَالِبُونَ = (غ ل ب) غالب (جمع)

غَالِبِيْنٌ = (غ ل ب) غالب (جمع)

غَاوُنٌ = (غ و ی) گمراہ لوگ

غَوِيْنٌ = (غ و ی) گمراہ لوگ

غَائِبَةٌ = (غ ی ب) بہت چھپنے والی

عَمَامٌ = (غ م م) بادل	عَسِيلِينَ = (غ س ل) پیپ۔ زخموں کا دھوون
عُمَّةٌ = (غ م م) رنج و غم	عَشِيٌّ = (غ ش ی) (2) اس نے ڈھانپ لیا
عَمَرَاتٍ = (غ م ر) بے ہوشیاں۔ سختیاں	عِشَاوَةٌ = (غ ش ی) پردہ
عَمْرَةٌ = (غ م ر) بے ہوشی	عُصْبَةٌ = (غ ص ص) گلے میں پھنسنے والا
عَنِيٌّ = (غ ن ی) غنی۔ بے پروا	عَضْبَانٌ = (غ ض ب) سخت غصے میں
عَوِيٌّ = (غ و ی) (ض) وہ گمراہ ہوا	عِطَاءٌ = (غ ط ا) پردہ (غفلت کا)
عَوَاشٍ = (غ ش ی) پردے اوڑھنا۔	عَفَّارٌ = (غ ف ر) بخشنے والا
سائبان	عُفْرَانٌ = (غ ف ر) بخشش
عَوَاصٍ = (غ و ص) غوطہ خور	عُقْلَةٌ = (غ ف ل) غفلت۔ بے خبری
عَيْبٌ = (غ ی ب) کنوئیں کی گہرائی	عَفُورٌ = (غ ف ر) بخشنے والا
عُيُوبٌ = (غ ی ب) غیب۔ چھپی چیزیں	عِظَاطٌ = (غ ل ظ) تند خو۔ سخت گیر (جمع)
ف	عَلَامٌ = (غ ل م) (ض) لڑکا
فَتِيحِينَ = (ف ت ح) کھولنے والے۔	عُغِبَتْ = (غ ل ب) (ض) وہ مغلوب ہوئی
فیصلہ کرنے والے	عُغِبُوا = (غ ل ب) (ض) وہ مغلوب ہوئے
فَاتِكُمْ = (ف و ت) (ن) وہ تم سے چھوٹ گیا	عِظَّةٌ = (غ ل ظ) سختی
فَتِينٌ = (ف ت ن) گمراہ کرنے والے	عَلَّقَتْ = (غ ل ق) (2) اس عورت نے بند کر دیا
فَاجِرًا = (ف ج ر) بد کردار۔ گناہ گار	عِلْمَانٌ = (غ ل م) لڑکے
فَاحِشَةٌ = (ف ح ش) بے حیائی	عُلُوهُ = (غ ل ل) (ن) تم اس کو بانڈھو
فَارٌ = (ف و ر) (ن) اُس نے جوش مارا	عَلِيْظٌ = (غ ل ظ) سخت
فَارِضٌ = (ف ر ض) بوڑھی گائے	
فِرْعَا = (ف ر غ) نارغ۔ خالی	

فَأَنزَلْنَا	= (ف و ز) کامیاب	فِرْقَتِ	= (ف ر ق) بادلوں کو الگ کرنے والی
فَأَاءُوا	= (ف ی ء) (ض) انہوں نے رجوع	ہوئیں	
فَأَنزَلْنَا	کیا	فَارِقُوهُنَّ	= (ف ر ق) (3) تم ان عورتوں کو جدا کر دو
فَتَىٰ	= (ف ت ی) نوجوان۔ خادم۔ غلام	فِرْهَيْنَ	= (ف ر ہ) خوش (جمع)
فَتَاهَا	= (ف ت ی) اس عورت کا خادم	فَازَ	= (ف و ز) (ن) وہ کامیاب ہوا
فَتَّاحٌ	= (ف ت ح) فیصلہ کرنے والا	فَاسِقٌ	= (ف س ق) فاسق۔ نافرمان
فَتَهُ	= (ف ت ی) اس کا خادم	فَاسِقُونَ	= (ف س ق) نافرمان (جمع)
فَتَحَّتْ	= (ف ت ح) (ف) وہ کھولی گئی	فَاسِقِينَ	= (ف س ق) نافرمان (جمع)
فَتْرَةٌ	= (ف ت ر) وقفہ	فُصِّلِينَ	= (ف ص ل) فیصلہ کرنے والے
فِتْنَةٌ	= (ف ت ن) آزمائش۔ فتنہ	فَاطِرٌ	= (ف ط ر) پیدا کرنے والا
فُتِنْتُمْ	= (ف ت ن) (ض) تمہیں آزمایا گیا	فَاعِلٌ	= (ف ع ل) کرنے والا
فُتِنُوا	= (ف ت ن) (ض) وہ آزمائے گئے	فُعِلُونَ	= (ف ع ل) کرنے والے
فُتُونَا	= (ف ت ن) آزمانا	فُعِلِينَ	= (ف ع ل) کرنے والے
فَتَيَاتٍ	= (ف ت ی) نوجوان عورتیں۔	فَاقِرَةٌ	= (ف ق ر) کمر توڑ دینے والا
لوٹریاں		فَاقِعٌ	= (ف ق ع) گہرا
فَتَيْنِ	= (ف ت ی) دو جوان آدمی	فَاقِهَةٌ	= (ف ک ہ) پھل میوہ
فَتْيَانِهِ	= (ف ت ی) اُس کے خادم (جمع)	فِكْهُونَ	= (ف ک ہ) خوش ہونے والے
فَتِيَّةٌ	= (ف ت ی) چند آدمی	فِكْهِينَ	= (ف ک ہ) مزے اُڑانے والے
فَتِيلًا	= (ف ت ل) دھاگرہ۔ کھجور کی گٹھلی کا	فَالِقٌ	= (ف ل ق) پھاڑنے والا
ریشہ		فَانٌ	= (ف ن ی) فانی۔ فنا ہونے والا
فَجَاجِأَ	= (ف ج ج) دو پہاڑوں کے	فَاءَتْ	= (ف ی ء) (ض) وہ رجوع ہوئی
درمیان کھلے راستے			

گامراد آسمان ہے
 فَرِحُونَ = (ف ر ح) خوش۔ اترانے
 والے
 فَرِحِينَ = (ف ر ح) خوش۔ اترانے والے
 فَرَطْتُ = (ف ر ط) (2) میں نے کوتاہی کی
 فَرَطْتُمْ = (ف ر ط) (2) تم نے کوتاہی کی
 فَرَطْنَا = (ف ر ط) (2) ہم نے کمی کی
 فُرْقَان = (ف ر ق) حق و باطل میں فرق
 کرنے والا
 فِرْقَةٍ = (ف ر ق) گروہ
 فَرَّقْت = (ف ر ق) (2) تو نے تفرقہ ڈالا
 فَرَّقُوا = (ف ر ق) (2) انہوں نے نکلے
 نکلے کر دیا
 فُرُوج = (ف ر ج) شکاف۔ شرمگاہیں
 فَرِيًّا = (ف ر ي) جھوٹ۔ بہتان
 فَرِيضَةٌ = (ف ر ض) فرض
 فَرِيْقٌ = (ف ر ق) جماعت۔ گروہ
 فَرِيْقَيْنِ = (ف ر ق) دو گروہ
 فَرِيْقَيْنِ = (ف ر ق) دو گروہ
 فُرْع = (ف ر ع) (2) گھبراہٹ دور ہونا
 فَسَادٌ = (ف س د) نساد۔ بگاڑ
 فَسُوْقٌ = (ف س ق) نافرمانی۔ گناہ

فَجَارٍ = (ف ج ر) برے لوگ۔ بدکردار
 (جمع)
 فَجْرَةٌ = (ف ج ر) برے لوگ۔ بدکردار
 (جمع)
 فُجِرْتُ = (ف ج ر) (2) وہ پھاڑ دے
 جائیں گے
 فَجِرْنَا = (ف ج ر) (2) ہم نے پھاڑا
 جاری کیا
 فَجْوَةٌ = (ف ج و) غار کے اندر کھلی جگہ
 فُجُوزًا = (ف ج ر) اس کا گناہ
 فَحْشَاءٌ = (ف ح ش) بے حیائی۔ بخل
 فَخَارٌ = (ف خ ر) ٹھیکرے
 فَخُورٌ = (ف خ ر) بہت فخر کرنے والا
 فِدَاءٌ = (ف د ي) فدیہ لینا
 فِدْيَةٌ = (ف د ي) فدیہ
 فُرَاتٌ = (ف ر ت) پیاس بجھانے والا
 فُرَادَى = (ف ر د) اکیلے اکیلے
 فِرَازٌ = (ف ر ر) بھاگنا
 فَرَّاشٌ = (ف ر ش) پتنگے۔ پروانے
 فِرَاشًا = (ف ر ش) فرش۔ بچھونا
 فِرَاقٌ = (ف ر ق) جدائی
 فَرِحْتُ = (ف ر ج) وہ کھولا پھاڑا جائے

فَكَّرَ = (ف ک ر) اس نے سوچا
فَكَهَيْنَ = (ف ک ہ) باتیں بناتے ہوئے
فُلَانًا = (ف ل ن) فلاں۔ معلوم شخص
فَوَاحِشَ = (ف و ح ش) بے حیائی کے کام
فَوَاقٍ = (ف و ق) مہلت۔ ڈھیل
فَوَاكِهَ = (ف ک ہ) پھل۔ میوے
فَهْمَنَا = (ف ہ م) ہم نے سمجھایا
فَوَادٍ = (ف و د) دل
فِعْتَةٍ = (ف ع و) (ف ع ی) گروہ۔ جماعت
فِعْتَيْنِ = (ف ع و) (ف ع ی) دو گروہ
فِعْتَيْنِ = (ف ع و) (ف ع ی) دو گروہ
فَأَوْ = (ف ع و ی) پس تم پناہ لو

ق

قَابٍ = (ق و ب) مقدار۔ اندازہ
قَابِلٍ = (ق ب ل) قبول کرنے والا
قُتِلَ = (ق ت ل) (3) وہ لڑا
قَاتِلٍ = (ق ت ل) (3) توڑ
قَاتِلًا = (ق ت ل) (3) تم دونوں لڑو
قَتَلُوا = (ق ت ل) (3) وہ سب لڑے
قَاتِلُوا = (ق ت ل) (3) تم سب لڑو
قَادِرٌ = (ق د ر) قادر۔ قدرت والا
قَادِرُونَ = (ق د ر) قادر۔ قدرت والے

فِصَالٌ = (ف ص ل) دودھ چھڑانا
فَصَّلَ = (ف ص ل) (2) اس نے تفصیل
بیان کی
فُصِّلَتْ = (ف ص ل) (2) اس کی تفصیل
بیان کی گئی
فَصَّلْنَا = (ف ص ل) (2) ہم نے تفصیل
بیان کی
فَصِيَّتِهِ = (ف ص ل) اس کا قبیلہ۔ خاندان
فَضَّلَ = (ف ض ل) (2) اس نے فضیلت
دی
فَضَّلْتُ = (ف ض ل) (2) میں نے
فضیلت دی
فَضَّلْنَا = (ف ض ل) (2) ہم نے فضیلت
دی
فِضَّةٌ = (ف ض ض) چاندی
فُطُورٌ = (ف ط ر) خلل۔ ٹکاف۔ نقص
فَعَالٌ = (ف ع ل) کر گزرنے والا
فُعِلَ = (ف ع ل) (ف) وہ یا گیا
فَعَلَةٌ = (ف ع ل) کام
فُقِرَاءٌ = (ف ق ر) محتاج۔ ضرورت مند
(جمع)
فُقِيرٌ = (ف ق ر) محتاج۔ تنگ دست

قَامٌ = (ق و م) (ن) وہ کھڑا ہوا	قَدِيرٌ = (ق و ر) قادر۔ قدرت والے
قَامُوا = (ق و م) (ن) وہ کھڑے ہوئے	قَارِعَةٌ = (ق و ع) کھٹکھٹانے والی
قَانِتٌ = (ق ن ت) فرماں بردار	قَسِطُونَ = (ق س ط) ظالم۔ بے راہ
قَسِيُونَ = (ق ن ت) فرماں بردار (جمع)	قَاسِمٌ = (ق س م) اس نے قسم کھائی
قَسِيئِينَ = (ق ن ت) فرماں بردار (جمع)	قَسِيَّةٌ = (ق س و) سخت
قَسِيطِينَ = (ق ن ط) مایوس لوگ	قَاصِدًا = (ق ص و) درمیانہ۔ معمولی ارادہ کرنے والا
قَانِعٌ = (ق ن ع) قناعت پسند	قَصْرَةٌ = (ق ص ر) نیچی نظر رکھنے والیاں
قَاهِرٌ = (ق ہ ر) غالب۔ زور آور	قَاصِفًا = (ق ص ف) سخت آدمی
قَاهِرُونَ = (ق ہ ر) غالب۔ زور آور (جمع)	قَاضٍ = (ق ض ی) فیصلہ کرنے والا
قَائِلٌ = (ق و ل) کہنے والا	قَاضِيَةٌ = (ق ض ی) کام تمام کر دینے والی
قَائِلُونَ = (ق ی ل) دوپہر کے وقت سونے والے	قَاطِعَةٌ = (ق ط ع) قطعی فیصلہ کرنے والی
قَائِلِينَ = (ق و ل) کہنے والے	قَاعًا = (ق و ع) میدان
قَائِمٌ = (ق و م) کھڑا	قَاعِدًا = (ق ع و) کھڑا
قَائِمَةٌ = (ق و م) کھڑی	قَاعِدُونَ = (ق ع و) بیٹھنے والے
قَائِمُونَ = (ق و م) کھڑے	قَاعِدِينَ = (ق ع و) بیٹھنے والے
قَائِمِينَ = (ق و م) کھڑے	قَالَ = (ق و ل) (ن) اس نے کہا
قَائِلٌ = (ق ب ل) قبیلے	قَالَآ = (ق و ل) (ن) اُن دونوں نے کہا
قَبْضَةٌ = (ق ب ض) مٹھی	قَالَتْ = (ق و ل) (ن) وہ بولی
قَبْلَةٌ = (ق ب ل) قبلہ	قَالَتَا = (ق و ل) (ن) وہ دونوں بولیں
قُبُورٌ = (ق ب ر) قبریں	قَالُوا = (ق و ل) (ن) وہ سب بولے
قَبُولٌ = (ق ب ل) قبول کرنا	قَالِينَ = (ق ل ی) بیزار ہونے والے (جمع)

قَدَّمْتُمْ = (ق دم) (2) تم نے آگے بھیجا
 قَدَّمُوا = (ق دم) (2) انہوں نے آگے
 بھیجا
 قَدَّمُوا = (ق دم) (2) تم آگے بھیجو
 قَدُّورٌ = (ق در) ہانڈیاں۔ دیکھیں
 قُدُّوسٌ = (ق دس) پاک
 قَدِيرٌ = (ق در) قادر۔ قدرت والا
 قَدِيمٌ = (ق دم) قدیم۔ پرانا
 قُرَى = (ق ری) بستیاں
 قَرَارٌ = (ق رر) آرام کی جگہ
 قَرَأَ طَيْسٌ = (ق رطس) اوراق کاغذ
 (جمع)
 قُرْبَى = (ق رب) رشتہ داری
 قَرَبَا = (ق رب) (2) دونوں نے پیش کی
 قَرُبَتْ = (ق رب) خوشنودیاں۔ نزدیکیاں
 قَرَبَانَا = (ق رب) قربانی۔ قرب حاصل
 کرنے کا ذریعہ
 قُرْبَةٌ = (ق رب) قرب۔ نزدیکی۔ خوشنودی
 قَرَبْنَاهُ = (ق رب) (2) ہم نے اس کو قریب
 کر دیا
 قَرَبْنَاهُ = (ق رب) (2) اس نے اُس کو قریب
 کیا

قَبِيلًا = (ق بل) سامنے۔ مقابل
 قَبِيلُهُ = (ق بل) اس کا قبیلہ لشکر
 قِتَالٌ = (ق تل) لڑنا
 قَتْرَةٌ = (ق تر) گردوغبار۔ سیاہی
 قَتِيلٌ = (ق تل) (ن) وہ قتل کیا گیا
 قَتْلَى = (ق تل) مقتول (جمع)
 قَتِلْتُ = (ق تل) (ن) وہ قتل کی گئی
 قَتِلْتُمْ = (ق تل) (ن) تم قتل کیے گئے
 قَتَلْنَا = (ق تل) (ن) ہم قتل کیے گئے
 قَتَلُوا = (ق تل) (ن) وہ قتل کیے گئے
 قَتِلُوا = (ق تل) (2) وہ قتل کیے گئے
 قَتُورًا = (ق تر) تنگ دل۔ تھردلا
 قِنَانِهَا = (ق ثء) نگلی اُس کی
 قَدَّرُ = (ق در) (2) اُس نے اندازہ کیا
 قَدِرٌ = (ق در) (2) تو حساب سے جوڑ
 قَدَرْنَا = (ق در) (2) ہم نے مقرر کر دیا
 قَدَرُوا = (ق در) (2) انہوں نے مناسب
 انداز سے بھرا
 قَدَّمَ = (ق دم) (2) اس نے آگے بھیجا
 قَدَّمْتُ = (ق دم) (2) اُس (عورت)
 آگے بھیجا
 قَدَّمْتُ = (ق دم) (2) میں نے آگے بھیجا

قُصُوٰی = (ق ص و) دور کا کنارہ (کے کی

طرف)

قُصُوْرًا = (ق ص ر) محلات

قُصِيًّا = (ق ص و) دور۔ الگ

قُصِيْهِ = (ق ص ص) تو اس کے پیچھے پیچھے

جا

قُضِيَ = (ق ض ی) (ض) اس نے فیصلہ

کیا پورا کیا

قُضُوْا = (ق ض ی) (ض) انہوں نے

حاجت پوری کر لی

قُضِيَ = (ق ض ی) (ض) پورا فیصلہ کیا گیا۔

قُضِيَتْ = (ق ض ی) (ض) وہ پوری رستم کی

گئی

قَطْرَانٍ = (ق ط ر) گندھک۔ تیل کی طرح

کاسیال مادہ

قَطَعَ = (ق ط ع) (2) وہ کاٹ دے گا

قُطِعَتْ = (ق ط ع) (2) وہ کاٹی پھاڑی

جاتی

قَطَعْنَ = (ق ط ع) (2) ان عورتوں نے

کانا

قَطْمِيْرٍ = (ق ط م ر) باریک چھلکا جو کھجور کے

اوپر ہوتا ہے

قُرَّتْ = (ق ر ر) ٹھنڈک

قِرْدَةٌ = (ق ر د) بندر (جمع)

قِرطَاسٍ = (ق ر ط س) کاغذ

قُرْنَاءٌ = (ق ر ن) ساتھی (جمع)

قُرْنَيْنٍ = (ق ر ن) دو سینگ

قُرُونٌ = (ق ر ن) تو میں

قُرُوْءٌ = (ق ر و) حیض۔ طہر

قُرِيٌّ = (ق ر و) (ن۔ ف) وہ پڑھا گیا

قُرْآنٌ = (ق ر و) قرآن

قَرِيْبٌ = (ق ر ر) (س ن ض) تو ٹھنڈی رکھ

قَرِيْبٌ = (ق ر ب) قریب۔ نزدیک

قَرِيْبَةٌ = (ق ر ی) بہتی

قَرِيْبَيْنٍ = (ق ر ی) دو بہتیاں

قَرِيْنٌ = (ق ر ن) ساتھی

قَسَتْ = (ق س و) (ن) سخت ہو گئی

قِسْطَاسٍ = (ق س ط) ترازو

قِسْمَةٌ = (ق س م) تقسیم۔ بٹوارہ

قَسُوَةٌ = (ق س و) سختی۔ سگ دلی

قَسُوْرَةٌ = (ق س و) شیر

قِسْيِيْنٍ = (ق س س) عیسائی عالم

قِصَاصٌ = (ق ص ص) قصاص۔ قتل کا بدلہ

لینا

قَمَلٌ = (ق م ل) گھن کا کپڑا	قَطُوْهُمَا = (ق ط ف) اس کے پھل ریوے
قَمِيصٌ = (ق م ص) قمیص۔ کڑتا	قَعُوْا = (وق ع) تم گر پڑو
قِنَا = (وق ی) (ض) تو ہم کو بچا	قَعُوْذٌ = (ق ع و) بیٹھنے والے
قِنَاطِيْرٌ = (ق ن ط ر) ڈھیر (جمع)	قَعِيْدٌ = (ق ع د) بیٹھا ہوا
قِنَطَارٌ = (ق ن ط ر) ڈھیر	قَفُوْهُمُ = (وق ف) (ض) تم روکو ان کو
قِنَوَانٌ = (ق ن و) خوشے۔ گچھے	قَفِيْنَا = (ق ف و) (2) ہم نے پیچھے بھیجا
قِنُوْطٌ = (ق ن ط) مایوس۔ ناامید	قُلٌ = (ق و ل) (ن) تو کہہ
قَوَا = (وق ی) (ض) تم بچاؤ	قَلَايِدٌ = (ق ل د) گلے کے پٹے
قَوَايِی = (ق و ی) قوتیں۔ طاقتیں	قَلَبُوْا = (ق ل ب) (2) انہوں نے الٹ
قَوَارِيْرٌ = (ق و ر) شیشے کے برتن	پلٹ کیا
قَوَاعِدٌ = (ق و ع د) بنیادیں	قُلْتُ = (ق و ل) (ن) میں نے کہا
قَوَامًا = (ق و م) درمیانہ۔ معتدل	قُلْتُمْ = (ق و ل) (ن) تم نے کہا
قَوَامُوْنَ = (ق و م) سربراہ	قُلُنْ = (ق و ل) (ن) اُن (عورتوں) نے کہا
قَوَامِيْنَ = (ق و م) قائم رہے والے	قُلْنَا = (ق و ل) (ن) ہم نے کہا
قُوَّةٌ = (ق و ی) قوت۔ طاقت	قُلُوْبٌ = (ق ل ب) دل (جمع)
قُوْتِلْتُمْ = (ق ت ل) (3) تم سے لڑائی کی	قَبِيْلٌ = (ق ل ل) تھوڑا۔ کم
گئی	قَبِيْلَةٌ = (ق ل ل) تھوڑی۔ کم
قُوْتِلُوْا = (ق ت ل) (3) ان سے لڑائی	قَبِيْلُوْنَ = (ق ل ل) (ن) تھوڑے۔ کم
ہوئی	قَمٌ = (ق و م) (ن) اٹھ۔ کھڑا ہو جا
قَوَسِيْنَ = (ق و س) دو کمانیں	قَمْتُمْ = (ق و م) (ن) تم اٹھو۔ تم کھڑے ہو
قَوِيٌّ = (ق و ی) قوت والا	قَمَطَرِيْرًا = (ق م ط ر) مصیبت اور رنج
قَهَارٌ = (ق ہ ر) قہار۔ قابو کرنے والا	والا

ہوئے
 كَاذِبٌ = (ک ز ب) جھوٹا
 كَاذِبَةٌ = (ک ز ب) جھوٹی۔ جھوٹ بولنے والی
 كَذِبُونَ = (ک ز ب) جھوٹے
 كَذِبِينَ = (ک ز ب) جھوٹے
 كَرِهُونَ = (ک ر ہ) ناپسند کرنے والے
 كَرِهِينَ = (ک ر ہ) ناپسند کرنے والے
 كَاشِفٌ = (ک ش ف) کھولنے والا
 كَشِيفٌ = (ک ش ف) کھولنے والیاں
 كَاشِفَةٌ = (ک ش ف) کھولنے والی
 كَاشِفُونَ = (ک ش ف) کھولنے والے
 كَظِمِينَ = (ک ظ م) غصہ پی جانے والے
 كَافٍ = (ک ف ی) کافی
 كَافَّةٌ = (ک ف ن) سب مل کر۔ پورے کے پورے
 كَافِرٌ = (ک ف ر) کافر
 كَافِرَةٌ = (ک ف ر) کفر کرنے والی
 كَافِرُونَ = (ک ف ر) کافر لوگ
 كَافِرِينَ = (ک ف ر) کافر لوگ
 كَافُورًا = (ک ف ر) کافور۔ خوشبودار
 گھاس۔ جنت

قِهْمٌ = (ق ی ض) تو بچاؤ کو
 قِيَامٌ = (ق ی م) قیام۔ کھڑا ہونا
 قِيَامَةٌ = (ق ی م) قیامت
 قَيْضًا = (ق ی ض) (2) ہم نے پیچھے لگا دیا
 قَيْعَةٌ = (ق ی ع) وسیع چٹیل میدان
 قَيْلٌ = (ق ی ل) (ن) کہا گیا
 قَيْلًا = (ق ی ل) (ن) بات گفتگو
 قَيْلِهِ = (ق ی ل) (ن) اُس کی بات
 قَيْمٌ = (ق ی م) قائم رکھنے والا۔ سیدھا
 قَيْمَةٌ = (ق ی م) مضبوط۔ درست۔ ٹھیک
 قَيُّومٌ = (ق ی م) سنبھالنے والا

ک

كَاتِبٌ = (ک ت ب) لکھنا والا
 كَاتِبُونَ = (ک ت ب) لکھنے والے
 كَاتِبُوهُمْ = (ک ت ب) (3) تم ان کو لکھ دو اور مکاتیب بنا لو
 كَاتِبِينَ = (ک ت ب) لکھنے والے
 كَادٌ = (ک و د) (س۔ ن) وہ قریب ہے
 كَادِثٌ = (ک و د) (س۔ ن) وہ (مونث) قریب ہے
 كَادِحٌ = (ک و ح) محنت کرنے والا
 كَادُوا = (ک و د) (س۔ ن) وہ قریب

ہولناک	كَلْبُحُونٌ = (ک ل ح) منہ بگاڑنے والے
کُبْرَاءُ نَا = (ک ب ر) ہمارے سردار	بَدِشَل
کُبْرَتْ = (ک ب ر) وہ بڑی ہوئی	كَالُوهُمْ = (ک ی ل) (ض) وہ ان کو ناپ
کُبْرَةٌ = (ک ب ر) (2) تو اس کی بڑائی	کر دیتے ہیں
بیان کر	كَامِلَةٌ = (ک م ل) پوری
کُبْرِيَاءُ = (ک ب ر) بڑائی۔ بزرگی	كَامِلِينَ = (ک م ل) دو پورے
كُبْكُبُوا = (ک ب ک ب) (10) وہ	كَانَ = (ک و ن) (ن) وہ تھا۔ وہ ہے
اوندھے منہ ڈالے جائیں گے	كَانَا = (ک و ن) (ن) وہ دونوں تھے
کُبَيْرٌ = (ک ب ر) بڑا	كَانَتْ = (ک و ن) (ن) وہ تھی
کُبَيْرَةٌ = (ک ب ر) بڑی	كَانَتَا = (ک و ن) (ن) وہ دونوں تھیں
کُتِبٌ = (ک ت ب) کتاب	كَانُوا = (ک و ن) (ن) وہ تھے
کُتِبِيَةٌ = (ک ت ب) میری کتاب۔ میرا	كَاهِنٌ = (ک ہ ن) کاہن۔ فال نکلنے والا
اعمال نامہ	كَجَارًا = (ک ب ر) بہت ہی بڑا
کُتِبَ = (ک ت ب) (ن) وہ لکھا گیا	كَجَازًا = (ک ب ر) بڑے گناہ
کُتِرَتْ = (ک ث ر) (ک ن) وہ زیادہ	كُجِبَتْ = (ک ب ت) (ن) وہ منہ کے بل
ہوئی	ڈالی گئی
کُثْرَةٌ = (ک ث ر) کثرت	كُجِبَتْ = (ک ب ت) (ض) وہ ہلاک و ذلیل
کُثْرٌ كَثْمٌ = (ک ث ر) (2) اس نے بہت	کیا گیا
زیادہ کر دیا	كُجِبُوا = (ک ب ت) (ض) وہ ہلاک و ذلیل
کُثِيْنَا = (ک ث ب) ریت کا ڈھیر	کیا گیا
کُثِيْرٌ = (ک ث ر) کثیر۔ بہت	کُبْرٌ = (ک ب ر) (2) تو بڑائی۔ بیان کر
کُثِيْرَةٌ = (ک ث ر) بہت	کُبْرِيٌّ = (ک ب ر) بہت بڑی۔ سخت

كَرَّهٌ = (ک ر ه) (ک ر ه) (2) اس نے ناپسند کیا
 كَرِهْتُمُوهُ = (ک ر ه) (س) تم ناپسند کرو
 اَسَ
 كَرِيْمٌ = (ک ر م) کریم۔ بزرگی والا
 كَسَادَهَا = (ک س د) اس کا سودا نہ بکنا
 كَسَالِي = (ک س ل) کامل۔ ست (جمع)
 كِسْوَةٌ = (ک س و) کپڑا
 كَسَوْنَا = (ک س و) (ن) ہم نے پہنایا
 كَشِطَتْ = (ک ش ط) (ن) اس کی
 کھال اتاری جائے گی۔ وہ کھولا جائے گا
 كَظِيْمٌ = (ک ظ م) سخت ٹمگین
 كَعْبَةٌ = (ک ع ب) کعبہ۔ خانہ کعبہ
 كَعْبِيْنٌ = (ک ع ب) دونوں ٹخنے
 كِفَاتًا = (ک ف ت) سیٹھے والی
 كِفَارٌ = (ک ف ر) بڑنا شکر۔ بہت کفر
 کرنے والا
 كُفَّارٌ = (ک ف ر) کافر لوگ
 كُفَّارَةٌ = (ک ف ر) کفارہ۔ ندریہ
 كُفِّرَ = (ک ف ر) (ن) اُس کا انکار کیا گیا
 كُفِّرَ = (ک ف ر) (2) اس نے دور کر دیا
 كُفِّرُوا = (ک ف ر) (2) تو دور کر دے
 كُفِّرَانٌ = (ک ف ر) ناشکری۔ ناقدری

كِدَتْ = (ک و د) (س۔ن) تو قریب تھا
 كِدْنَا = (ک و د) (س۔ن) ہم نے چال چلی
 كِذَابٌ = (ک ذ ب) بڑا جھوٹا
 كِذَابًا = (ک ذ ب) جھٹلانا۔ انکار کرنا
 كِذْبٌ = (ک ذ ب) (2) اُس نے جھٹلایا
 كُذِبَ = (ک ذ ب) (2) وہ جھٹلایا گیا
 كَذَّبْتُ = (ک ذ ب) (2) تو نے جھٹلایا
 كَذَّبْتُ = (ک ذ ب) (2) جھٹلانی گئی
 كَذَّبَتْ = (ک ذ ب) (2) تو نے جھٹلایا
 كَذَّبْتُمْ = (ک ذ ب) (2) تم نے جھٹلایا
 كَذَّبْنَا = (ک ذ ب) (2) ہم نے جھٹلایا
 كَذَّبُوا = (ک ذ ب) (2) انہوں نے
 جھٹلایا
 كَذَّبُوا = (ک ذ ب) (2) وہ جھٹلائے گئے
 كَذَّبُوا = (ک ذ ب) (ض) ان کی بات
 جھوٹی نکلی
 كِرَامًا = (ک ر م) نیک۔ بزرگ (جمع)
 كَرَّةٌ = (ک ر ر) ایک دفعہ
 كَرَّتِيْنٌ = (ک ر ر) دو دفعہ
 كُرْسِيَّةٌ = (ک ر س) کرسی اس کی
 كَرْمَتْ = (ک ر م) (2) تو متعززت دی
 كَرْمًا = (ک ر م) ب (2) ہم نے عزت دی

کُنْ = (ک و ن) (ن) تو ہوجا	کَفَّرَةٌ = (ک ف ر) کافر لوگ
کُنَّ = (ک و ن) وہ تھیں	کَفَّرْنَا = (ک ف ر) ہم نے دور کر دیا
کُنَّا = (ک و ن) ہم تھے	كَفَّفْتُ = (ک ف ف) میں نے روکا
كُنْتُ = (ک و ن) تو تھا	كَفَّلَهَا = (ک ف ل) (2) اس نے اُس کے سپرد کیا
كُنْتِ = (ک و ن) تو تھی	كَفَّلِينَ = (ک ف ل) دو حصے۔ دوہرا
كُنْتُ = (ک و ن) میں تھا	كُفُّوا = (ک ف ف) تم روکو
كُنْتُمْ = (ک و ن) تم تھے	كُفُّوا = (ک ف ر) ناشکرا
كُنْتُنَّ = (ک و ن) تم تھیں	كَفَّيْلًا = (ک ف ل) کفیل۔ ضامن۔ گواہ
كَفَّرْتُمْ = (ک ن ز) تم نے جمع کیا	كَفَّيْنِكَ = (ک ف ی) (ض) ہم کافی ہیں تجھے
كُنْسِ = (ک ن س) چھپنے والے	كَفَّيْهِ = (ک ف ف) دونوں ہتھیلیاں اُس کی
كُنُودٌ = (ک ن و) ناشکرا	كُلًّا = (ک ل ل) تم دونوں کھاؤ
كُنُوزٌ = (ک ن ز) خزانے	كُلَّةٌ = (ک ل ل) کلالہ
كُوعِبٌ = (ک ع ب) نوجوان عورتیں	كَلَامٌ = (ک ل م) کلام۔ بات
كُوعِفِرٌ = (ک ف ر) کافر عورتیں	كَلِمَةٌ = (ک ی ل) (ض) تم نے مپا
كُوعِبِبٌ = (ک ب ب) (ک و ب)	كَلِمٌ = (ک ل م) (2) اُس نے کلام کیا
ستارے	كَلِمٌ = (ک ل م) (2) کلام کیا گیا
كُوعِفِرٌ = (ک و ر) کثرت۔ حوض کوثر	كَلِمَتٌ = (ک ل م) کلمات۔ باتیں
كُوعِرَتْ = (ک و ر) (2) وہ لپیٹا گیا	كَلِمَةٌ = (ک ل م) کلمہ۔ بات
تاریک کیا گیا	كُلُّوا = (ک ل ل) (ن) تم کھاؤ
كُوعِبٌ = (ک ب ب) (ک و ب)	كُلِّيٌّ = (ک ل ل) (ن) تو عورت) کھا
ستارہ	
كُوعُوا = (ک و ن) (ن) تم ہوجاؤ	

لِسَانٌ = (ل س ن) زبان

لَسْتُ = (ل ی س) تو نہیں ہے

لَسْتُمْ = (ل ی س) میں نہیں ہوں

لَسْتُمْ = (ل ی س) تم نہیں ہو

لَسْتُنَّ = (ل ی س) تم (عورتیں) نہیں ہو

لَطِيفٌ = (ل ط ف) باریک بین۔ مہربان

لَعْنٌ = (ل ع ن) لعنت کی گئی

لَعْنَةٌ = (ل ع ن) لعنت

لَعْنُوا = (ل ع ن) اُن پر لعنت کی گئی

لُعُوبٌ = (ل ع ب) تھکاوٹ۔ تھکان

لَفِيفًا = (ل ف ف) لپیٹ کر

لَقَّهْمُ = (ل ق ی) (2) اس نے ان کی دی

لِقَاءٌ = (ل ق ی) ملاقات

لَقُوا = (ل ق ی) وہ ملے

لَقِيتُمْ = (ل ق ی) تم ملے

لُمْتُنِي = (ل م ن) تم الزام دیتی

تھیں مجھ کو

لُمْرَةٌ = (ل م ز) بہت غیب کرنے والا۔ طعنہ

دینے والا

لِنْتُ = (ل ی ن) تو نرم ہوا

لَوَّاحَةٌ = (ل و ح) جھلس دینے والی

لَوْأَذًا = (ل و ذ) نظر بچا کر

كُوْنِي = (ك و ن) تو (عورت) ہو جا

كَيْدُونٌ = (ك ي د) تم مجھ سے مکر کرو

كَيْدُونِي = (ك ي د) تم مجھ سے مکر

کرو

ل

لَبِئْسَ = (ل ب ث) ارہنے والے

لَا زِبٌ = (ل ز ب) چپکے والا

لُعْبِينٌ = (ل ع ب) کھیلنے والے

لُعْنُونَ = (ل ع ن) لعنت کرنے والے

لَا غِيَةَ = (ل غ و) بیہودہ بات

لَا قِيَةَ = (ل ق ی) اس سے ملنے والا

لَمَسْتُمْ = (ل م س) (3) تم نے ہاتھ لگایا

لَا هِيَةَ = (ل ه و) لہو غفلت میں پڑی ہوئی

لَا ئِمٌ = (ل و م) ملامت کرنے والا

لِبَاسٌ = (ل ب س) لباس

لَبَّوْسٌ = (ل ب س) پہناوا۔ زرہ

لُجَّةٌ = (ل ج ج) گہرا پانی

لُجِّيٌّ = (ل ج ج) گہرا دریا یا سمندر

لُحْمُهَا = (ل ح م) گوشت اُن کے

لُحَيْتِي = (ل ح ی) داڑھی میری

لَذَّةٌ = (ل ذ ذ) لذت۔ مزہ

لِزَامًا = (ل ز م) لازمی۔ چٹ جانے والا

مَا رُوَّتْ = (م ر ت) ماروت فرشتہ	لَوَاقِحْ = (ل ق ح) بوجھل کرنے والیاں
مَا عَوْنٌ = (م ع ن) معمولی چیز	بَارَآوْر
مَا كَيْفِيْنَ = (م ك ث) رہنے والے	لَوَامِيَةٌ = (ل و م) ملامت کرنے والا
مَا كُفُوْنَ = (م ك ث) رہنے والے	لَوُوْا = (ل و ي) (2) وہ پھیرتے ہیں
مُكْرِئِيْنَ = (م ك ر) نکر کرنے والے	لَوُوْا = (ل و ي) موتی
مَا لٌ = (م و ل) مال۔ دولت	لَيَّا = (ل و ي) مروڑنا۔ پھیرنا
مَلِكٌ = (م ل ك) مالک	لَيَالٍ = (ل ي ل) راتیں
مَلِكُوْنَ = (م ل ك) مالک (جمع)	لَيَالِيٌ = (ل ي ل) راتیں
مَا لِيَةٌ = (م و ل) میرا حال	لَيْسَتْ = (ل ي س) وہ (موت) نہیں ہے
مَا نَعْتُهُمْ = (م ن ع) ان کو بچانے والی	لَيْسُوا = (ل ي س) وہ نہیں ہیں
مُهَلْدُوْنَ = (م ه د) بچانے والے	لَيْلَةٌ = (ل ي ل) رات
مَاءٌ = (م و ه) پانی	لَيْنًا = (ل ي ن) نرم
مَا نِذَةٌ = (م ي د) خوان۔ دسترخوان	لَيْنَةً = (ل ي ن) کھجور کا نرم پودا
مُبْرَكٌ = (ب ر ك) برکت والا	
مُبْرَكَةٌ = (ب ر ك) برکت والی	
مُبْتَلِيْكُمْ = (ب ل و) تم کو آزمانے والا	مَا تٌ = (م و ت) (ن) وہ مر گیا
مُبْتَلِيْنَ = (ب ل و) آزمانے والے	مَا تُوْا = (م و ت) (ن) وہ مر گئے
مَبْثُوْثٌ = (ب ث ث) بکھرے ہوئے	مَا جُوْجٌ = (م ج ج) ماجوج
مَبْثُوْثَةٌ = (ب ث ث) پھیلے ہوئے	مَا دُمْتُ = (د و م) (ن) جب تک تو رہے
مُبَدِّلٌ = (ب د ل) تبدیل کرنے والے	مَا دُمْتُ = (د و م) (ن) جب تک میں رہا
مُبَدِّيَةٌ = (ب د و) اس کو ظاہر کرنے والا	مَا دُمْتُ = (د و م) (ن) جب تک تم رہے
مُبَدِّرِيْنَ = (ب ذ ر) فضول خرچی کرنے والا	مَا رُجٌ = (م ر ج) بھڑکتا ہوا شعلہ
	مَا رِدٌ = (م ر د) سرکش۔ شریر

مُبَيَّنَةٌ = (ب ی ن) واضح ظاہر (مونث)

مِثٌّ = (م و ت) (ن) تو مرجائے

مِثٌّ = (م و ت) (ن) میں مرجاؤں

مِتَابٌ = (ت و ب) میرا تو بہ کرنا

مِتَاعٌ = (م ت ع) سامان۔ فائدہ

مُتَبِّرٌ = (ت ب ر) برباد شدہ

مُتَبِّرٌ حَتَّىٰ = (ب ر ج) بناؤ سنگار کرنے

والیاں

مُتَبِعُونَ = (ت ب ع) پیچھا کیے گئے

مُتَّبِعِينَ = (ت ب ع) لگا تار

مُتَّجَانِفٍ = (ج ن ف) جھکنے والا۔ مائل

مُتَّحِوِرَاتٍ = (ج و ر) ساتھ ساتھ۔ قریب

قریب

مُتَّحِرَةً = (ح ر ف) پینتر ابدلنے والا

مُتَّحِيزًا = (ح و ز) پناہ جگہ لینے والا

مُتَّخِذٌ = (ع خ ذ) (ن) بنانے والا۔ لینے والا

مُتَّخِذَاتٍ = (ع خ ذ) (ن) بنانے والیاں

مُتَّخِذِيٌّ = (ع خ ذ) (ن) بنانے پر پکڑنے

والے

مُتَّرَاكِبًا = (ر ک ب) تڑپتے

مُتَّرَبَةً = (ت ر ب) خاک۔ مٹی

مُتَّرَبِّصٌ = (ر ب ص) انتظار کرنے والا

مُبْرَمُونَ = (ب ر م) مقرر کرنے والے

مُبْرَأُونَ = (ب ر ع) بری ر پاک کیے گئے

مَبْسُوطَتَيْنِ = (ب س ط) دونوں کھلے

مُبَشِّرًا = (ب ش ر) خوش خبری دینے والا

مُبَشِّرَاتٍ = (ب ش ر) خوشخبری دینے

والیاں

مُبَشِّرِينَ = (ب ش ر) خوشخبری دینے والے

مُبْصِرًا = (ب ص ر) دکھانے والا۔ روشن

مُبْصِرَةً = (ب ص ر) دکھانے والی

مُبْصِرُونَ = (ب ص ر) دیکھنے والے

مُبْطَلُونَ = (ب ط ل) باطل پرست۔

جھوٹے لوگ

مُبْعَدُونَ = (ب ع د) دور کیے گئے

مُبْعُوثُونَ = (ب ع ث) بھیجے گئے

مُبْلِسُونَ = (ب ل س) مایوس۔ ناامید

(جمع)

مُبْلِسِينَ = (ب ل س) مایوس۔ ناامید

(جمع)

مَبْلُغُهُمْ = (ب ل غ) پہنچانے کی

مُبَوَّأٌ = (ب و ا) ٹھکانہ

مُبَيِّنٌ = (ب ی ن) واضح۔ ظاہر

مُبَيِّنَاتٍ = (ب ی ن) واضح۔ ظاہر (جمع مونث)

مُتَفَرِّقَةٌ = (ف ر ق) الگ الگ
 مُتَفَرِّقُونَ = (ف ر ق) الگ الگ (جمع)
 مُتَقَبِّلِينَ = (ق ب ل) آسنے سانسے
 مُتَقَلِّبُكُمْ = (ق ل ب) تمہارے چلنے
 پھرنے کی جگہ
 مُتَقُونَ = (و ق ی) پرہیزگار لوگ
 مُتَقِينَ = (و ق ی) پرہیزگار لوگ
 مُتَكَبِّرُ = (ک ب ر) تکبر۔ تکبر کرنے والا
 مُتَكَبِّرِينَ = (ک ب ر) تکبر کرنے والے
 مُتَكَلِّفِينَ = (ک ل ف) بناوٹی لوگ
 مُتَكَا = (و ک ء) مجلس
 مُتَكُونُونَ = (و ک ء) تکیہ لگائے ہوئے
 مُتَكِينِينَ = (و ک ء) تکیہ لگائے ہوئے
 مُتَلَقِينَ = (ل ق ی) دو ملنے ریلنے والے
 مُتَمُّ = (م و ت) (ض۔س) تم مر جاؤ گے
 مُتَمُّ = (م و ت) (ض۔س) تم مر جاؤ
 مُتَمُّ = (ت م م) (ض۔س) پورا کرنے والا
 مُتَمِّنَا = (م و ت) (ض۔س) ہم مرجائیں
 مُتَنَافِسُونَ = (ن ف س) رغبت جرح
 کرنے والے
 مُتَوَسِّمِينَ = (و س م) دانہ۔ چہرہ شناس
 (جمع)

مُتَرَبِّصُونَ = (ر ب ص) انتظار کرنے والے
 مُتَرَبِّصِينَ = (ر ب ص) انتظار کرنے والے
 مُتَرَدِّبَةٌ = (ر د ی) گر کر ہلاک ہونے والی
 مُتَرَفُّوہَا = (ت ر ف) خوشحال لوگ اُس کے
 مُتَرَفِّينَ = (ت ر ف) خوش حال لوگ
 مُتَرَفِّيہَا = (ت ر ف) خوش حال لوگ
 اُس کے
 مُتَشَابِهًا = (ش ب ہ) ملتا جلتا
 مُتَشَابِهَةٌ = (ش ب ہ) تشابہات۔ ملتی جلتی
 مُتَشَكِّسُونَ = (ش ک س) بھنگڑا کرنے والے
 مُتَصَدِّعًا = (ص د ع) چھٹنے والا
 مُتَصَدِّقَاتٍ = (ص د ق) صدقہ کرنے
 والیاں
 مُتَصَدِّقِينَ = (ص د ق) صدقہ کرنے والے
 مُتَطَهِّرِينَ = (ط ہ ر) پاک صاف رہنے والے
 مُتَعَالٍ = (ع ل ی) بلند مرتبہ
 مُتَعَتُّ = (م ت ع) میں نے فائدہ دیا
 مُتَعَتُّ = (م ت ع) تو نے فائدہ دیا
 مُتَعَمِّدًا = (ع م و) جان بوجھ کر
 مُتَعَنَّا = (م ت ع) (2) ہم نے فائدہ دیا
 مَيِّعُوہُنَّ = (م ت ع) (2) تم اُن
 (عورتوں) کو فائدہ دو

مُجْرِمٌ = (ج ر م) مجرم۔ گناہ گار	مُتَوَفِّيكَ = (و ف ی) تجھے وفات دینے
مُجْرِمُونَ = (ج ر م) مجرم (جمع)	والا
مُجْرِمِينَ = (ج ر م) مجرم (جمع)	مُتَوَكِّلُونَ = (و ک ل) توکل کرنے والے
مُجْرِمِيهَا = (ج ر م) مجرم اس کے	مُتَوَكِّلِينَ = (و ک ل) توکل کرنے والے
مُجْرِيهَا = (ج ر ی) چلانا اُس کا	مَتِينٌ = (م ت ن) مضبوط۔ پختہ
مَجْمَعٌ = (ج م ع) ملنے جمع ہونے کی جگہ	مَثَابَةٌ = (ث و ب) ثوابِ عبادت کی جگہ
مَجْمُوعٌ = (ج م ع) جمع کیا گیا	مَثَانِيٌّ = (ث ن ی) دہرائی جانے والیاں
مَجْمُوعُونَ = (ج م ع) جمع کیے گئے	مَثُورًا = (ث ب ر) ہلاک کیا ہوا
مَجْنُونٌ = (ج ن ن) دیوانہ	مِثْقَالٌ = (ث ق ل) کے وزن کے برابر
مَجِيبٌ = (ج و ب) جواب دینے والا قبول	مِثْقَلَةٌ = (ث ق ل) بوجھ والی
کرنے والا	مِثْقَلُونَ = (ث ق ل) بوجھ والے۔ لدے
مَجِيبُونَ = (ج و ب) جواب دینے والے	ہوئے
قبول کرنے والے	مُثَلَّى = (م ث ل) مثالی
مَجِيدٌ = (م ج د) بزرگی والا۔ عظمت والا	مُثَلَّتْ = (م ث ل) مثالیں
مَحَارِبٌ = (ح ر ب) عبادت گاہیں۔ قلعے	مَثْنَى = (ث ن ی) دودو
مِحَالٌ = (م ح ل) حیلہ کرنا۔ گرفت کرنا۔	مَثْوَى = (ث و ی) ٹھکانا
عذاب دینا	مَثْوَبَةٌ = (ث و ب) ثواب
مَحَبَّةٌ = (ح ب ب) محبت	مَجْلِسٌ = (ج ل س) مجالس۔ مجالس
مُحْتَضِرٌ = (ح ض ر) حاضر کیا ہوا	مُجَاهِدُونَ = (ج ہ د) مجاہدین
مُحْتَضِرٍ = (ح ظ ر) کانٹوں کی باڑ لگانے	مُجَاهِدِينَ = (ج ہ د) مجاہدین
والا	مُجْتَمِعُونَ = (ج م ع) جمع ہونے والے
مَحْجُوبُونَ = (ح ج ب) حجاب پر دے	مَجْدُودٌ = (ج ذ ن) کانٹا ہوا

مُحَضَّرًا = (ح ض ر) حاضر موجود
 مُحَضَّرُونَ = (ح ض ر) حاضر کیے گئے
 مُحَضَّرِينَ = (ح ض ر) حاضر کیے گئے
 مَحْظُورًا = (ح ظ ر) بند کی ہوئی۔ رو کی ہوئی
 مَحْفُوظٌ = (ح ف ظ) محفوظ
 مُحْكَمَةٌ = (ح ک م) واضح۔ صاف (جمع)
 مُحْكَمَةٌ = (ح ک م) واضح۔ صاف
 مُحَلِّقِينَ = (ح ل ق) سر منڈانے والے
 مَجَلٌّ = (ح ل ل) ذبح کرنے کی جگہ
 مَجَلِّیٌّ = (ح ل ل) حلال سمجھنے والے
 مُحَمَّدٌ = (ح م د) محمد ﷺ
 مُحَمُّودًا = (ح م د) محمود۔ تعریف کیا گیا
 مَحْوُونًا = (ح و ن) ہم نے مٹا دی
 مُحْيٍ = (ح ی ی) زندہ کرنے والا
 مُحْيَاً = (ح ی ی) زندگی۔ جینا
 مَحِيصٌ = (ح ی ص) بھاگنے کی جگہ
 مَحِيصٌ = (ح ی ض) حیض۔ ماہواری
 مُحِيطٌ = (ح و ط) احاطہ کرنے والا
 مُحِيطَةٌ = (ح و ط) گھیرنے والی
 مَخَاضٌ = (ح م ض) دروزہ
 مُخْبِتِينَ = (خ ب ت) عاجزی رخشوع
 کرنے والے

میں کیے ہوئے
 مَعْجُورًا = (ح ج ر) روکا بند کیا ہوا
 مُعَدِّثٌ = (ح و ث) نیا نئی چیز
 مَعْدُورًا = (ح ذ ر) ڈرنے کی چیز
 مِعْرَابٌ = (ح ر ب) عبادت خانہ
 مُعْرَازًا = (ح د ر) آزاد۔ وقف
 مُعْرَمٌ = (ح ر م) حرام کیا گیا۔ محترم
 مُعْرَمَةٌ = (ح ر م) حرام کی گئی
 مَعْرُومٌ = (ح ر م) محروم
 مَعْرُومُونَ = (ح ر م) محروم (جمع)
 مُحْسِنٌ = (ح س ن) نیکی کرنے والا
 مُحْسِنَاتٌ = (ح س ن) نیکی کرنے والیاں
 مُحْسِنُونَ = (ح س ن) نیکی کرنے والے
 مُحْسِنِينَ = (ح س ن) نیکی کرنے والے
 مَعْسُورًا = (ح س ر) پچھتایا ہوا۔
 حسرت۔ زدہ
 مَعْشُورَةً = (ح ش ر) جمع کیے گئے
 مُخَصَّنَةٌ = (ح ص ن) پاک دامن آزاد
 شادی شدہ عورتیں
 مَعْصِنَةٌ = (ح ص ن) قلعہ بند۔ محفوظ
 مَعْصِنِينَ = (ح ص ن) نکاح کرنے
 والے

مُخْتَلِفٌ = (خ ل ف) وحدہ خلافی کرنے والے
مُخْتَلِفُونَ = (خ ل ف) پیچھے رہے ہوئے
مُخْتَلِفِينَ = (خ ل ف) پیچھے رہ جانے والے
مُخْتَلِقَةٌ = (خ ل ق) بنی ہوئی
مَخْمَصَةٌ = (خ م ص) سخت بھوک
مِذَاذًا = (م د ذ) روشنائی۔ سیاہی
مُدْبِرًا = (د ب ر) پیٹھ پھیرنے والا
مُدْبِرَاتٍ = (د ب ر) تدبیر برائے نظام کرنے والے
مُدْبِرِينَ = (د ب ر) پیٹھ پھیرنے والے
مُدَّتْ = (م د و) (ن) وہ کھینچی گئی۔ لمبی کی گئی
مُدَّتْهُمْ = (م د و) اُن کی مقررہ مدت
مُدَّتُّوْهُ = (د ث ر) چادر میں لپٹنے والا
مُدْحِضِينَ = (د ح ض) خطا کار۔ شکست خوردہ
مُدْحُوْرًا = (د ح و ر) دور کیا گیا
مُدْخَلٌ = (د خ ل) داخل کرنا
مُدْخَلًا = (د خ ل) داخل ہونے کی جگہ
مُدْخَلًا = (د خ ل) داخل ہونے کی جگہ
مُدْرَأًا = (د ر ر) بہت برسنے والا
مُدْرَكُونَ = (د ر ک) قابو میں آئے رکھنے والے

مُخْتَلِئًا = (خ ل ل) مغرور۔ متکبر
مُخْتَلِفٌ = (خ ل ف) مختلف۔ الگ الگ
مُخْتَلِفُونَ = (خ ل ف) اختلاف کرنے والے
مُخْتَلِفِينَ = (خ ل ف) اختلاف کرنے والے
مَخْتُوْمٌ = (خ ت م) مہر لگی ہوئی
مَخْذُوْلًا = (خ ذ ل) بے بس۔ بے سہارا
مُخْرَجٌ = (خ ر ج) خارج کیا ہوا۔ نکالا گیا
مَخْرَجًا = (خ ر ج) نکلنے کی جگہ
مُخْرَجٌ = (خ ر ج) نکالنے والا
مُخْرَجُونَ = (خ ر ج) نکالے جانے والے
مُخْرَجِينَ = (خ ر ج) نکالے جانے والے
مُخْرِزِيٌّ = (خ ز ي) ذلیل کرنے والا
مُخْسِرِينَ = (خ س ر) نقصان دینے والے
مُخْضِرَةٌ = (خ ض ر) سرسبز۔ سیاہی مائل سبز
مَخْضُوْدٌ = (خ ض د) بغیر کانٹے کے
مُخْلَدُونَ = (خ ل د) ہمیشہ رہنے والے
مُخْلَصًا = (خ ل ص) خالص کیا ہوا۔ ممتاز
مُخْلَصًا = (خ ل ص) خالص کرنے والا
مُخْلِصُونَ = (خ ل ص) خالص رخاص کرنے والے
مُخْلِصِينَ = (خ ل ص) خالص رخاص کرنے والے

ہوئے

مُرْتَقِبُونَ = (رقب) انتظار کرنے والے

دیکھنے والے

مُدَكِّبِر = (ذکر ر) نصیحت حاصل کرنے والا

مُرْتَبِّين = (م ر ر) دوبار

مُدَهَّاتِن = (دہ م) دوسیا ہی مائل سبز

مُرْجَان = (م ر ج) (م ر ج ن) مرجان۔

مُدَهْنُونَ = (دہ ن) سستی کرنے والے

مونگا

مَدِينَةٌ = (م دن) مدینہ منورہ

مُرْجِع = (ر ج ع) لوٹانا

مَدِينُونَ = (دی ن) بدلہ دیے گئے لوگ

مُرْجِفُونَ = (ر ج ف) سنسنی پھیلانے

مَدِينِينَ = (دی ن) بدلہ دیے گئے لوگ

والے

مُدْبَذِبِينَ = (ذ ب ذ ب) شک میں پڑے

ہوئے

مُرْجُوا = (ر ج و) ہونہار۔ مرکز امید

مُدْعِين = (ذ ع ن) فرماں بردار

مُرْجُومِينَ = (ر ج م) سنگسار کیے گئے

مُدَكِّبِر = (ذکر ر) نصیحت کرنے والا

مُرْجُونَ = (ر ج و) مہلت دیے ہوئے

مُدْكُورًا = (ذکر ر) ذکر کیا ہوا۔ قابل ذکر

مُرْحَبًا = (ر ح ب) کشادہ ہونا۔ آرام دہ

مَذْمُومٌ = (ذ م م) ملامت کیا گیا۔ بد حال

جگہ خوش آمدید

مَرَاتٍ = (م ر ر) کئی بار

مُرْحَمَةٌ = (ر ح م) رحم کرنا

مَرَاضِعٌ = (ر ض ع) دودھ پلانے والیاں

مَرَدٌ = (ر د د) پھیرنا۔ لوٹانا

مُرَاغِمًا = (ر غ م) اچھی جگہیں

مَرَدٌ = (ر د د) لوٹائے جانے کا وقت/مقام

مَرَافِقٍ = (ر ف ق) کہنیاں

مُرْدِفِينَ = (ر د ف) پیچھے آنے والے

مِرَاءٌ = (م ر ی) بحث/جھگڑا کرنا

مَرْدُودٌ = (ر د د) رد کیا ہوا۔ لوٹایا ہوا

مَرَّةٌ = (م ر ر) ایک دفعہ

مَرْدُودُونَ = (ر د د) رد کیے گئے۔ لوٹائے

ہوئے

مُرْتَابٌ = (ر ی ب) شک کرنے والا

مُرْسَهًا = (ر س و) اس کا رکنا/ٹھہرنا

مَرَاتَان = (م ر ر) دو دفعہ

مُرْسَلٌ = (ر س ل) بھیجنے والا

مُرْتَقَا = (ر ف ق) ٹھکانا۔ آرام

مَرْفُوعٌ = (رفع) بلند کیا ہوا	مُرْسَلٌ = (رسل) بھیجا گیا۔ رسول پیغمبر
مَرْفُوعَةٌ = (رفع) بلند مرتبہ	مُرْسَلَاتٌ = (رسل) بھیجی ہوئی (ہوئیں)۔ فرشتے
مَرْقَدِنَا = (رقد) ہماری قبر	مُرْسَلَةٌ = (رسل) بھیجنے والی
مَرْقُومٌ = (رقم) لکھا ہوا	مُرْسَلُوا = (رسل) بھیجنے والے
مَرْكُومٌ = (ركم) تہ بہ تہ	مُرْسَلُونَ = (رسل) بھیجنے والے
مُرِيْبٌ = (رىب) شک میں ڈالنے والا	مُرْسَلِينَ = (رسل) بھیجے گئے۔ رسول (جمع)
مُرِيَّةٌ = (مرى) شک اُلجھن	مُرْسَلِينَ = (رسل) بھیجے گئے۔ رسول (جمع)
مُرِيْجٌ = (مرج) الجھا ہوا کام۔ اُلجھی ہوئی بات	مُرْسَلًا = (رشد) رہبر۔ رہنما
مُرِيْدٌ = (مرد) سرکش	مُرْصَادٍ = (رصد) گھات
مُرِيضٌ = (مرض) مریض	مُرْصِدٍ = (رصد) گھات
مُرِيْنَا = (مراء) خوش گوار	مُرْصُوصٌ = (رصد) سیر۔ لائی ہوئی۔ مضبوط
مُرْاجٌ = (مزوج) لانا۔ آمیزش	مُرْضِيٌّ = (مرض) مریض (جمع)
مُرْجَةٌ = (زوج) تھوڑی۔ حقیر۔ ناقص	مُرْضَاتٌ = (رض و) رضا۔ خوشنودی
مُرْجُوْجٌ = (زوج) اُس کی پجانے والا	مُرْضِعَةٌ = (رضع) دودھ پانے والی
مُرْدَجُوٌّ = (زوج) ڈانٹ	مُرْضِيًّا = (رض و) پسندیدہ۔ خوش کیا ہوا
مُرْقَتُمُ = (مزق) (2) تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے	مُرْضِيَّةٌ = (رض و) خوش کی ہوئی۔ پسندیدہ
مُرْقَتُهُمْ = (مزق) (2) ہم نے اُن کو ریزہ ریزہ کر دیا	مُرْعَى = (رعى) چراگاہ
مُرْقِلٌ = (زمل) کپڑے میں لپٹنے والا	مُرْفَقًا = (رفق) آرام۔ سہولت
مُرْيَدٌ = (زى و) مزید زیادہ	مُرْفُودٌ = (رف و) انعام دیا گیا مد کیا گیا
مُرْسَسٌ = (مسس) چھوٹا۔ ہاتھ لگانا	

مُسْتَضْعُونُ (ض ع ف) بے بس کمزور لوگ

مُسْتَضْعِفِينَ (ض ع ف) بے بس کمزور

لوگ

مُسْتَطْرُ = (س ط ر) لکھا ہوا

مُسْتَطِيرًا = (س ط ر) پھیلنے والا۔ عام

مُسْتَعَانُ = (ع و ن) وہ جس سے مدد مانگی

جائے

مُسْتَفْرِئِينَ = (غ ف ر) بخشش مانگنے

والے

مُسْتَقْبِلُ = (ق ب ل) آنے والا

مُسْتَقَرُّ = (ق ر ر) ٹھکانہ

مُسْتَقِيمٌ = (ق و م) سیدھا

مُسْتَكْبِرًا = (ک ب ر) تکبر کرنے والا

مُسْتَكْبِرُونَ (ک ب ر) تکبر کرنے والے

مُسْتَكْبِرِينَ (ک ب ر) تکبر کرنے والے

مُسْتَمِرٌّ = (م ر ر) ہمیشہ۔ مضبوط

مُسْتَمْسِكُونَ (م س ک) مضبوط پکڑنے

والے

مُسْتَمْعُونَ = (س م ع) سننے والے

مُسْتَوْهُمْ = (س م ع) سننے والا اُن کا

مُسْتَفْرَةٌ = (ن ف ر) بد کے ہوئے

مُسْتَوْدَعٌ = (و د ع) سپرد کرنے کی جگہ۔

مَسْجِدٌ = (س ج د) مسجدیں۔ جگہ

مُسْفِحَتٍ = (س ف ح) بدکار زنا کار

عورتیں

مُسْفِحِينَ = (س ف ح) بدکار زنا کار مرد

مَسَاقٍ = (س و ق) چلنا

مَسْكِنٌ = (س ک ن) مکانات

مَسْكِينٌ = (س ک ن) سسکین محتاج

(جمع)

مُسَبِّحُونَ = (س ب ح) تسبیح کرنے والے

مُسَبِّوْقِينَ = (س ب ق) پیچھے چھوڑے

ہوئے

مُسْتَخْرِئِينَ (ء خ ر) پیچھے رہنے والے

مُسْتَأْنِسِينَ (ء ن س) اُنس کرنے والے

جی لگانے والے

مُسْتَبْشِرَةٌ = (ب ش ر) خوش ہونے والی

مُسْتَبْصِرِينَ (ب ص ر) سب کچھ دیکھنے

والے۔ ہوشیار

مُسْتَبِينَ = (و ب ی) واضح۔ روشن

مُسْتَخْفٍ = (خ ف ی) چھپا ہوا

مُسْتَخْلَفِينَ (خ ل ف) جانشین بنائے

ہوئے

مُسْتَسْلِمُونَ (س ل م) فرماں بردار لوگ

مُسْفِيَةٌ = (س ف ب) سخت بھوک	پناہ گاہ
مُسْفِرَةٌ = (س ف ر) چمکنے والی۔ روشن	مُسْتَوْرًا = (س ت ر) چھپا ہوا
مُسْفُوْحًا = (س ف ح) بہتا ہوا	مُسْتَهْزِءٌ وَنٌ = (ه زء) مذاق اڑانے والے
مَسْكُنٌ = (س ک ن) گھر مکان	مُسْتَهْزِءٌ يَنْ = (ه زء) مذاق اڑانے والے
مَسْكَنَةٌ = (س ک ن) محتاجی	مُسْتَيْقِنِينَ = (س ی ق ن) یقین کرنے والے
مَسْكُوبٌ = (س ک ب) بہتا رگرتا ہوا	مَسْجِدٌ = (س ج د) مسجد۔ سجدہ گاہ
مَسْكُونَةٌ = (س ک ن) آباد مکان	مَسْجُورٌ = (س ج ر) بھڑکا ہوا
مِسْكِينٌ = (س ک ن) مسکین۔ محتاج	مَسْجُونِينَ = (س ج ن) قیدی۔ (جمع)
مُسْلِمًا = (س ل م) مسلمان	مَسْحَرِينَ = (س ح ر) جادو کیے گئے
مُسْلِمَاتٌ = (س ل م) مسلمان عورتیں	مَسْحُورًا = (س ح ر) جادو کیا گیا
مُسْلِمَةٌ = (س ل م) مسلمان عورت	مَسْحُورُونَ = (س ح ر) جادو کیے گئے
مُسْلَمَةٌ = (س ل م) بے داغ۔ حوالے کی گئی	مَسْخُورٌ = (س خ ر) تابع۔ فرماں بردار
مُسْلِمُونَ = (س ل م) مسلمان۔ فرماں بردار (جمع)	مَسْخِرَاتٌ = (س خ ر) تابع کی ہوئیں۔ فرماں بردار بنائی ہوئیں
مُسْلِمِينَ = (س ل م) دو مسلمان دو فرماں بردار	مُسْرِفٌ = (س ر ف) فضول خرچ کرنے والا
مُسْلِمِينَ = (س ل م) مسلمان (جمع)	مُسْرِفُونَ = (س ر ف) فضول اڑانے والے
مُسْمِيٌّ = (س م و) مقرر کیا ہوا۔ نام رکھا ہوا	مُسْرِفِينَ = (س ر ف) فضول اڑانے والے
مُسْمِعٌ = (س م ع) سنایا ہوا	مُسْرُورًا = (س ر ر) خوش
مُسْمِعٌ = (س م ع) سنانے والا	مَسْطُورٌ = (س ط ر) لکھا ہوا
مُسْنَدَةٌ = (س ن و) سہارا۔ ٹیک لگائی ہوئی	
مَسْنُونٌ = (س ن ن) سزا ہوا	

مُشْرِكٌ = (ش ر ک) مشرک	مُسَوِّدًا = (س و د) سیاہ۔ کالا
مُشْرِكَةٌ = (ش ر ک) مشرک عورتیں	مُسَوِّدَةٌ = (س و د) کالی۔ سیاہ
مُشْرِكَةٌ = (ش ر ک) مشرک عورت	مُسَوِّمَةٌ = (س و م) نشان کی ہوئی
مُشْرِكُونَ = (ش ر ک) مشرک لوگ	مُسَوِّمِينَ = (س و م) نشان بنانے والے
مُشْرِكِينَ = (ش ر ک) مشرک لوگ	مُسْتَوْلًا = (س ء ل) سوال کیا ہوا۔ پوچھا ہوا
مُشْعِرٌ = (ش ع ر) نشان۔ علامت	مُسْتَوْلُونَ = (س ء ل) باز پرس کیے جانے والے
مُشْفِقُونَ = (ش ف ق) ڈرنے والے	مَسِيحٌ = (م س ح) عیسیٰ علیہ السلام
مُشْفِقِينَ = (ش ف ق) ڈرنے والے	مَسِيءٌ = (س و ء) گناہ گار
مِشْكُورَةٌ = (ش ک و) طاق (چراغ رکھنے کے لیے)	مَشَارِبٌ = (ش ر ب) پینے کی چیزیں۔ مشروبات
مَشْكُورًا = (ش ک ر) شکر رقد کیا ہوا	مَشَارِقٌ = (ش ر ق) بہت سے مشرق
مَشْوًا = (م ش ی) (ض) وہ چلے	مَشَاءٌ = (م ش ی) بہت زیادہ چلنے والا
مَشْهَدٌ = (ش ہ د) حاضری۔ گواہی	مُشْتَبَهًا = (ش ب ہ) ملتا جلتا
مَشْهُودٌ = (ش ہ د) حاضر کیا ہوا	مُشْتَرِكُونَ = (ش ر ک) شریک ہونے والے
مَشْنَمَةٌ = (ش ء م) بائیں طرف۔ بد قسمتی	مَشْحُونٌ = (ش ح ن) بھری ہوئی
مَشِيدٌ = (ش ی د) مضبوط	مَشْرَبٌ = (ش ر ب) گھاٹ پانی لینے کی جگہ
مَشِيدَةٌ = (ش ی د) مضبوط	مَشْرِقٌ = (ش ر ق) مشرق
مَصَابِيحٌ = (م ص ب ح) چراغ (جمع)	مَشْرِقِينَ = (ش ر ق) دو مشرق
مَصَانِعٌ = (م ص ن ع) مکانات۔ قلعے	مَشْرِقِينَ = (ش ر ق) صبح کرنے والے
مِصْبَاحٌ = (م ص ب ح) چراغ	
مِصْبَحِينَ = (م ص ب ح) صبح کرنے والے	
مُصَدِّقٌ = (م ص د ق) تصدیق کرنے والا۔	

مُصِيبَةٌ = (ص وب) مصیبت	مصدق
مُصِيبَةٌ = (ص وب) اُس کو پہنچانے والا	مُصَدِّقَاتٍ = (ص دق) صدقہ دینے والیاں
مُصِيرٌ = (ص ی ر) ٹھکانا۔ لوٹنے کی جگہ	مُصَدِّقِينَ = (ص دق) تصدیق کرنے والے
مُصِيطِرٌ = (س ط ر) نگران۔ ذمہ دار	مُصَدِّقِينَ = (ص دق) صدقہ کرنے والے
مُصِيطِرُونَ = (س ط ر) نگران۔ ذمہ دار	مُصْرِحٌ = (ص رخ) فریاد کو پہنچنے والا
(جمع)	مُصْرِفًا = (ص رف) لوٹنے کی جگہ۔ بچنے کا راستہ
مُضَى = (م ض ی) گزر چکا	مُصْرُوفًا = (ص رف) پھیرا ہوا۔ لوٹایا ہوا
مَضَاجِعٌ = (ض ج ع) بستر۔ بچھونے۔ قتل ہونے کی جگہیں	مُصْطَفِينَ = (ص ف ع) چنے ہوئے۔ منتخب
مُضَارٌّ = (ض ر ر) نقصان دینے والا	مُصْفًى = (ص ف ع) صاف کیا ہوا
مُضْعَفَةٌ = (ض ع ف) دو گنا کیا ہوا۔ بڑھایا ہوا	مُصْفَرًا = (ص ف ر) زرد
مَضَّتْ = (م ض ی) (ض ن) وہ گزر چکی	مُصْفَوَةٌ = (ص ف ف) صف بستہ۔ قطار در قطار
مُضْعِفُونَ = (ض ع ف) زیادہ بڑھانے والے	مُصَلًى = (ص ل و) نماز کی جگہ
مُضْعَفَةٌ = (م ض ع) بوٹی	مُصْلِحٌ = (ص ل ح) اصلاح کرنے والا
مُضِلٌّ = (ض ل ل) گمراہ کرنے والا	مُصْلِحُونَ = (ص ل ح) اصلاح کرنے والے
مُضِلِّينَ = (ض ل ل) گمراہ کرنے والے	مُصْلِحِينَ = (ص ل ح) اصلاح کرنے والے
مُضِيًّا = (م ض ی) گزر جانا۔ آگے چلنا	مُصَلِّينَ = (ص ل و) نمازی (جمع)
مُطَاعٌ = (ط و ع) اطاعت کیا ہوا	مُصَوِّرٌ = (ص و ر) شکل و صورت بنانے والا
مُطَفِّفِينَ = (ط ف ف) ناپ تول میں کمی کرنے والے	

مَعَادٍ = (ع دو) لوٹ کر آنے کی جگہ۔ آخرت	مَطْلَعٌ = (ط ل ع) طلوع ہونے کی جگہ۔
مَعَادٍ = (ع دو) پناہ لینا	چمکنا
مَعَاذِیْرَہُ = (ع ذ ر) اس کے عذر رہبانے	مَطْبَعٌ = (ط ل ع) طلوع ہونے کی جگہ۔
مَعَارِجٌ = (ع ر ج) درجے۔ سیڑھیاں	چمکنا
مَعَاشًا = (ع ی ش) معاش روزی کا وقت	مُطْلِعُونَ = (ط ل ع) واقف۔ جھانکنے
مَعَايِشٌ = (ع ی ش) روزیاں۔ معاش کا	والے
سامان	مُطَلِّقٌ = (ط ل ق) طلاق یافتہ عورتیں
مُعْتَبِنٌ = (ع ت ب) توجہ کیے ہوئے	مَطْلُوبٌ = (ط ل ب) طلب کیا ہوا۔ چاہا گیا
مُعْتَدٌ = (ع دو) حد سے بڑھنے والا	مُطْمَئِنٌّ = (ط م ن) اطمینان والا
مُعْتَدُونَ = (ع دو) حد سے بڑھنے والے	مُطْمَئِنَّةٌ = (ط م ن) اطمینان والی
مُعْتَدِلِينَ = (ع دو) حد سے بڑھنے والے	مُطْمَئِنِّينَ = (ط م ن) اطمینان والے
مُعْتَرٌّ = (ع ر ر) سوال کرنے والا محتاج	مُطَوِّعِينَ = (ط و ع) نفلی صدقہ کرنے والے
مُعْجِزٌ = (ع ج ز) عاجز کرنے والا	مُطَوِّبٌ = (ط و ی) لپٹے ہوئے
مُعْجِزِيٌّ = (ع ج ز) عاجز کرنے والے	مُطَهَّرٌ = (ط ہ ر) پاک کرنے والا
مُعْجِزِيْنَ = (ع ج ز) عاجز کرنے والے	مُطَهَّرَةٌ = (ط ہ ر) پاک کی ہوئی
مُعْدُوْدٌ = (ع دو) گناہوا۔ تھوڑا	مُطَهَّرُونَ = (ط ہ ر) پاک کیے ہوئے
مُعْدُوْدَاتٌ = (ع دو) گئے ہوئے۔ تھوڑے	مُظْلِمًا = (ظ ل م) اندھیرے میں پڑا ہوا
مُعْدُوْدَةٌ = (ع دو) گئی ہوئی۔ تھوڑی	مُظْلِمُونَ = (ظ ل م) اندھیرے میں پڑے
مُعَذِّبٌ = (ع ذ ب) عذاب دینے والا	ہوئے
مُعَذِّبُوْہَا = (ع ذ ب) عذاب دینے والے	مُظْلَمًا = (ظ ل م) مظلوم۔ ظلم کیا ہوا
اُس کے	مُعْجِزِيْنَ = (ع ج ز) عاجز کرنے والے۔
مُعَذِّبِيْنَ = (ع ذ ب) عذاب دیے گئے	ہرانے والے

مُعَلَّقَةٌ = (ع ل ق) لٹکی ہوئی	مُعَذِّبِينَ = (ع ذ ب) عذاب دینے والے
مُعَلَّمٌ = (ع ل م) سکھایا ہوا	مُعَذَّرَةٌ = (ع ذ ر) معذرت۔ عذر
مَعْلُومٌ = (ع ل م) معلوم۔ مقرر	مُعَذَّرُونَ = (ع ذ ر) بہانے بنانے والے
مَعْلُومَاتٌ = (ع ل م) معلوم (جمع)	مَعْرَةٌ = (ع ر ر) ضرر۔ تکلیف۔ نقصان
مُعَمَّرٌ = (ع م ر) عمر پانے والا	مُعْرِضُونَ = (ع ر ض) منہ پھیرنے والے
مَعْمُورٌ = (ع م ر) آباد۔ بیت معمور	مُعْرِضِينَ = (ع ر ض) منہ پھیرنے والے
مَعْوِقِينَ = (ع و ق) روکنے والا۔ منع کرنے والے	مَعْرُوسَاتٍ = (ع ر ض) چڑھائے ہوئے اُنچے کیے ہوئے
مَعِيَشَةٌ = (ع ی ش) روزی۔ روزگار	مَعْرُوفٌ = (ع ر ف) نیکی۔ بھلائی
مَعِينٌ = (ع م ع ن) (ع ی ن) پانی کا چشمہ	مَعْرُوفَةٌ = (ع ر ف) بھلائی۔ اچھی بات
مَعْرِبٌ = (ع و ر) غاریں	مَعْرُولٌ = (ع ز ل) کنارہ۔ الگ جگہ
مَعَارِبٌ = (ع ر ب) مغرب (جمع)	مَعْرُوفُونَ = (ع ز ل) معزول۔ برطف کیے گئے
مَعَاضِبًا = (ع ض ب) ناراض۔ غضب ناک	مِعْشَارٌ = (ع ش ر) دسواں حصہ 1/10
مَعَانِمٌ = (ع ن م) مال غنیمت (جمع)	مِعْشَرٌ = (ع ش ر) گروہ۔ جماعت
مُعْتَسِلٌ = (ع س ل) نہانے کی جگہ۔ پانی	مُعْصِرَاتٍ = (ع ص ر) نچوڑنے والیاں۔ پانی سے بھرے بادل
مَغْرِبٌ = (ع ر ب) مغرب	مُعْصِيَتٌ = (ع ص ی) گناہ۔ نافرمانی
مَغْرِبِينَ = (ع ر ب) دو مغرب	مُعْطَلَةٌ = (ع ط ل) غیر آباد
مُغْرَقُونَ = (ع ر ق) غرق۔ ڈوبنے والے	مُعَقَّبٌ = (ع ق ب) ہٹانے والا
مُغْرَقِينَ = (ع ر ق) غرق ہونے والے	مُعَقَّبَةٌ = (ع ق ب) محافظ فرشتے
مَغْرَمٌ = (ع ر م) تاوان۔ چینی	مَعْكُوفًا = (ع ك ف) روکا ہوا۔ بند کیا ہوا
مُغْرَمُونَ = (ع ر م) مقروض۔ تاوان بھرنے والے	

والے	مَغْشِيٌّ = (غ ش ی) بے ہوشی
مَفْرُوضًا = (ف ر ض) فرض۔ مقرر	مَغْضُوبٌ = (غ ض ب) غضب کیا گیا
مُفْسِدٌ = (ف س د) فسادی	مَغْفِرَةٌ = (غ ف ر) بخشش۔ مغفرت۔ درگزر
مُفْسِدُونَ = (ف س د) فساد کرنے والے	مَغْلُوبٌ = (غ ل ب) مغلوب
مُفْسِدِينَ = (ف س د) فساد کرنے والے	مَغْلُوبَةٌ = (غ ل ل) بندھی ہوئی۔ جکڑا ہوئی
مُفْصَلًا = (ف ص ل) مفصل۔ واضح	مُغْنُونَ = (غ ن ی) بچانے والے
مُفْصَلَاتٍ = (ف ص ل) مفصل۔ واضح	مُغَيِّرًا = (غ ی ر) تبدیل کرنے والے
(جمع)	مُغَيِّرَاتٍ = (غ ی ر) غارت گری
مُفْعُولًا = (ف ع ل) پورا ہو کر رہنے والا۔	کرنے والے والیاں
مُفْلِحُونَ = (ف ل ح) کامیاب (جمع)	مَفَاتِحُ = (ف ت ح) کنجیاں۔ چابیاں
مُفْلِحِينَ = (ف ل ح) کامیاب (جمع)	مَفَازًا = (ف و ز) کامیابی
مَقَابِرُ = (ق ب ر) قبریں	مَفَازَةٌ = (ف و ز) محفوظ مقام۔ حفاظت۔
مَقَاعِدُ = (ق ع د) بیٹھنے کی جگہیں	چھوٹا کارا
مَقَائِدُ = (ق ل د) کنجیاں۔ چابیاں	مُفْتَحَةٌ = (ف ت ح) کھلے ہوئے
مَقَامًا = (ق و م) کھڑے ہونے کی جگہ۔	مُفْتَرِيٌّ = (ف ر ی) گھڑی ہوئی بات
مقام	مُفْتَرٍ = (ف ر ی) جھوٹ گھڑنے والا
مَقَامًا = (ق و م) ٹھہرنے کی جگہ	مُفْتَرُونَ = (ف ر ی) جھوٹ گھڑنے والے
مَقَامَةٌ = (ق و م) جگہ۔ رہائش	مُفْتَرِيَّتٍ = (ف ر ی) گھڑی ہوئی باتیں
مَقَامِعُ = (ق م ع) ہتھوڑے۔ گرز	مُفْتَرِينَ = (ف ر ی) جھوٹ گھڑنے والے
مَقْبُولٌ = (ق ب ح) قابلِ نفرت لوگ	مَفْتُونٌ = (ف ت ن) دیوانہ
مَقْبُوضَةٌ = (ق ب ض) قبضے میں لی گئی	مَفْرُءٌ = (ف ر ر) بھاگنے کی جگہ
مُقْتَحِمٌ = (ق ح م) گھسنے والا۔ داخل ہونے	مُفْرَطُونَ = (ف ر ط) آگے بھیجے جانے

مَقْسُومٌ = (ق س م) تقسیم کیا گیا
 مُقَصِّرِينَ = (ق ص ر) بال ہلکے چھوٹے
 کرانے والے
 مَقْصُورَاتٌ = (ق ص ر) پردہ نشین عورتیں
 مَقْضِيًّا = (ق ض ی) طے شدہ
 مَقْطُوعٌ = (ق ط ع) کٹا ہوا۔ جدا
 مَقْطُوعَةٌ = (ق ط ع) کٹی ہوئی۔ جدا
 مَقْعِدٌ = (ق ع د) ٹھکانا
 مُقَمَّحُونَ = (ق م ح) سر اوپر کو بندھے ہوئے
 مُقَنْطَرَةٌ = (ق ن ط ر) ڈھیر اکٹھے کیے
 ہوئے
 مُقْنَعِيٌّ = (ق ن ع) سر اٹھائے ہوئے
 (جمع)
 مُقْوِينَ = (ق و ی) مسافر۔ قافلہ (جمع)
 مُقِيَّتًا = (ق و ت) قوت والا۔ طاقت والا
 مَقِيلًا = (ق ی ل) آرام کی جگہ
 مُقِيمٌ = (ق و م) دائمی۔ ہمیشہ رہنے والا
 مُقِيمِيٌّ = (ق و م) قائم کرنے والے
 مُقِيمِينَ = (ق و م) قائم کرنے والے
 مَكَانٌ = (ک و ن) جگہ
 مَكَانِيَّةٌ = (ک و ن) جگہ۔ ٹھکانہ
 مُكَاءٌ = (م ک و) (ن) سیٹیاں بجانا

والا
 مُقْتَدِرٌ = (ق در) قادر۔ قدرت والا
 مُقْتَدِرُونَ = (ق در) قادر۔ قدرت والے
 مُقْتَدُونَ = (ق دو) پیروکار (جمع)
 مُقْتَرٌ = (ق ت ر) تنگ دست۔ بخیل
 مُقْتَرِفُونَ = (ق ر ف) کمانے والے۔
 ارتکاب کرنے والے
 مُقْتَرِينَ = (ق ر ن) ساتھی لوگ
 مُقْتَسِمِينَ = (ق س م) تقسیم کرنے والے
 مُقْتَصِدٌ = (ق ص د) معتدل۔ میانہ رو
 مُقْتَصِدَةٌ = (ق ص د) معتدل۔ میانہ رو
 مُقْدَارٌ = (ق در) مقدار۔ اندازہ
 مُقَدَّسٌ = (ق د س) پاک
 مُقَدَّسَةٌ = (ق د س) پاک (مونث)
 مُقَدُّورًا = (ق در) طے شدہ
 مُقَرَّبَةٌ = (ق ر ب) رشتہ داری
 مُقَرَّبُونَ = (ق ر ب) مقرب (جمع)
 مُقَرَّبِينَ = (ق ر ب) مقربین (جمع)
 مُقَرِّبِينَ = (ق ر ن) قابو پانے والے
 مُقَرِّبِينَ = (ق ر ن) جکڑے ہوئے
 مُقْسِطِينَ = (ق س ط) انصاف کرنے والے
 مُقْسِمَاتٍ = (ق س م) تقسیم کرنے والیاں

مُلَقِيٌّ = (ل ق ی) ملنے والا	مُكِبًّا (ک ب ب) اوندھے منہ گرا ہوا
مُلَقُوا = (ل ق ی) ملنے والے	مُكْتَوِبًا (ک ت ب) لکھا ہوا
مُلَقِيٌّ = (ل ق ی) ملنے والے	مُكْذِبُونَ = (ک ذ ب) جھٹلانے والے
مَلِكَةٌ = (م ل ک) (ل ا ک) (ع ل ک)	مُكْذِبِينَ = (ک ذ ب) جھٹلانے والے
فرشتے	مُكْذُوبٌ = (ک ذ ب) جھوٹا
مِلَّةٌ = (م ل ل) مذہب دین۔ عقیدہ۔ طریقہ	مَكْرُومَةٌ = (م ک ر) (ن) تم نے وہ
مُلْتَحِدًا = (ل ح د) پناہ گاہ	سازش کی
مَلَجًا = (ل ج ا) پناہ۔ پناہ گاہ	مُكْرِمٌ = (ک ر م) عزت کرنے والا
مَلْعُونَةٌ = (ل ع ن) لعنت کیے گئے	مُكْرَمَةٌ = (ک ر م) باعزت
مَلْعُونِينَ = (ل ع ن) لعنت کیے گئے	مُكْرَمُونَ = (ک ر م) باعزت لوگ
مُلْقُونَ = (ل ق ی) ڈالنے پھینکنے والے	مُكْرَمِينَ = (ک ر م) باعزت لوگ
مُلْقِيَّتٌ = (ل ق ی) القاء کرنے والیاں	مُكْرُوهُا = (ک ر ہ) ناپسندیدہ
والے	مُكْظُومٌ = (ک ظ م) غم سے گھٹا ہوا
مُلْقِينَ = (ل ق ی) ڈالنے پھینکنے والے	مُكَلِّبِينَ = (ک ل ب) کتوں یا جانوروں کو
مَلِكُوتٌ = (م ل ک) بادشاہی	شکار کے لیے سدھانے والے لوگ
مَلَكِيْنٌ = (م ل ک) دو فرشتے	مَكْنَانٌ = (م ک ن) (2) ہم نے اقتدار دیا
مُلُوكًا = (م ل ک) بادشاہ (جمع)	مَكْنُونٌ = (ک ن ن) چھپایا ہوا
مَلُومٌ = (ل و م) ملامت زدہ	مَكْنِيٌّ = (م ک ن) (2) اس نے طاقت دی
مَلِيْثٌ = (م ل ا) (ف) بھری ہوئی	مجھے
مَلِيْثٌ = (م ل ا) (ف) تو نے بھرا	مَكْبِيَالٌ = (ک ی ل) اناج مانپنے کا پیانا
مَلِيًّا = (م ل ی) لمبا عرصہ	مَكِيْدُونَ = (ک ی د) سازش کا شکار لوگ
مَلِيْلِيْثٌ = (م ل ک) بادشاہ	مَكِيْنٌ = (م ک ن) معزز۔ معتبر

مُنْفِقُونَ = (ن ف ق) منافق مرد (جمع)	مُلِيمٌ = (ل و م) قابل ملامت
مُنْفِقِينَ = (ن ف ق) منافقین	مَمَاتٍ = (م و ت) موت
مَنَّا كِبَاهَا = (ن ک ب) کندھے اُس کے	مُمْتَرِينَ = (م ر ی) شک کرنے والے
مَنَامٌ = (ن و م) نیند	مُمَدَّدَةٌ = (م و د) لمبے۔ طویل
مُنْبَثًا = (ب ث ث) بکھرا ہوا	مَمْدُودٍ = (م و د) پھیلا ہوا
مُنْتَشِرٌ = (ن ش ر) پھیلا ہوا	مَمْرُودٌ = (م و ر) نرم ہموافرش
مُنْتَصِرٌ = (ن ص ر) بدلہ لینے والا	مُمَزَّقٌ = (م ز ق) منتشر کرنا
مُنْتَصِرِينَ = (ن ص ر) بدلہ لینے والے	مُمْسِكٌ = (م س ک) روکنے والا تھامنے والا
مُنْتَظِرُونَ = (ن ظ ر) انتظار کرنے والے	مُمْسِكَةٌ = (م س ک) روکنے والیاں
مُنْتَظِرِينَ = (ن ظ ر) انتظار کرنے والے	مُمَطَّرُنَا = (م ط ر) بارش برسانے والا ہم پر
مُنْتَقِمُونَ = (ن ق م) بدلہ لینے والے	مَمْلُوكًا = (م ل ک) غلام
مُنْتَهَى = (ن و ی) انتہا	مَمْنُوعَةٌ = (م ن ع) منع کی ہوئی
مُنْتَهُونَ = (ن و ی) باز آنے والے	مَمْنُونٌ = (م ن ن) ختم ہونے والی
مَنْثُورًا = (ن ث ر) بکھرا ہوا	مَنْوَةٌ = (م ن ی) منات۔ ایک بت کا نام
مَنْجُولٌ = (ن ج و) ہم نجات دینے	مُنَادٍ = (ن د ی) پکارنے والا
والے تجھے	مُنَادِيًا = (ن د ی) پکارنے
مُنْحِقَةٌ = (خ ن ق) گلا گھونٹنے سے مرنے	مَنْزِلٌ = (ن ز ل) منزلیں
والی	مَنْسِلٌ = (ن س ک) قربانی۔ حج کی رسوم
مُنْبِرٌ = (ن ذ ر) ڈرانے والا	مَنْاصٍ = (ن و ص) پسپائی۔ نجات
مُنْبِرُونَ = (ن ذ ر) ڈرانے والے	مَنْعٌ = (م ن ع) سخت روکنے والا
مُنْبِرِينَ = (ن ذ ر) ڈرانے والے	مَنْفَعٌ = (ن ف ع) فائدے
مُنزلاً = (ن ز ل) اترنے کی جگہ	مُنْفِقٌ = (ن ف ق) منافق عورتیں

مُنْقَعِرٌ = (ق ع ر) جز سے اکھڑا ہوئے
 مُنْقَلَبٌ = (ق ل ب) واپس لوٹنے کی جگہ
 مُنْقَلِبُونَ = (ق ل ب) واپس لوٹنے والے
 مُنْقُوصٌ = (ن ق ص) کم کیا ہوا
 مُنْكَرٌ = (ن ک ر) برائی۔ اجنبی
 مُنْكَرَةٌ = (ن ک ر) انکار کرنے والی
 مُنْكَرُونَ = (ن ک ر) انکاری۔ اجنبی لوگ
 مُنْكَرُونَ = (ن ک ر) اجنبی انجان لوگ
 مُنْوَعًا = (م ن ع) سخت بخیل
 مُنُونٌ = (م ن ن) گردش زمانہ۔ قسمت
 مُنْهَاجًا = (ن ہ ج) طریقہ۔ راہ عمل
 مُنْهَجِرٌ = (ہ م ر) موسلا دھار
 مُنِيبٌ = (ن و ب) رجوع کرنے والا
 مُنِيبِينَ = (ن و ب) رجوع کرنے والے
 مُنِيرٌ = (ن و ر) روشن
 مَوَآخِرٌ = (م خ ر) چیرنے والیاں پھاڑنے
 والیاں
 مَوَازِينٌ = (و ز ن) وزن۔ تول (جمع)
 مَوَاضِعُهُ = (و ض ع) جگہیں اس کی
 مَوَاطِنٌ = (و ط ن) جگہیں
 مَوَاقِعٌ = (و ق ع) غروب ہونے گرنے کی
 جگہیں

مُنْزَلٌ = (ن ز ل) نازل شدہ
 مُنْزِلُونَ = (ن ز ل) نازل کرنے والے
 مُنْزِلِينَ = (ن ز ل) نازل کرنے والے
 مُنْسَكًا = (ن س ک) قربانی
 مُنْسَأَتُهُ = (ن س ء) عصا اُس کا
 مُنْسِيًّا = (ن س ی) بھولی ہوئی
 مُنْشَرَةٌ = (ن ش ر) بھکرے دیکھری ہوئی
 مُنْشَرِينَ = (ن ش ر) دوبارہ اٹھائے جانے
 والے
 مُنْشُورٌ = (ن ش ر) کھلا ہوا۔ پھیلا ہوا
 مُنْشُتٌ = (ن ش ء) کھڑے کیے گئے یاد بان
 مُنْشُتُونَ = (ن ش ء) پیدا کرنے والے
 مُنْصُورًا = (ن ص ر) مدد کیا گیا
 مُنْصُورُونَ = (ن ص ر) مدد کیے گئے
 مُنْصُودٌ = (ن ص د) تہ بہ تہ
 مُنْطِقٌ = (ن ط ق) بولی۔ زبان
 مُنْظَرُونَ = (ن ظ ر) مہلت دیے گئے لوگ
 مُنْظَرِينَ = (ن ظ ر) مہلت دیے گئے لوگ
 مُنْفَطِرٌ = (ن ف ط ر) پھٹ جانے والا
 مُنْفِقِينَ = (ن ف ق) خرچ کرنے والے
 مُنْفِكِينَ = (ن ف ک) باز آنے والے
 مُنْفُوشٌ = (ن ف ش) رنگ برنگ

مَوْعُودٌ = (وعدہ) وعده کیا ہوا	مَوَاقِعُهَا = (وقوع) گرنے والے اُس
مَوْفُورًا = (وفر) پورا کیا ہوا	مَوَاقِيتُ = (وقت) اوقات
مَوْفُونٌ = (وفی) پورا کرنے والے	مَوَالِي = (ولی) وارث (جمع)
مَوْفُوهُمْ = (وفی) اُن کو پورا دینے والے	مَوْبِقًا = (وبق) ہلاکت کی جگہ
مَوْقِدَةٌ = (وقد) بھڑکائی ہوئی	مَوْتِي = (موت) مردے
مَوْقِنُونَ = (یقین) یقین کرنے والے	مَوْتَةٌ = (موت) موت
مَوْقِنِينَ = (یقین) یقین کرنے والے	مَوْتُوا = (موت) (ن) تم مر جاؤ
مَوْفُوتًا = (وقت) وقت پر	مَوْتَقًا = (وشق) پختہ عہد
مَوْفُودَةٌ = (وقد) چوٹ کھا کر مر ہوا	مَوَدَّةٌ = (ودد) دوستی
مَوْفُونَ = (ولی) کھڑے کیے گئے	مَوْرُودٌ = (ورد) وارد و داخل ہونے کی جگہ
مَوْنِي = (ولی) آقا۔ مددگار	مَوْرِيَتٌ = (وری) پتھر سے آگ نکالنے والے
مَوْلُودٌ = (ولد) بچہ	مَوْزُونٌ = (وزن) مناسب۔ اندازے سے
مَوْلِيَهَا = (ولی) اس کی طرف منہ کرنے والا	مَوْسِعٌ = (وسع) خوشحال
مَوْهِنٌ = (وهن) کمزور کرنے والا	مَوْسِعُونَ = (وسع) وسعت دینے والے
مَوءٌ دَةٌ = (وعد) زندہ دفن کی ہوئی	مَوْصِي = (وصی) وصیت کرنے والا
مَوْنَلًا = (وئل) پناہ کی جگہ	مَوْضُوعَةٌ = (وضع) رکھی ہوئی
مُهَاجِرٌ = (هجر) ہجرت کرنے والا	مَوْضُوءَةٌ = (وضن) سونے کے تاروں
مُهَجِرَاتٌ = (هجر) ہجرت کرنے والیاں	سے بنی ہوئی
مُهَجِرِينَ = (هجر) ہجرت کرنے والے	مَوْطِنًا = (وطء) پامال کرنے کی جگہ
مِهَادٌ = (مد) ٹھکانا	مَوْعِدٌ = (وعدہ) وعدہ۔ وقت
مِهَانًا = (هون) ذلیل	مَوْعِظَةٌ = (وعظ) نصیحت۔ وعظ
مِهْتَدٌ = (هدی) ہدایت یافتہ	

مَاتِيَا = (ءت ی) لایا ہوا۔ حتیٰ	مُهْتَدُونَ = (ہدی) ہدایت یافتہ (جمع)
مَاتَتَيْن = (م ے) دوسو (200)	مُهْتَدِي = (ہدی) ہدایت پانے والا
مُؤَجَّلًا = (ع ج ل) مقرر کیا ہوا	مُهْتَدِينَ = (ہدی) ہدایت پانے والے
مُؤَدِّنٌ = (ء ذ ن) پکارنے والا	مَهْجُورًا = (ہ ج ر) چھوڑا ہوا
مُؤَصَّدَةٌ = (و ص د) بند کی ہوئی	مَهْزُومٌ = (ہ ز م) شکست خوردہ۔ مغلوب
مَأْكُولٌ = (ء ک ل) کھایا ہوا	مُهْطِعِينَ = (ہ ط ع) دوڑ کر آنے والے
مَوْلَفَةٌ = (ء ل ف) مائل کیے ہوئے رکی ہوئی	مَهْلٌ = (م ہ ل) (2) تو مہلت دے
مُؤْمِنٌ = (ء م ن) ایمان والا	مَهْلِكٌ = (ہ ل ک) ہلاک ہونے کی جگہ یا
مُؤْمِنَةٌ = (ء م ن) ایمان والیاں	وقت
مُؤْمِنَةٌ = (ء م ن) ایمان والی	مُهْلِكٌ = (ہ ل ک) ہلاک کرنے والا
مُؤْمِنُونَ = (ء م ن) ایمان والے	مُهْلِكُوا = (ہ ل ک) ہلاک کرنے والے
مَأْمَنَةٌ = (ء م ن) امن رمان کی کی جگہ اُس کی	مُهْلِكِي = (ہ ل ک) ہلاک کرنے والے
مُؤْمِنِينَ = (ء م ن) دو ایمان والے	مُهْلِكِينَ = (ہ ل ک) ہلاک شدگان
مُؤْمِنِينَ = (ء م ن) ایمان والے	مَهْيَلًا = (ہ ی ل) بھر بھرا۔ ریزہ ریزہ
مَأْمُونٌ = (ء م ن) محفوظ۔ امان میں	مُهَيِّمٌ = (ہ م ن) نگہبان۔ محافظ
مَأْوَى = (ء و ی) ٹھکانہ	مُهَيِّنٌ = (ہ م ن) حقیر
مَيِّتٌ = (م و ت) مرنے والا	مُهَيِّنٌ = (ہ و ن) ذلیل کرنے والا
مَيِّتَةٌ = (م و ت) مردار	مَأْبٌ = (ء و ب) واپس لوٹنے کی جگہ
مَيِّتُونَ = (م و ت) مرنے والے	مَأْرَبٌ = (ء ر ب) کام فائدے
مَيِّتِينَ = (م و ت) مرنے والے	مُؤْتَفِكَةٌ = (ء ف ک) اُلٹائی ہوئی (جمع)
مِيثَاقٌ = (و ث ق) عہد۔ پختہ وعدہ	مُؤْتَفِكَةٌ = (ء ف ک) اُلٹائی ہوئی
مِيرَاثٌ = (و ر ث) وارثت۔ ملکیت	مُؤْتُونَ = (ء ت ی) دینے والے

اَس کی	مِيزَانٌ = (وزن) ترازو
نَشْرَاتٍ = (ن ش ر) پھیلانے والیاں	مَيْسِرٌ = (ی س ر) ہوا
نَشِطَاتٍ = (ن ش ط) کھول دینے والیاں	مَيْسِرَةٌ = (ی س ر) خوشحالی
نَاشِئَةٌ = (ن ش ء) اٹھنا	مِيعَادٌ = (و ع د) وعدہ
نَاصِبَةٌ = (ن ص ب) تھکا دینے والی۔ سخت	مِيقَاتٌ = (و ق ت) مقررہ وقت یا جگہ
تھکی ہوئی	مَيْلَةٌ = (م ی ل) اچانک حملہ
نَاصِحٌ = (ن ص ح) خیر خواہ۔ نصیحت کرنے	مِئْمَنَةٌ = (ی م ن) دائیں طرف
والا	ن
نَصِحُونٌ = (ن ص ح) خیر خواہ۔ نصیحت	نَاجٌ = (ن ج و) نجات پانے والا
کرنے والا	نَاجِيْتُمْ = (ن ج و) (3) تم نے سرگوشی کی
نَصِيْحِيْنَ = (ن ص ح) خیر خواہ۔ نصیحت کرنے	نَادِيٌّ = (ن د ی) (3) اُس نے پکارا
والا	نَادِيْتُهُ = (ن د ی) (3) پکارا اُس کو
نَاصِرٌ = (ن ص ر) مددگار	نَادِيْمِيْنَ = (ن د م) شرمندہ۔ نادم (جمع)
نَصِرِيْنَ = (ن ص ر) مدد کرنے والے	نَادُوا = (ن د ی) (3) انہوں نے پکارا
نَاصِيَةٌ = (ن ص و) پیشانی	نَادُوا = (ن د ی) (3) تم پکارو
نَاضِرَةٌ = (ن ض ر) تروتازہ	نَادِيْتُمْ = (ن د ی) (3) تم نے پکارا
نَاطِرَةٌ = (ن ظ ر) دیکھنے والی	نَادِيٌّ = (ن د و) مجلس۔ محفل
نَظَرِيْنَ = (ن ظ ر) دیکھنے والے	نَادِيْنَا = (ن د ی) (3) ہم نے پکارا
نَاعِمَةٌ = (ن ع م) خوشحال	نَارٌ = (ن و ر) آگ
نَافِقُوْا = (ن ف ق) (3) وہ منافق ہوئے	نَارِعَاتٍ = (ن ز ع) آگ کھینچنے والیاں ہوالے
نَافِلَةٌ = (ن ف ل) اضافی۔ مزید	نَاسٌ = (ن و س) لوگ
نَاقَةٌ = (ن و ق) اونٹنی	نَاسِكُوْهُ = (ن س ک) قربانی کرنے والے

کرتے ہیں	نَاقُورٍ = (ن ق ر) بگل۔ صُور
نَبَلُوا = (ب ل و) (ن) ہم آزماتے ہیں	نَكْبُونُ = (ن ک ب) اُلٹے۔ اوندھے۔ ٹیڑھے
نُبُوَّةٌ = (ن ب ء) نبوت	نَاكِسُوا = (ن ک س) اُلٹے۔ اوندھے۔
نُبُوْنَهُمْ = (ب و ء) (2) ہم ضرور ٹھکانا دیں	ٹيڑھے
گے اُن کو	نَاهُونَ = (ن ہ ی) روکنے والے منع کرنے والے
نَبِيٌّ = (ن ب ء) (2) تو آگاہ گاہ کر	نَائِمُونَ = (ن و م) سونے والے۔ خوابیدہ
نَبَاتٌ = (ن ب ء) (2) اُس (عورت) نے	نَبَاتٌ = (ن ب ت) نباتات۔ سبزہ
آگاہ کیا	نَبْتَعِيٌّ = (ب غ ی) (7) ہم چاہتے ہیں
نَبَاتُكُمَا = (ن ب ء) (2) میں نے تم	نَبْتَلِيهِ = (ب ل و) (7) ہم جانچنے والے اس کو
دونوں کو آگاہ کیا	نَبْتَهْلُ = (ب ہ ل) (7) ہم التجا کریں۔ ہم
نَبَانَا = (ن ب ء) (2) اس نے ہمیں آگاہ کیا	مہالہ کریں
نَبَانِيٌّ = (ن ب ء) (2) اس نے مجھے آگاہ کیا	نُبْدِلُ = (ب د ل) ہم بدل دیں گے
نَبِيٌّ = (ن ب ء) نبی	نُبْدِ = (ن ب ذ) (ض) پھینکا گیا۔ ڈالا گیا
نُبَيْتِنَهُ = (ب ی ت) (2) ہم ضرور رات کو	نُبْرَحُ = (ب ر ح) (ف) ہم نہیں گے
حملہ کریں گے	نُبْرَاهَا = (ب ر ء) (ف) ہم پیدا کریں اُس کو
نَبِيْنُ = (ب ی ن) (2) ہم واضح کریں	نُبَشِّرُ = (ب ش ر) (2) ہم خوشخبری دیتے ہیں
نَبِيُونُ = (ن ب ء) انبیاء	نُبْطِشُ = (ب ط ش) (ض) ہم پکڑتے ہیں
نَبْرَأُ = (ب ر ء) (4) ہم بری الذمہ رہیں	نُبْعُكُ = (ب ع ث) (ف) ہم اٹھائیں
ہوتے ہیں	بھیجیں گے
نَتَّبِعُ = (ت ب ع) (7) ہم پیروی کرتے ہیں	نُبْعُ = (ب غ ی) (ض) ہم چاہتے رہتلاش
نَتَّبِعُهُمْ = (ت ب ع) (1) ہم پیچھا کرتے	کرتے ہیں
ہیں اُن کا	نُبْعِيٌّ = (ب غ ی) (ض) ہم چاہتے رہتلاش

نَجَاةٌ = (ن ج و) نجات	نَتَبَوُّا = (ب و ع) ہم آباد ہوتے ہیں
نُجْزِي = (ج ز ی) ہم بدلہ سزا دیتے ہیں	نَتَجَاوَزُ = (ج و ز) ہم درگزر کرتے ہیں
نُجِبُ = (ج و ب) ہم قبول کریں گے	نَتَّخِذُ = (ع خ ز) ہم لیں / پکڑیں گے
نُجِدُ = (و ج د) ہم پاتے ہیں	نَتَّخِذُنَّ = (ع خ ز) ہم ضرور لیں / پکڑیں گے
نُجِدِينَ = (ن ج د) دوراستے	نَتَّخِطُّفُ = (خ ط ف) ہم اچک لیے جائیں گے
نُجْزِي = (ج ز ی) ہم بدلہ دیتے ہیں	نَتَرَيُّصُ = (ر ب ص) ہم انتظار کرتے ہیں
نُجْزِينَ = (ج ز ی) ہم ضرور بدلہ دیں گے	نَتْرُكُ = (ت ر ك) ہم چھوڑ دیتے ہیں
نُجْعَلُ = (ج ع ل) ہم کر دیں	نَتَقَبَّلُ = (ق ب ل) ہم قبول کرتے ہیں
نُجْمَعُ = (ج م ع) ہم جمع کر دیں	نَتَكَلِّمُ = (ك ل م) ہم کلام کریں
نُجِنَّا = (ن ج و) تو نجات دے ہم کو	نَتَلَوُّا = (ت ل و) ہم پڑھتے ہیں
نُجِنِي = (ن ج و) تو نجات دے مجھ کو	نَتَنَزِّلُ = (ن ز ل) ہم اتارتے ہیں
نُجْوِي = (ن ج و) سرگوشی - مشورہ	نَتَوْفِيئِكَ = (و ف ي) ہم ضرور وفات دیں گے تجھے
نُجَوْتُ = (ن ج و) تو نے نجات پائی	نَتَوَكَّلُ = (و ك ل) ہم توکل کرتے ہیں
نُجُومٌ = (ن ج م) ستارے	نُثِبْتُ = (ث ب ت) ہم ثابت قدم رکھتے ہیں
نُجِي = (ن ج و) اُسے نجات دی گئی	نَجَا = (ن ج و) اس نے نجات پائی
نُجِيًّا = (ن ج و) مشورہ کرنا	نَجَا = (ن ج و) اس نے نجات دی
نُجِينَا = (ن ج و) ہم نے نجات دی	
نُحَاسٌ = (ن ح س) دھواں	
نُحْرِقْنَاهُ = (ح ر ق) ہم ضرور جلا لیں گے اُسے	

ہیں	نَحْسَابٌ = (ن ح س) نخوس
نَحْسِيفٌ = (خ س ف) (ض) ہم دھنسا دیتے ہیں	نَحْسُرٌ = (ح ش ر) (ن) ہم جمع کریں گے
نَحْشِي = (خ ش ي) (س) ہم ڈرتے ہیں	نَحْسُرْ لَهُمْ = (ح ش ر) (ن) ہم ضرور جمع کریں گے اُن کو
نُحْفِي = (خ ف ي) (ف) ہم چھپاتے ہیں	نُحْضِرْ لَهُمْ = (ح ض ر) (1) ہم ضرور حاضر کریں گے اُن کو
نُخْلَةٌ = (ن خ ل) کھجور کا درخت	نَحْفَظُ = (ح ف ظ) (س) ہم حفاظت کرتے ہیں
نُخْلَفُهُ = (خ ل ف) (1) ہم خلاف کرتے ہیں	نُخْلَةٌ = (ن ح ل) خوشی سے
نَخْلُقُ = (خ ل ق) (ن) ہم پیدا کرتے ہیں	نُحْيِي = (ح ي ي) (1) ہم زندہ کرتے ہیں
نَخْوَضُ = (خ و ض) (ن) ہم گپ شپ کرتے ہیں	نُحْيَا = (ح ي ي) (س) ہم جیتے ہیں
نُخَوِّفُ = (خ و ف) (2) ہم ڈراتے ہیں	نُحْيِي مَيَّ = (ح ي ي) (1) ہم زندہ کرتے ہیں
نُخَيْلٌ = (ن خ ل) کھجور کے درخت	نُحْيِيْنَهُ = (ح ي ي) (1) ہم ضرور زندگی دیں گے اُس
نُدَامَةٌ = (ن د م) ندامت۔ شرمندگی	نُخَافُ = (خ و ف) (ف) ہم ڈرتے ہیں
نُدَاوِلُهَا = (د و ل) (3) ہم پھرتے ہیں اس کو	نُخَيِّمُ = (خ ت م) (ض) ہم مہر لگاتے ہیں
نِدَاءٌ = (ن د ي) آواز۔ پکار	نُخْرَةٌ = (ن خ ر) بوسیدہ ہڈیاں
نُدْخُلُ = (د خ ل) (ن) ہم داخل ہوتے ہیں	نُخْرَجُ = (خ ر ج) (1) ہم نکالتے ہیں
نُدْخِلُ = (د خ ل) ہم داخل کرتے ہیں	نُخْرَجَنَّ = (خ ر ج) (ن) ہم ضرور نکلیں گے
نُدْخِلْنَهُمْ = (د خ ل) (1) ہم ضرور داخل کریں گے اُن کو	نُخْرَجَنَّ = (خ ر ج) (1) ہم ضرور نکالیں گے
نُدْرِي = (د ر ي) (ن) ہم جانتے ہیں	نُخْزِي = (خ ز ي) (س) ہم ذلیل ہوتے
نُدْعُ = (د ع و) (ن) ہم پکارتے ہیں۔ ہم	

نُورُوقُ = (رزق) (ن) ہم رزق دیتے ہیں
نُورِيسِلُ = (رسل) (1) ہم بھیجتے ہیں
نُورِيسَلْنُ = (رسل) (1) ہم ضرور بھیجیں گے
نُورِفُعُ = (رفع) (ف) ہم بلند کرتے ہیں
نُورِئِی = (رئی) (1) ہم دکھاتے ہیں
نُورِئِی = (رئی) (1) ہم دکھائیں
نُورِئِدُ = (رود) (1) ہم چاہتے ہیں
نُورِئِنُّ = (رئی) (1) ہم ضرور دکھائیں گے
نُورِئَاعَةٌ = (نزع) (ن) اُدھیرنے والی
نُورِئِذُ = (زی) (د) ہم زیادہ کر دیں گے
نُورِئِذَادُ = (زی) (د) ہم زیادہ دیں گے
نُورِئِزَلُ = (نزل) (2) اُس نے نازل کیا
نُورِئِزَلُ = (نزل) (2) وہ نازل کیا گیا
نُورِئِزَلْتُ = (نزل) (2) وہ نازل کی گئی
نُورِئِزَلَةٌ = (نزل) (2) ایک دفعہ
نُورِئِزَلْنَا = (نزل) (2) ہم نے نازل کیا
نُورِئِزَلِدُ = (زی) (د) ہم زیادہ کرتے ہیں
نُورِئِسَارِعُ = (سرع) ہم جلدی کرتے ہیں
نُورِئِسَاءُ = (ن س و) عورتیں
نُورِئِسَبِیحُ = (س ب ح) (2) ہم تسبیح کرتے ہیں
نُورِئِسَبِیْقُ = (س ب ق) (7) ہم آگے بڑھیں گے

بلا تے ہیں
نُورِئِعُوا = (رع) ہم پکارتے ہیں ہم بلا تے ہیں
نُورِئِئِکُمْ = (دل ل) (ن) ہم بتاتے ہیں تم کو
نُورِئِزُ = (وزر) (س) ہم چھوڑتے ہیں
نُورِئِفَهُ = (ذوق) ہم چکھاتے ہیں اُس کو
نُورِئِکُرُ = (ذکر) (ن) ہم ذکر کرتے ہیں
نُورِئِذَلُ = (ذل ل) (ض) ہم ذلیل ہوتے ہیں
نُورِئِزُ = (ن زر) نذریں۔ نیازیں
نُورِئِهَبَّنُ = (ذہب) (ف) ہم ضرور جائیں
نُورِئِئِزُ = (ن زر) ڈرانے والا
نُورِئِئِئِقُ = (ذوق) (1) ہم چکھاتے ہیں
نُورِئِئِئِقْنُ = (ذوق) (1) ہم ضرور چکھائیں گے
نُورِئِئِی = (رئی) (ف) ہم دیکھتے ہیں
نُورِئِئِوِدُ = (رود) (3) ہم ورغلاتے ہیں
نُورِئِئِئِلْتُ = (رب ب) (2) ہم پرورش کرتے ہیں تیری
نُورِئِئِئِئُ = (ورث) (ض) ہم وارث بنتے ہیں
نُورِئِئِئِئِئِکُمْ = (رج م) (ن) ہم ضرور سنگسار کریں گے تم کو
نُورِئِئِئِئِئِوُ = (رج و) (ن) ہم امید رکھتے ہیں
نُورِئِئِئِئِئِئُ = (رود) (ن) ہم لوٹائے جاتے ہیں
نُورِئِئِئِئِئِئُ = (رود) (ن) ہم لوٹاتے ہیں

ہیں	نَسْتَحْوِذُ = (ح و ذ) ہم غالب آئے۔
ہم نے قابو کیا	نَسْتَحِي = (ح ی ی) ہم شرم کرتے ہیں
ہم فرماں بردار ہو جائیں	نَسْتَذِرْ جُھُمُ (درج) ہم آہستہ آہستہ
نَسْمَعُ = (س م ع) ہم سنتے ہیں	پکارتے ہیں اُن کو
نَسْمُو = (س م) ہم اُسے داغ	نَسْتَعِينُ = (ع و ن) ہم مدد مانگتے ہیں
لگائیں گے	نَسْتَسْبِخُ = (ن س خ) ہم لکھتے ہیں
نَسُوا = (ن س ی) انہوں نے بھلا دیا	نَسْجُدُ = (س ج د) ہم سجدہ کرتے ہیں
نَسُوۃُ = (ن س و) عورتیں	نَسْتَحْتَبِهَا = (ن س خ) تحریر اس کی
نَسُوْقُ = (س و ق) ہم چلاتے ہیں	نَسْخَرُوْ = (س خ ر) ہم مذاق کرتے ہیں
نَسُوۃُ = (ن س ی) (2) انہوں نے بھلا دیا	نُسِفَتْ = (ن س ف) (ض) وہ اڑائے
اُس کو	جائیں گے۔ ریزہ ریزہ ہوں گے
نَسُوِيْ = (س و ی) ہم برابر کرتے ہیں	نَسْفَعًا = (س ف ع) ہم ضرور
نَسِيْرُ = (س ی ر) ہم چلاتے ہیں	گھسیٹیں گے
نَسِيۡءٌ = (ن س ء) آگے پیچھے کر دینا بھانا	نَسِقَطُ = (س ق ط) (1) ہم گرا دیں
نَشَاءُ = (ش ی ء) ہم چاہتے ہیں	نَسْقِيْ = (س ق ی) ہم پلاتے ہیں
نَشْتَرِيْ = (ش ر ی) ہم خریدتے ہیں	نَسْقِيْ = (س ق ی) (1) ہم پلاتے ہیں
ہم حاصل کرتے ہیں	نُسْكِنَنَّكُمْ = (س ك ن) ہم ضرور
نَشُدُّ = (ش د د) ہم باندھتے ہیں	تمہیں بسائیں گے
نَشْرَتٌ = (ن ش ر) وہ کھولے	نَسْلُخُ = (س ل خ) (ن-ف) ہم کھینچ لیتے
پھیلائے جائیں گے	ہیں
نَشْرُحُ = (ش ر ح) ہم کھولتے ہیں	نَسْلُكُهُ = (س ل ك) ہم داخل کرتے
نَشْرِكُ = (ش ر ك) ہم شرک کرتے	

نَصِيرٌ = (ن ص ر) مددگار	ہیں
نَضَّاخَتَيْنِ = (ن ض خ) دو جوش مارتے	نُشُورًا = (ن ش ر) زندہ ہونا۔ منتشر ہونا
(پانی کے چٹھے)	نُشُورًا = (ن ش ز) زیادتی سرکشی
نَضْرِبُ = (ض ر ب) (ض) ہم مارتے ہیں	نَشْهَدُ = (ش ہ د) (س) ہم گواہی دیتے ہیں
نَضْرَةٌ = (ن ض ر) تازگی	نَشَأُ = (ش ی ء) (ف س) ہم چاہیں
نَضَطْرَهُمْ = (ض ر ر) (7) ہم مجبور کریں	نَشَأَةٌ = (ن ش ء) پیداؤں
گے اُن کو	نُصِبْتُ = (ن ص ب) (ض) جمادی گئی
نَضَعُ = (ض ع) (ف) ہم رکھتے ہیں	نُصْبِرُ = (ص ب ر) (ض) ہم صبر کریں
نَضِيدٌ = (ن ض د) تہ بہ تہ	نُصْبِرُونَ = (ص ب ر) (ض) ہم ضرور کریں گے
نُضِيعٌ = (ض ی ع) (1) ہم ضائع کرتے ہیں	نُضِجِي = (ن ص ح) میری نصیحت
نَطِيعٌ = (ط ب ع) (ف) ہم ہر لگاتے ہیں	نَصَّدَقْنُ = (ص د ق) (4) ہم ضرور صدقہ
نُطِعِمُ = (ط ع م) (ف) ہم کھلاتے ہیں	کریں گے
نُطْفَةٌ = (ن ط ف) نطفہ۔ مٹی۔ بوند	نَصْرًا نِيًّا = (ن ص ر) عیسائی
نَطْمَسَ = (ط م س) (ض) ہم مٹادیں	نُصْرَفُ = (ص ر ف) (ض) ہم پھیر دیں
نَطْمَعُ = (ط م ع) (س) ہم توقع کرتے ہیں	نُصْرَفُ = (ص ر ف) (2) ہم پھیرتے ہیں
نَطْوِي = (ط و ی) (ض) ہم لپیٹیں	نُضِلُّهُ = (ص ل ی) (1) داخل کریں گے
نَطِيحَةٌ = (ن ط ح) سینگ لگنے سے مرا ہوا	اُسے
نُطِيعُ = (ط و ع) (1) ہم اطاعت کرتے ہیں	نُضِلِّيهِ = (ص ل ی) (1) ہم داخل کریں
نُظْرَةٌ = (ن ظ ر) ایک نگاہ۔ مہلت	گے اُسے
نُظْرَةٌ = (ن ظ ر) مہلت	نُصُوْحًا = (ن ص ح) خالص۔ صاف
نَظْلٌ = (ظ ل ل) (س) ہم رہتے ہیں	نُصِيبُ = (ن ص ب) حصہ
نَظْنٌ = (ظ ن ن) (ن) ہم گمان کرتے ہیں	نُصِيبُ = (ص و ب) ہم پہنچاتے ہیں

نُعِمِّرُ = (ع م ر) (2) ہم لمبی عمر دیتے ہیں
 نُعْمَلُ = (ع م ل) (س) ہم کام کرتے ہیں
 نُعْمَةٌ = (ن ع م) (2) اس نے اُسے نعمت دی
 نُعُوذُ = (ع و ذ) (ن) ہم واپس لوٹیں گے
 نُعِيذُ = (ع و ذ) (1) ہم دوبارہ پیدا کریں گے
 نُعِيمٌ = (ن ع م) نعمت
 نُغَادِرُ = (غ و ر) (3) ہم چھوڑتے
 نُغْرِقُهُمْ = (غ ر ق) (1) ہم غرق کر دیں اُن کو
 نُغْرِبْنَكَ = (غ ر ی) (1) ہم ضرور تجھے
 مسلط کریں گے
 نُغْفِرُ = (غ ف ر) (ض) ہم بخش دیں
 نُغْثُ = (ن ف ث) پھونکنے والیاں
 نُغَادٍ = (ن ف د) ختم ہونا۔ کم ہونا
 يُغَاقُ = (ن ف ق) نفاق۔ منافقت
 نُغْفِتْنَهُمْ = (ف ت ن) (ن) ہم آزمائیں
 اُن کو
 نُغْفَةٌ = (ن ف ح) جھونکا۔ جھنکا
 نُغْفُخُ = (ن ف خ) (ن) پھونکا گیا
 نُغْرُغٌ = (ف ر غ) (ن) ہم فارغ ہوتے ہیں
 نُغْرِقُ = (ف ر ق) (2) ہم فرق کرتے ہیں
 نُفْسِدُ = (ف س د) (1) ہم فساد کریں
 نُفْصِلُ = (ف ص ل) (2) ہم کھول کر بیان

نِعَاجِبُ = (ن ع ج) بھڑیں اس کی
 نُعَاسٌ = (ن ع س) اوگھ
 نُعْبُدُ = (ع ب د) (ن) ہم عبادت کرتے ہیں
 نُعْجَةٌ = (ن ع ج) بھیڑ۔ ذُنبی
 نُعْجِزُ = (ع ج ز) (1) ہم عاجز کر دیں
 نُعْذُ = (ع و ذ) (ن) ہم پھر وہی کریں
 نُعْذُ = (ع و ذ) (ن) ہم گنتے ہیں
 نُعِدُّهُمْ = (ع و د) (ض) ہم وعدہ کرتے
 ہیں اُن سے
 نُعِدُّهُمْ = (ع و د) ہم گنتے ہیں اُن کو
 نُعَذِّبُ = (ع ذ ب) (2) ہم عذاب دیتے ہیں
 نُعْفُ = (ع ف و) (ن) ہم معاف کرتے ہیں
 نُعْقِلُ = (ع ق ل) (ض) ہم سمجھتے ہیں
 نُعَلِّمُ = (ع ل م) (س) ہم جانتے ہیں
 نُعَلِّمَةٌ = (ع ل م) (2) ہم سکھاتے ہیں اُس کو
 نُعْلِنُ = (ع ل ن) (1) ہم اعلان رطاہر
 کرتے ہیں
 نُعْلِيكَ = (ن ع ل) اپنے دونوں جو تے
 نِعْمًا = (ن ع م) اچھا۔ بہتر
 نُعْمَاءٌ = (ن ع م) نعمتیں (اسم جمع)
 نُعْمَةٌ = (ن ع م) نعمت
 نُعْمَةٌ = (ن ع م) نعمت

نَقْدِفُ = (ق ذ ف) (ن) ہم پھینکتے ہیں	کرتے ہیں
نُقْرُ = (ق ر ر) (1) ہم ٹھہراتے ہیں	نَفِضِلُ = (ف ض ل) (2) ہم فضیلت
نُقْرَاءُ لَثُ = (ق ر ء) (1) ہم پڑھائیں گے	بڑائی دیتے ہیں
نُقْرَاءُ هُ = (ق ر ء) (ف) ہم پڑھائیں گے	نَفْعَلُ = (ف ع ل) (ف) ہم کام کرتے
اُس کو	ہیں
نَقْصُ = (ق ص ص) (ن) ہم بیان کرتے ہیں	نَفَقْتُهُمْ = (ن ف ق) اُن کا خرچ کرنا
نَقْصُصُ = (ق ص ص) ہم بیان کریں	خیرات اُن کی
نَقْصِنَنَّ = (ق ص ص) (ن) ہم ضرور بیان کریں گے	نَفَقَةٌ = (ن ف ق) خرچ خرچہ
نَقْعُدُ = (ق ع د) (ن) ہم بیٹھتے ہیں	نَفَقْدُ = (ف ق د) (ض) ہم سے گم ہوا ہے
نُقَلِّبُ = (ق ل ب) (2) ہم پھیرتے ہیں	نَفَقَهُ = (ف ق ه) (س) ہم سمجھتے ہیں
نُقُولُ = (ق و ل) (ن) ہم کہتے ہیں	نُقُوْرُ = (ن ف ر) نفرت۔ دوری
نُقُوْلُنَّ = (ق و ل) ہم ضرور کہتے ہیں	نُقُوْسُ = (ن ف س) جانیں نفس کی جمع
نُقِيْبًا = (ن ق ب) سردار	نَفِيْرًا = (ن ف ر) نفری افراد
نُقِيْرًا = (ن ق ر) کھجور کی گھٹلی کا چھلکا	نُقَاتِلُ = (ق ت ل) (3) ہم لڑیں
نُقِيْضُ = (ق ي ض) (2) ہم مسلط کرتے ہیں	نَقْبُوْا = (ن ق ب) (2) وہ گھومے۔ انہوں
نُقِيْمٌ = (ق و م) (1) ہم قائم کرتے ہیں	نے سوراخ کیے
نَلْتُ = (ك و ن) (ن) ہم تھے	نَقَبْتِيسُ = (ق ب س) (7) ہم روشنی
نِكَاحُ = (ن ك ح) نکاح	فائدہ حاصل کریں
نِكَالُ = (ن ك ل) عبرت۔ عبرت ناک سزا	نَقْتِلُ = (ق ت ل) (2) ہم قتل کریں گے
نَكْتُبُ (ك ت ب) (ن) ہم لکھتے ہیں	نَقْدِرُ = (ق و ر) (ض۔ ن۔ س) ہم قادر
	ہوں گے۔ ہم تنگی کریں گے
	نَقْلِسُ = (ق و س) (2) ہم پاکی بیان کرتے ہیں

نَلَعْنَهُمْ = (ل ع ن) (ف) ہم لعنت کرتے ہیں اُن پر
 نَلْقَى = (ل ق ی) (1) ہم ڈالتے ہیں
 نَمَارِقُ = (ن م ر ق) تکیے۔ گدے۔ بچھونے
 نَمَتَعَهُمْ = (م ت ع) (2) ہم اُن کو فائدہ دیتے ہیں
 نَمُدُّ = (م د و) (1) ہم بڑھاتے رکھتے ہیں
 نَمُدُّ = (م د و) (1) ہم کھینچتے / مدد دیتے ہیں
 نَمَكِّنَ = (م ک ن) (2) ہم جگہ / اقتدار دیتے ہیں
 نَمَلَةٌ = (ن م ل) چوہنی
 نَمَلَى = (م ل و) (1) ہم ڈھیل / مہلت دیتے ہیں
 نَمَنَّ = (م ن ن) (ن) ہم احسان کرتے ہیں
 نَمْنَعُكُمْ = (م ن ع) (ف) ہم نے تمہیں منع کیا / بچالیا
 نَمُوْتُ = (م و ت) (ن) ہم مرتے ہیں
 نَمِيْتُ = (م و ت) (1) ہم مارتے ہیں
 نَمِيرُ = (م ی ر) ہم غلہ اناج لائیں گے
 نَمِيمٌ = (ن م م) چغلی
 نَنْبُكُمُ = (ن ب ء) (2) ہم تمہیں آگاہ کریں گے

نَكْتَلُ = (ک ی ل) ہم پیمانہ بھر کر لیتے ہیں
 نَكْتُمُ = (ک ت م) (ن) ہم چھپاتے ہیں
 نَكْذِبُ = (ک ز ب) (2) ہم جھٹلاتے ہیں
 نَكْرُوْا = (ن ک ر) (2) تم شکل بدل دو
 نَكْسُوْا = (ن ک س) (ن) وہ اوندھے ڈالے گئے وہ جھکائے گئے
 نَكْسُوْهَا = (ک س و) (ن) ہم پہناتے ہیں اُسے
 نَكْفُرُ = (ک ف ر) (ن) ہم انکار کرتے ہیں
 نَكْفُرُ = (ک ف ر) (2) ہم دور کرتے ہیں
 نَكْفِرْنَ = (ک ف ر) (2) ہم ضرور دور کریں گے
 نَكْلِفُ = (ک ل ف) (2) ہم بوجھ ڈالتے ہیں
 نَكْلِمُ = (ک ل م) (2) ہم کلام کرتے ہیں
 نَكْنُ = (ک و ن) (ن) ہم ہوں
 نَكُوْنُ = (ک و ن) (ن) ہم ہوں
 نَكُوْنَنَّ = (ک و ن) (ن) ہم ضرور ہوں گے
 نَكِيْرُ = (ن ک ر) عذاب انکار میرا
 نَلْزِمُكُمْوَهَا = (ل ز م) (1) ہم اُسے تم پر مسلط کر دیں گے
 نَلْعَبُ = (ل ع ب) (س) ہم کھیلتے ہیں

کریں گے تمہاری	نَنْبِئَنَّ = (ن ب ء) ہم ضرور آگاہ کریں گے
نَنْظُرُ = (ن ظ ر) ہم دیکھتے ہیں	نُنَجِّ = (ن ج و) ہم نجات دیتے ہیں
نَنْقُصُ = (ن ق ص) ہم کم کرتے ہیں	نُنَجِّجِي = (ن ج و) ہم نجات دیتے ہیں
نُنْكَسُهُ = (ن ك س) ہم اُتار پڑا دیتے ہیں	نُنَجِّجِي = (ن ج و) ہم نجات دیتے ہیں
نَنْهَكَ = (ن ه ي) ہم منع کرتے ہیں تجھے	نُنَجِّيْنَهُ = (ن ج و) ہم ضرور نجات دیں گے اُسے
نَوَاصِي = (ن ص و) پیشانیاں	نُنزِعَنَّ = (ن ز ع) ہم ضرور کھینچ لیں گے
نُوحِي = (و ح ي) ہم وحی کرتے ہیں	نُنزِلُ = (ن ز ل) ہم نازل کرتے ہیں
نُودُوا = (ن و ي) اُن کو پکارا گیا	نُنْسِكُمْ = (ن س ي) ہم بھلاتے ہیں تم کو
نُودِي = (ن و ي) اُسے پکارا گیا	نُنْسَخُ = (ن س خ) ہم منسوخ کرتے ہیں
نُوفٍ = (و ف ي) ہم پورا دیتے ہیں	نُنْسِفَنَّهُ = (ن س ف) ہم ضرور بکھریں گے
نُولِهَ = (و ل ل) ہم پھرتے ہیں اُس کو	نُنْسِيهَا = (ن س ي) ہم نظر انداز کرتے ہیں اُسے
نُولِي = (و ل ي) ہم مسلط کرتے ہیں	نُنْشِرُهَا = (ن ش ز) ہم جوڑتے ہیں اُس کو
نُولِيَنَّكَ = (و ل ل) ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے	نُنْشِكُمْ = (ن ش ء) ہم پیدا کریں تم کو
نُهِي = (ن ه ي) عقلیں	نُنْصُرُ = (ن ص ر) ہم مدد کرتے ہیں
نَهَارُ = (ن ه ر) دن	نُنْصُرَنَّكُمْ = (ن ص ر) ہم ضرور مدد
نُهِي = (ن ه ي) اُس نے روکا	
نَهْتَدِي = (ه و ي) ہم ہدایت پاتے	
نَهْتَدِي = (ه و ي) ہم ہدایت دیتے ہیں	
نَهْتَدِيْنَهُمْ = (ه و ي) ہم ضرور ہدایت	

نُوْمِنَ = (ءم ن) (1) ہم ایمان لاتے ہیں
 نُوْمِنَنَّ = (ءم ن) (1) ہم ضرور ایمان لائیں
 گے
 نَيْسِرُ = (ءس ر) (2) ہم آسان کرتے ہیں

و

وَ اِبِلٌ = (وب ل) بارش
 وَ اَثَقَكُمُ = (و ث ق) (3) اُس نے تم سے
 معاہدہ کیا
 وَ اِحْفَافٌ = (و ح ف) دھڑکنے والی۔ خوفزدہ
 وَ اِحْدٌ = (و ح د) ایک
 وَ اِحْدَةٌ = (و ح د) ایک (مونث)
 وَ اِدٌ = (و د ی) وادی۔ میدان
 وَ اِدِيًا = (و د ی) وادی۔ میدان
 وَ اِرِيثٌ = (و ر ث) وارث
 وَ اِرْتُونٌ = (و ر ث) وارث (جمع)
 وَ اِرْتِيْنٌ = (و ر ث) وارث (جمع)
 وَ اِرْدُونٌ = (و ر د) داخل ہونے والے
 وَ اِرْدٌ = (و ر د) داخل ہونے والا
 وَ اِرْزَةٌ = (و ز ر) بوجھ اٹھانے والی
 وَ اَمِيعٌ = (و س ع) وسعت والا
 وَ اَمِيعَةٌ = (و س ع) وسعت والی۔ وسیع
 وَ اَصِيبٌ = (و ص ب) مستقل۔ لازوال ہمیشہ

دیں گے اُن کو
 نُهْلِكُ = (ه ل ک) (1) ہم ہلاک کرتے ہیں
 نُهْلِكَنَّ = (ه ل ک) (1) ہم ضرور ہلاک
 کریں گے

نَهْوًا = (ن ه ی) (ف) انہوں نے منع کیا

نَهْوًا = (ن ه ی) اُن کو منع کیا گیا

نُهَيْتُ = (ن ه ی) مجھے منع کیا گیا

نَاءٌ = (ن ع ی) (ف) وہ مڑا دور ہو گیا

نَاَتٍ = (ء ت ی) (س) ہم لاتے ہیں ہم

آتے ہیں

نَاَتِيٌّ = (ء ت ی) (ض) ہم لاتے ہیں ہم

آتے ہیں

نُوْتِيٌّ = (ء ت ی) (1) ہمیں دیا جائے

نُوْتِيْهٌ = (ء ت ی) (1) ہم دیتے ہیں اُس کو

نَاَتِيْنٌ = (ء ت ی) (ض) ہم ضرور آئیں

لائیں گے

نُوْتِيٌّ = (ء ت ی) (1) ہم دیتے ہیں

نُوْتِرٌ = (ء ث ر) (1) ہم تجھے ترجیح دیں گے

نَاْخِذٌ = (ء خ ذ) (ن) ہم پکڑتے ہیں

نُوْخِرَةٌ = (ء خ ر) (2) ہم اُسے موخر

پیچھے کرتے ہیں

نَاْكُلٌ = (ء ك ل) (ن) ہم کھائیں

وَجُوَّةٌ = (وجہ) چہرے	وَأَعْدَانًا = (وع) (3) ہم نے وعدہ کیا
وَجَهْتٌ = (وجہ) (2) میں نے رُخ کیا	وَأَعْيُنٌ = (وعظ) وعظ و نصیحت کرنے والے
وَجْهَةٌ = (وجہ) طرف۔ رُخ	وَأَعْيَةٌ = (وع ی) یاد رکھنے والی۔ ذہن نشین
وَجِيهًا = (وجہ) وجاہت بروقار والا	کرنے والی
وَحُوشٌ = (وحش) وحشی جانور۔ (جمع)	وَأَقِي = (وق ی) بچانے والا
وَحِيدًا = (وح د) اکیلا۔ تنہا	وَأَقِيعٌ = (وق ع) واقع ہونے والا۔ گرنے والا
وَدَّعَلَفٌ = (ودع) (2) اس نے چھوڑا تمھ کو	وَأَقِيعَةٌ = (وق ع) واقع ہونے والی
وَأَذْكَرٌ = (ذکر ر) (7) اور اُس نے یاد کیا	وَالٍ = (ول ی) مددگار۔ محافظ دوست
وَدُوْدٌ = (ودد) بہت محبت کرنے والا	وَالِدٌ = (ول د) باپ
وَدُوْدٌ = (ودد) بہت محبت کرنے والا	وَالِدَاتٌ = (ول د) مائیں
وَرَاءٌ = (وری) پیچھے۔ آگے	وَالِدَانٌ = (ول د) والدین
وَرْدَةٌ = (ورد) سرخ	وَالِدَةٌ = (ول د) والدہ۔ ماں
وَرَقَةٌ = (ورق) ورق۔ پتہ۔ چاندی کا سکہ	وَالِدَيْنِ = (ول د) والدین
وَرِيحٌ = (وری) (3) وہ چھپایا گیا	وَأَهِيئَةٌ = (وہ ی) بھٹی ہوئی۔ بوسیدہ کمزور
وَرِيْدٌ = (ورد) رگ۔ شرگ	وَبَالَ = (وب ل) وبال سختی
وَرِيْرًا = (وزر) دزیر۔ مددگار	وَبِيْلًا = (وب ل) سخت۔ بھاری
وَسْطَى = (وس ط) درمیانی۔ بہترین	وَوَيْتِنٌ = (وت ن) شرگ۔ دل کی رگ
وَسْوَأَسٍ = (وس وس) دوسو ڈالنے والا	وَوَاقٍ = (ووق ق) باندھا۔
وَسْوَسَ = (وس وس) (10) اسی نے دوسو	وَوَلَقِي = (ووق ق) مضبوط
ڈالا	وَوَجَدٌ = (وج د) (ض) وہ پایا گیا
وَسِيْلَةٌ = (وس ل) قرب۔ تقرب	وَوَجَلَةٌ = (وج ل) ڈرنے والی۔ ڈرنے والے
وَضَى = (وس ی) (2) اس نے تاکید کی	وَوَجَلُونَ = (وج ل) ڈرنے والے

وَصَلْنَا = (وصل ل) (2) ہم نے جوڑا پہنچایا	وَكَيْلٌ = (وکل ل) کارساز
وَصِيَّةٌ = (وص ی) وصیت۔ تاکید	وَلٌ = (ول ی) (2) تو پھیر۔ تو موڑ
وَصِيدٌ = (وص د) دہلیز۔ دہانہ	وَلَّى = (ول ی) (2) وہ پھرا۔ اُس نے منہ
وَصِيْلَةٌ = (وصل ل) قبیلہ۔ خاندان	مُوْزَا
وَصِيْنًا = (وص ی) (2) ہم نے تاکید کی	وَكَأَيَّةٌ = (ول ی) اختیار۔ مدد
وَضِعٌ = (وص ع) (ف) مقرر کیا گیا	وَلْدَانٌ = (ول د) لڑکے
وَغَاءٌ = (وع ی) تھیلے۔ بوریاں	وُلِدْتُ = (ول د) (ض) میں پیدا ہوا
وَعِدْنَا = (وع د) (ض) ہم سے وعدہ کیا گیا	وَلَدْنَهُمْ = (ول د) (ض) اُن عورتوں نے
وَعِيْدٌ = (وع د) میرا ڈرانا	جنا اُن کو؟
وَفَى = (وف ی) (2) اُس نے پورا کیا۔ وفا کی	وَلَّوْا = (ول ی) (2) انہوں نے موڑا
وِفَاقًا = (وف ق) موافق۔ پورا پورا	وَلَّوْا = (ول ی) (2) وہ پھرے
وَفَّهٌ = (وف ی) (2) اس نے اُسے پورا پورا دیا	وَلَّيْتُ = (ول ی) (2) تو پھرا
وَفِيَّتٌ = (وف ی) (2) اُسے پورا پورا دیا گیا	وَلَّيْتُمْ = (ول ی) (2) تم پھر گئے
وَقَارًا = (وق ر) وقار۔ احترام	وَلَّيْحَةٌ = (ول ح) راز داں
وَقَنًا = (وق ی) (ض) اس نے بچایا ہم کو	وَلَّيْدًا = (ول د) لڑکا
وَقَهٌ = (وق ی) (ض) اس نے بچایا اُسے	وَهَابٌ = (وه ب) عطا کرنے والا
وَقَعِيهَاً = (وق ع) واقع ہونا اس کا	وَهَّاجًا = (وه ج) چمکتا ہوا
وَأَقْعُدُوا = (وق ع د) (ن) اور تم بیٹھو	
وُقْفُوا = (وق ف) (ض) وہ کھڑے کیے گئے	هَاتُوا = (هت ی) (هت) تم لاؤ
وَقُوْدٌ = (وق د) ایندھن	هَتَيْنِ = (هت ی ن) یہ دو (عورتیں)
وُكِّلٌ = (وکل ل) (2) وہ مقرر کیا گیا	هَاجِرٌ = (ه ج ر) (3) اس نے ہجرت کی
وُكِّلْنَا = (وکل ل) (2) ہم نے مقرر کر دیا	هَاجِرُنْ = (ه ج ر) (3) اُن (عورتوں) نے

هَذُّهُدٌ = (ہود) ہد ہد۔ پرندے کا نام

هَدِيَّةٌ = (ہدی) ہدیہ۔ تحفہ

هَزِيءٌ = (ہزز) (ن) تو (عورت) ہلا

هَشِيْمًا = (ہش م) بھس۔ روندنا ہوا

هَضِيْمٌ = (ہض م) ٹوٹنا ہوا۔ خوب بھرا ہوا

هَلُوْعًا = (ہل ع) بے چین۔ جلد باز

هَمَّازٌ = (ہم ز) طعنے دینے والا

هَمَزٌ = (ہم ز) وسوسے

هَمَزَةٌ = (ہم ز) طعنے دینے والا

هَمِيْنًا = (ہن ع) خوشگوار۔ مزیدار

هَوَاهُءٌ = (ہوی) خواہش اُس کی

هَوَاءٌ = (ہوی) خالی۔ ہوا

هَيِّنٌ = (ہون) آسان۔ ہلکا

هَيَّيْءٌ = (ہی ع) (2) توتیار کر

هَيْئَةٌ = (ہی ع) شکل۔ صورت

ہے

يَابِسٌ = (ی ب س) خشک

يَبْسٌ = (ی ب س) خشک (جمع)

يَأْقُوْتُ = (ی ق ت) یا قوت سے

يُبَايِعُنَكَ = (ب ی ع) (3) وہ عورتیں

بیعت کریں آپ سے

يُبَايِعُونَ = (ب ی ع) (3) وہ بیعت کرتے ہیں

ہجرت کی

هَاجِرُونَ = (ہ ج ر) (3) انہوں نے ہجرت

کی

هَادٍ = (ہدی) ہادی۔ ہدایت دینے والا

هَادُوا = (ہود) (ن) وہ یہودی ہوئے

هَادِيًا = (ہدی) ہادی۔ ہدایت دینے والا

هَارٍ = (ہور) گرنے والا

هَارُونَ = (ہرت) ہاروت فرشتہ

هَارُونَ = (ہرن) ہارون علیہ السلام

هَالِكٌ = (ہل ک) ہلاک ہونا والا

هَالِكِينَ = (ہل ک) ہلاک ہونے والے

هَامِنٌ = (ہم ن) ہامان

هَامِدَةٌ = (ہم د) خجروشک

هَآوِيَةٌ = (ہوی) گڑھا۔ دوزخ

هَوْلَاءٌ = (ہول) یہ سب لوگ

هَبٌّ = (ہب) (ف) تودے۔ عطا کر

هَبَاءٌ = (ہب و) گردوغبار

هَدِيْمَةٌ = (ہد م) (2) گراوی گئی

هَدُنَا = (ہود) (ض) ہم نے توبہ کی۔ ہم نے

رجوع کیا

هَدُوا = (ہدی) (ض) ہدایت دیے گئے۔ تم

ہدایت دو

ہے
يُبْدِئُ = (ب دی) (1) وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے
يُبْدِينُ = (ب دی) (1) وہ ظاہر کرتی ہیں
يُسْطُ = (ب س ط) (ن) وہ پھیلاتا ہے
يُسْطُوا = (ب س ط) (ن) وہ بڑھائیں گے
يُسْشِرُ = (ب ش ر) (2) وہ خوشخبری دیتا ہوں
يُصِرُّ = (ب ص ر) (1) وہ دیکھتا ہے
يُصْرُوا = (ب ص ر) (ک) وہ دیکھتے ہو
يُصْرُونَ = (ب ص ر) (1) وہ دیکھتے ہیں
يُصْرُونَهُمْ = (ب ص ر) (2) وہ ان کو دکھائے جائیں گے
يُبْطِشُ = (ب ط ش) (ض) وہ پکڑتا ہے
يُبْطِشُونَ = (ب ط ش) (ض) وہ پکڑتے ہیں
يُبْطِلُ = (ب ط ل) (1) وہ باطل کرتا مٹاتا ہے
يُبْطِنُّ = (ب ط ن) (2) وہ ضرور دیر کرتا ہے
يُبْعَثُ = (ب ع ث) (ف) وہ بھیجے
 اُٹھائے گا
يُبْعَثُ = (ب ع ث) (1) وہ بھیجا اٹھایا
 جائے گا
يُبْعَثُنَّ = (ب ع ث) (ف) وہ ضرور بھیجے گا
يُبْعَثُوا = (ب ع ث) (ف) اُن کو اٹھایا
 جائے گا

يُبْتَغِ = (ب غ ی) (7) وہ چاہتا ہے
يُبْتَغُونَ = (ب غ ی) (7) وہ چاہتے ہیں
يُبْتَغُونَ = (ب ت ک) (2) وہ ضرور کاٹیں گے
يُبْتَلِي = (ب ل و) (7) وہ آزمائے گا
يُبْتِئُ = (ب ث ث) (ن) وہ پیدا کرتا ہے۔
 وہ پھیلاتا ہے
يُبْحَثُ = (ب ح ث) (ف) وہ کریدتا ہے
يُبْخَسُ = (ب خ س) (ف) وہ کمی کرے
يُبْخَسُونَ = (ب خ س) (ف) وہ کم کیے
 جائیں گے
يُبْخَلُ = (ب خ ل) (س) وہ بخل کرتا ہے
يُبْخَلُونَ = (ب خ ل) (س) وہ بخل کرتے ہیں
يُبْدِلُ = (ب د ل) (2) وہ بدلتا ہے
يُبْدِلُ = (ب د ل) (2) بدلا جاتا
يُبْدِلُ = (ب د ل) (1) وہ بدلتا ہے
يُبْدِلُنَّهُمْ = (ب د ل) (2) وہ ضرور بدلے گا
 اُن کو
يُبْدِلُونَا = (ب د ل) (2) وہ بدلتے ہیں
يُبْدِلُونُ = (ب د ل) (2) وہ بدلتے ہیں
يُبْدُونَ = (ب دی) (1) وہ ظاہر کرتے ہیں
يُبْدِيهَا = (ب دی) (1) اس نے اُسے ظاہر کیا
يُبْدِئُ = (ب دی) (ف) وہ پہلی بار پیدا کرتا

يُؤْرُ = (ب و ر) (ن) وہ ہلاک رہتا ہے ہو جائے گا
يُسْتُونُ = (ب ی ت) (ض س) وہ رات
گزارتے ہیں
يُسْتُونُ = (ب ی ت) (2) وہ رات کو مشورہ
کرتے ہیں
يُسِينُ = (ب ی ن) (2) وہ واضح کرتا ہے
يُسِينُ = (ب ی ن) (1) وہ صاف بیان کرتا ہے
يُسِينُ = (ب ی ن) (2) وہ ضرور واضح کرے گا
يَتَمِي = (ی ت م) یتیم (جمع)
يَتُبُ = (ت و ب) (ن) وہ توبہ کرتا ہے
يَتَبَدَّلُ = (ب د ل) (4) وہ بدلتا ہے
يَتَبَرَّوْا = (ت ب ر) (2) وہ ہلاک کر دیں گے
يَتَّبِعُ = (ت ب ع) (7) وہ پیروی کرتا ہے
يَتَّبِعُ = (ت ب ع) (7) اس کی پیروی کی
جاتی ہے
يَتَّبِعُواكُمْ = (ت ب ع) (7) وہ پیروی
کریں تمہاری
يَتَّبِعُونَ = (ت ب ع) (7) وہ پیروی کرتے ہیں
يَتَّبِعُونَ = (ت ب ع) (1) وہ پیچھا کرتے
ہیں
يَتَّبِعُهَا = (ت ب ع) (س) وہ اُس کے
پیچھے آئے

يُعْمُونَ = (ب ع ث) (ف) وہ زندہ کیے
جائیں گے
يُعْمُونَ = (ب غ ی) (ض) وہ چاہتے ہیں۔
وہ سرکشی کرتے ہیں
يُعْيُ = (ب غ ی) (ض) وہ ظلم بڑیادتی کرتا ہے
يُعْيِنُ = (ب غ ی) (ض) وہ دونوں سرکشی
کرتے ہیں
يُعْقِي = (ب ق ی) (س) وہ باقی رہتا ہے
يُعْكَوْا = (ب ک ی) (ض) وہ روتے ہیں
يُعْكَوْنَ = (ب ک ی) (ض) وہ روتے ہیں
يُعْلِي = (ب ل ی) (س) وہ پرانا کمزور ہوگا
يُعْلِسُ = (ب ل س) (1) وہ مایوس ہوتا ہے
يُعْلَغُ = (ب ل غ) (ن) وہ پہنچتا ہے
يُعْلَغَا = (ب ل غ) (ن) وہ دونوں پہنچتے ہیں
يُعْلَغَنَّ = (ب ل غ) (ن) وہ ضرور پہنچتا ہے
يُعْلِفُوا = (ب ل غ) (ن) وہ پہنچتے ہیں
يُعْلِفُونَ = (ب ل غ) (2) وہ پہنچاتے ہیں
يُعْلُوا = (ب ل و) (ن) وہ آزماتا ہے
يُعْلُونَكُمْ = (ب ل و) (ن) وہ ضرور
آزمائے گا تمہیں
يُعْلِي = (ب ل و) (1) وہ آزماتے
يَأْبَنُومُ = (م م) اے میرے ماں جائے

اُچک، چھٹ لیتا ہے
يَتَخَلَّفُوا = (خ ل ف) (4) وہ پیچھے رہ

جاتے ہیں

يَتَخَيَّرُونَ = (خ ی ر) (4) وہ پسند کریں گے

يَتَذَبَّرُونَ = (ذ ب ر) وہ غور کرتے ہیں

يَتَذَكَّرُونَ = (ذ ک ر) (4) وہ سمجھتا ہے

يَتَذَكَّرُونَ = (ذ ک ر) (4) وہ سمجھتے ہیں

يَتَرَجَعُونَ = (ر ج ع) (5) وہ دونوں رجوع کر لیں

يَتَرَيَّضُونَ = (ر ب ص) وہ انتظار کرتا ہے

يَتَرَيَّضُونَ = (ر ب ص) وہ عورتیں انتظار کریں

يَتَرَبَّصُونَ = (ر ب ص) (4) وہ انتظار

کرتے ہیں

يَتَرَدَّدُونَ = (ر د د) (4) وہ ڈانواں ڈول

ہوتے ہیں

يَتَرَقَّبُونَ = (ر ق ب) (4) وہ راہ دیکھتا ہے

يَتُرَكَّ = (ت ر ک) (ن) وہ چھوڑ دیا جاتا ہے

يَتُرَكَّمُونَ = (و ت ر) (ض) وہ تم سے کم کرے

گاڑھین لے گا

يَتُرَكُّوا = (ت ر ک) (ن) وہ چھوڑ دیے

جائیں گے

يَتَزَكَّى = (ز ک و) (4) وہ پاک ہوتا ہے

يَتَسَاءَلُونَ = (س ء ل) (5) وہ باہم

يَتَبِعُهُمْ = (ت ب ع) (7) وہ ان کی پیروی

کرتا ہے

يَتَبَوَّأُونَ = (ب و ء) (4) وہ رہتا ہے

يَتَبَيَّنُونَ = (ب ی ن) (4) وہ ظاہر ہوتا ہے

يَتَجَرَّعُونَ = (ج ر ع) (4) وہ اُسے گھونٹ

گھونٹ کر کے پیتا ہے

يَتَجَنَّبُهَا = (ج ن ب) (4) وہ اس سے کنارہ

کشی کرتا ہے

يَتَحَاجُّونَ = (ح ج ح) (5) وہ باہم جھگڑا

کریں گے

يَتَحَاكَمُونَ = (ح ك م) (5) وہ فیصلہ

کرتے ہیں

يَتَخَافَتُونَ = (خ ف ت) (5) وہ چپکے

چپکے باتیں کرتے ہیں

يَتَخَبَّطُهُ = (خ ب ط) (4) وہ اسے دیوانہ

جھپلی بناتا ہے

يَتَخَذُونَ = (ع خ ذ) (7) وہ بناتا ہے

يَتَخَذُوا = (ع خ ذ) وہ اختیار کرتے ہیں

يَتَخَذُونَ = (ع خ ذ) (7) وہ بناتے ہیں

يَتَخَطَّفُ = (خ ط ف) (4) وہ اُچک

چھٹ لیے جاتا ہے

يَتَخَطَّفُكُمْ = (خ ط ف) (4) وہ تمہیں

يَتَفَطَّرُونَ = (ف ط ر) (4) وہ پھٹ جائیں	پوچھتے ہیں
يَتَفَقَّهُوْا = (ف ق ه) (4) وہ دین کی سمجھ	يَتَسَلَّلُونَ = (س ل ل) (4) وہ کھسک
حاصل کریں	جاتے ہیں
يَتَفَكَّرُوْا = (ف ك ر) (4) وہ غور و فکر	يَتَسَنَّهُ = (س ن ه) (4) وہ سڑ جاتا خراب
کرتے ہیں	ہوتا ہے
يَتَفَكَّرُونَ = (ف ك ر) (4) وہ غور و فکر کرتے ہیں	يَتَضَرَّعُونَ = (ض ر ع) (4) وہ گڑ
يَتَفَيَّؤْا = (ف ي ء) (4) وہ جھکتے رڑھلتے ہیں	گڑاتے ر عاجزی کرتے ہیں
يَتَّقِ = (و ق ي) (7) وہ ڈرے	يَتَطَهَّرُوْا = (ط ه ر) (4) وہ پاک ہوتے ہیں
يَتَقَبَّلُ = (ق ب ل) (4) وہ قبول کرتا ہے	يَتَطَهَّرُونَ = (ط ه ر) (4) وہ پاک ہوتے ہیں
يَتَقَبَّلُ = (ق ب ل) (4) وہ قبول کیا جائے گا	يَتَعَارَفُونَ = (ع ر ف) (5) وہ ایک
يَتَقَدَّمُ = (ق د م) (4) وہ آگے بڑھتا ہے	دوسرے کو پہنچانتے ہیں
يَتَّقُوا = (و ق ي) (7) وہ ڈریں	يَتَعَدَّ = (ع و) (4) وہ حد سے گزرے گا
يَتَّقُونَ = (و ق ي) (7) وہ ڈریں	يَتَعَلَّمُونَ = (ع ل م) (4) وہ سیکتے ہیں
يَتَّقِهِ = (و ق ي) (7) وہ اس سے ڈرتا رہتا ہے	يَتَعَامَرُونَ = (ع م ز) (5) وہ آنکھ مارتے ہیں
ہے	يَتَغَيَّرُ = (غ ي ر) (4) وہ بگڑا۔ وہ خراب ہوا
يَتَّقِي = (و ق ي) (7) وہ ڈرتا رہتا ہے	يَتَفَجَّرُ = (ف ج ر) (4) ہو پھوٹتا ہے
يَتَكَبَّرُونَ = (ك ب ر) (4) وہ تکبر کرتے ہیں	يَتَفَرَّقَا = (ف ر ق) (4) وہ دونوں الگ
يَتَكَلَّمُ = (ك ل م) (4) وہ کلام کرتا ہے	ہوتے ہیں
يَتَكَلَّمُونَ = (ك ل م) (4) وہ کلام	يَتَفَرَّقُونَ = (ف ر ق) (4) وہ الگ ہو جائیں
کرتے ہیں	گے
يَتَكُونُ = (و ك ء) (7) وہ کیے لگائیں گے	يَتَفَضَّلُ = (ف ض ل) (4) وہ فضیلت
يَتَلَى = (ت ل و) (ن) وہ پڑھا جاتا ہے	حاصل کرے

کریں	يَتْلُوْنَ = (ل و م) (5) وہ ایک دوسرے کو طاعت کرتے ہیں
يَتَنَاهَوْنَ = (ن ہ ی) (5) وہ باہم روکتے ہیں	يَتَلَطَّفُ = (ل ط ف) (4) وہ نرمی برتے
يَتَنَزَّلُ = (ن ز ل) (4) وہ نازل ہوتا ہے	يَتَلَقَّى = (ل ق ی) (4) وہ لیتے ہیں
يَتَوَازَى = (و ر ی) (5) وہ چھپتا ہے	يَتَلَوُّا = (ت ل و) (ن) وہ تلاوت کرتا ہے
يَتَوَبُّ = (ت و ب) (ن) وہ توبہ کرتا ہے	يَتَلَوْنَ = (ت ل و) (ن) وہ تلاوت کرتے ہیں
يَتَوَبُّوْا = (ت و ب) (ن) وہ توبہ کریں	يَتِمُّ = (ت م م) وہ پورا کرتا ہے
يَتَوَبُّوْنَ = (ت و ب) (ن) وہ توبہ کرتے ہیں	يَتَمَّاسًا = (م س س) (5) وہ دونوں باہم ملتے ہیں
يَتَوَفَّى = (و ف ی) (4) وہ فات دیتا ہے	يَتَمَتَّعُوا = (م ت ع) (4) وہ فائدہ اٹھالیں
يَتَوَفَّى = (و ف ی) (4) اُسے وفات دی جاتی ہے	يَتَمَتَّعُونَ = (م ت ع) (4) وہ فائدہ اٹھاتے ہیں
يَتَوَفَّوْنَ = (و ف ی) (4) وہ وفات پاتے ہیں	يَتَمَطَّى = (م ط و) (4) وہ غرور سے اڑتا ہے
يَتَوَفَّوْنَ = (و ف ی) (4) وہ وفات دیں گے	يَتَمَنُّوْهُ = (م ن ی) (4) وہ تمنا کریں اُس کی
يَتَوَكَّلُ = (و ک ل) (4) وہ توکل کرتا ہے	يَتَمَنُّوْنَہُ = (م ن ی) (4) وہ تمنا کرتے ہیں
يَتَوَكَّلُونَ = (و ک ل) (4) وہ توکل کرتے ہیں	اُس کی
يَتَوَلَّى = (و ل ی) (4) وہ دوستی کرتا ہے۔ وہ پیڑھ پھیرتا ہے	يَتَسَبَّحُونَ = (ن ج و) (5) وہ سرگوشی کرتے ہیں
يَتَوَلَّى = (و ل ی) (4) وہ پھر جاتا ہے	يَتَنَازَعُونَ = (ن ز ع) (5) وہ چھینا جھپٹی کرتے ہیں
يَتَوَلَّوْا = (و ل ی) (4) وہ پیڑھ پھیرتے ہیں	يَتَنَازَعُونَ = (ن ز ع) (5) وہ چھینا جھپٹی کرتے ہیں
يَتَوَلَّوْنَ = (و ل ی) (4) وہ منہ پھیرتے ہیں	يَتَنَافَسُ = (ن ف س) (5) وہ بڑھ کر دُغبت
يَتَاَخَّرُ = (ء خ ر) (4) وہ دیر کرتا ہے	
يَتِيْمٌ = (ی ت م) یتیم	

يُجَاهِدُونَ = (ج ہ د) (3) وہ کوشش کرتے ہیں	يَتَمَيَّنِينَ = (ی ت م) دو تہیم
يُجَاهِدُونَ = (ج ہ د) وہ کوششیں کرتے ہیں	يَتِيهُونَ = (ت ی ہ) (ض) وہ پریشان پھریں گے
يُجِبُّ = (ج و ب) (1) وہ قبول کرتا ہے	يُثَبِّتُ = (ث ب ت) (2) وہ ثابت ر قائم رکھے گا
يُجِبِّي = (ج ب ی) (7) وہ جن لیتا ہے	يُثَبِّتُ = (ث ب ت) (1) وہ ثابت ر قائم رکھتا ہے
يُجْتَبُونَ = (ج ن ب) (7) وہ چختے ہیں	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے
يُجْحَدُونَ = (ج ح د) (ف) وہ انکار کرتا ہے	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے
يُجْحَدُونَ = (ج ح د) (ف) وہ انکار کرتے ہیں	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے
يُجِدُّ = (ج د) (ض) وہ پائے	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے
يُجِدُّوا = (ج ذ) (ض) وہ پائیں	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے
يُجِدُّونَ = (ج د) (ض) وہ پاتے ہیں	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے
يُجِرُّكُمْ = (ج و ر) (1) وہ تمہیں پناہ دے گا	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے
يُجِرُّكُمْ = (ج ر م) (ض) وہ نہ ا کسائے تمہیں	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے
يُجِرُّهُ = (ج ر ر) (ن) وہ کھینچتا ہے اُس کو	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے
يُجِرِّي = (ج ر ی) (ض) وہ چلتا ہے	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے
يُجْزِي = (ج ز ی) (ض) اُسے بدلہ دیا جاتا ہے	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے
يُجْزُونَ = (ج ز ی) اُن کو بدلہ دیا جاتا ہے	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے
يُجْزِي = (ج ز ی) (ض) وہ بدلہ دیتا ہے	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے
يُجْعَلُ = (ج ع ل) (ف) وہ کرتا ہے	يُثَبِّتُونَ = (ث ب ت) (1) وہ تجھے قید کر دیں گے

ہیں	يُجْعَلُونَ = (ج ع ل) (ف) وہ کریں
يُحَاسِبُ = (ح س ب) (3) اس کا حساب لیا جاتا ہے	يُجْعَلُونَ = (ج ع ل) (ف) کرتے ہیں
يُحَاسِبُكُمْ = (ح س ب) (3) وہ حساب لے گا تم سے؟	يُجْلِيهَا = (ج ل ي) (2) وہ ظاہر کرے گا اُسے
يُحَاطُ = (ح و ط) (1) اس کا احاطہ کیا جائے۔ اُسے گھیرا جائے	يُجْمَعُونَ = (ج م ع) (ف) وہ رسیاں تڑا کے بھاگتے ہیں
يُحَافِظُونَ = (ح ف ظ) (3) وہ حفاظت کرتے ہیں	يُجْمَعُ = (ج م ع) (ف) وہ جمع کرتا ہے
يُحَاوِرُهُ = (ح و ر) (3) وہ گفتگو کرتا ہے اُس سے	يُجْمَعَنَّكُمْ = (ج م ع) (ف) وہ ضرور جمع کرے گا تم کو
يُحِبُّ = (ح ب ب) (1) وہ پسند کرتا ہے	يُجْمَعُونَ = (ج م ع) (ف) وہ جمع کرتے ہیں
يُحِبِّكُمْ = (ح ب ب) (1) وہ دوست بنائے گا تم کو	يُجَنَّبُهَا = (ج ن ب) (2) وہ بچایا جائے گا اُس سے
يُخَبِّرُونَ = (خ ب ر) (ن) اُن کو خوش کیا جائے گا	يَجْهَلُونَ = (ج ه ل) (س) وہ جہالت (نادانی) کرتے ہیں
يُخَبِّسُهُ = (خ ب س) (ض) وہ اُسے روکتا ہے	يَجْتَرُونَ = (ج ع ر) (وہ چلاتے رگڑ گڑاتے
يُخَيِّطُ = (خ ي ط) (1) وہ ضائع کر دے گا	يُجِيبُ = (ج و ب) (1) وہ سنتا قبول کرتا ہے
يُخَيِّطَنَّ = (خ ي ط) (س) وہ ضرور ضائع کرے گا	يُجِيرُ = (ج و ر) (1) وہ پناہ دیتا ہے
يُخَيَّبُونَ = (خ ب ب) (1) وہ پسند کرتے ہیں	يُحَاجُّوْكُمْ = (ح ج ح) (3) وہ جھگڑتے ہیں تم سے
يُخْتَسِبُ = (خ ح س ب) (7) وہ گمان کرتا ہے	يُحَاجُّونَ = (ح ج ح) (3) وہ جھگڑتے ہیں
يُخْتَسِبُونَ = (خ ح س ب) (7) وہ خیال	يُخَادِدُ = (خ و د) (3) وہ دشمنی کرتا ہے
	يُخَادُّونَ = (خ و د) (3) وہ دشمنی کرتے ہیں
	يُخَارِبُونَ = (خ ر ب) (3) وہ جنگ کرتے ہیں

یُحْشِرُ = (ح ش ر) (ن) وہ جمع کیا جاتا ہے	کرتے ہیں
یُحْشِرُونَ = (ح ش ر) (ن) وہ جمع کیے جائیں	یُحْدِثُ = (ح د ث) (1) وہ پیدا کرتا ہے
یُحْشِرُونَ = (ح ش ر) (ن) وہ جمع کیے جاتے ہیں	یُحْدِرُ = (ح ذ ر) (س) وہ ڈرتا ہے
یُحْضُّ = (ح ض ض) (ن) وہ ترغیب دیتا ہے	یُحْدِرُكُمْ = (ح ذ ر) (2) وہ ڈراتا ہے تم کو
یُحْضِرُونَ = (ح ض ر) (ن) وہ حاضر ہوں میرے پاس	یُحْدِرُونَ = (ح ذ ر) (س) وہ ڈرتے ہیں
یُحْضِنَ = (ح ی ض) (ض) (ن) (ض) اُن (عورتوں) کو حیض آتا ہے	یُحْدِرُ فَوْنَ = (ح ر ف) وہ بدل دیتے ہیں
یُحْطِمَنَّكُمْ = (ح ط م) (ض) وہ کچل دے تم کو	یُحْرِمُ = (ح ر م) (2) وہ حرام ٹھہراتا ہے
یُحْفَظْنَ = (ح ف ظ) (س) وہ عورتیں حفاظت کریں	یُحْرِمُونَ = (ح ر م) (2) وہ حرام ٹھہراتے ہیں
یُحْفَظُوا = (ح ف ظ) (س) وہ حفاظت کریں	یُحْزِنُ = (ح ز ن) (ن-س) وہ غمگین کرتا ہے
یُحْفَظُونَ = (ح ف ظ) (س) وہ حفاظت کرتے ہیں	یُحْزِنَنَّ = (ح ز ن) (ن-س) وہ ضرور غمگین ہوں گی
یُحْفِكُمْ = (ح ف ی) (1) وہ تم سے مانگتے ہیں	یُحْزِنُونَ = (ح ز ن) (ن-س) وہ غمگین ہوں گے
یُحِقُّ = (ح ق ق) (ض-ن) وہ حق ریح ہوتا ہے	یُحْسِبُ = (ح س ب) (س) وہ گمان کرتا ہے
یُحِقُّ = (ح ق ق) (1) وہ حق ریح کرتا ہے	یُحْسِبَنَّ = (ح س ب) (س) وہ ضرور گمان کرے گا
یُحْكُمُ = (ح ک م) (ن) وہ فیصلہ کرتا ہے	یُحْسِبُونَ = (ح س ب) (س) وہ گمان کرتے ہیں
	یُحْسِلُونَ = (ح س د) (ن) وہ حسد کرتے ہیں
	یُحْسِنُونَ = (ح س ن) (1) وہ اچھائی کرتے ہیں
	یُحْشِرُ = (ح ش ر) (ن) وہ جمع کرے گا

يُحْمَدُوا = (ح م د) (س) اُن کی تعریف

کی جائے

يُحْمِلُ = (ح م ل) (ض) وہ اٹھاتا ہے

يُحْمَلُ = (ح م ل) (ض) وہ اٹھایا جائے گا

يُحْمَلُنَّ = (ح م ل) (ض) وہ ضرور اٹھائیں

گے

يُحْمَلْنَ = (ح م ل) (ض) وہ (عورتیں)

اٹھائیں

يُحْمَلُوا = (ح م ل) (ض) وہ اٹھائیں

يُحْمَلُونَ = (ح م ل) (ض) وہ اٹھاتے ہیں

يُحْمُومُ = (ح م م) سیاہ دھواں

يُحْوَرُ = (ح و ر) (ن) وہ لوٹے پھر گا

يُحْوَلُ = (ح و ل) (ن) وہ حائل ہوتا ہے

يُحْيِي = (ح ی ی) (1) وہ زندہ کرتا ہے

يُحْيِطُوا = (ح و ط) (1) وہ احاطہ کریں

يُحْيِطُونَ = (ح و ط) (1) وہ احاطہ کرتے ہیں

يُحْيِفُ = (ح ی ف) (ض) وہ ظلم زیادتی

کرتے گا

يُحْيِقُ = (ح ی ق) (ض) وہ گھیرتا پکڑتا

ہے

يُحْيِكُ = (ح ی ی) (2) وہ سلام کرتے

ہیں تجھ کو

يُحْكِمُ = (ح ک م) (1) وہ پختہ کرتا ہے

يُحْكِمِنِ = (ح ک م) (ن) وہ دونوں

فیصلہ کرتے ہیں

يُحْكِمُونَ = (ح ک م) (2) وہ تجھے حکم

قاضی بناتے ہیں

يُحْكُمُونَ = (ح ک م) (ن) وہ فیصلہ

کرتے ہیں

يُحِلُّ = (ح ل ل) (ض) وہ حلال رجا ز

ہوتا ہے

يُحِلُّ = (ح ل ل) (1) وہ حلال ٹھہراتا ہے

يُحِلِّفُنَّ = (ح ل ف) (ض) وہ ضرور قسمیں

کھائیں گے

يُحِلِّفُونَ = (ح ل ف) (ض) وہ قسمیں

کھاتے ہیں

يُحِلِّلُ = (ح ل ل) (ض) وہ اترتا ہے

يُحِلُّوا = (ح ل ل) (1) وہ حلال کرتے ہیں

يُحِلُّونَ = (ح ل ل) (ض) وہ حلال ہوتے ہیں

يُحِلُّونَ = (ح ل ل) (1) اُن کو زیور پہنایا

جائے گا

يُحِلُّونَهُ = (ح ل ل) (1) وہ حلال کرتے

ہیں اس کو

يُحْمِي = (ح م ی) (ف) تپایا جائے گا

دیتے ہیں

يُخَذِعُونَ = (خ ذ ع) (ف) وہ دھوکا دیتے

ہیں

يَخْذُلُكُمْ = (خ ذ ل) (ن) وہ تمہیں چھوڑ

دے گا

يُخْرِبُونَ = (خ ر ب) (1) وہ برباد کرتے ہیں

يُخْرِجُ = (خ ر ج) (ن) وہ نکالتا ہے

يُخْرِجُ = (خ ر ج) (1) وہ نکالتا ہے

يُخْرِجُكُمْ = (خ ر ج) (1) وہ دونوں

نکالیں تمہیں

يُخْرِجُنَّ = (خ ر ج) (ن) وہ نکالیں

يُخْرِجُنَّ = (خ ر ج) (ن) وہ ضرور نکالیں

گے

يُخْرِجُنَّ = (خ ر ج) (1) وہ ضرور نکالے گا

يُخْرِجُوا = (خ ر ج) (ن) وہ نکالیں

يُخْرِجُوا = (خ ر ج) (1) وہ نکالیں

يُخْرِجُونَ = (خ ر ج) (ن) وہ نکالتے ہیں

يُخْرِجُونَ = (خ ر ج) (1) وہ نکالتے ہیں

يُخْرِجُونَ = (خ ر ج) (1) وہ نکالتے ہیں

يُخْرِصُونَ = (خ ر ص) (ن) وہ انکل

دوڑاتے ہیں

يُخْرِوْا = (خ ر و) (ض) وہ گرتے ہیں

يُخَيِّ = (ح ي ي) (1) وہ زندہ کرتا ہے

يُخَيِّمَ = (ح ي ي) (1) وہ زندہ کرے گا

يُخَيِّبِنِ = (ح ي ي) (1) وہ زندہ کرے گا مجھے

يُخَدِعُونَ = (خ ذ ع) (3) وہ دھوکا دیتے ہیں

يَخَافُ = (خ و ف) (س-ن) وہ ڈرتا ہے

يَخَافَا = (خ و ف) (س-ن) وہ دونوں

ڈریں

يَخَافُوا = (خ و ف) (س-ن) وہ ڈریں

يَخَافُونَ = (خ و ف) (س-ن) وہ ڈرتے

ہیں

يُخَالِفُونَ = (خ ل ف) (3) وہ مخالفت

کرتے ہیں

يُخْتَارُ = (خ ي ر) (7) وہ چنتا ہے

يُخَاتِنُونَ = (خ و ن) (7) وہ خیانت کرتے ہیں

يُخْتَصِّصُ = (خ ص ص) (7) وہ مخصوص کرتا

ہے

يُخْتَصِمُونَ = (خ ص م) (7) وہ جھگڑتے

ہیں

يُخْتَلِفُونَ = (خ ل ف) (7) وہ اختلاف

کرتے ہیں

يُخْتِمُ = (خ ت م) (ض) وہ مہر لگاتا ہے

يُخَدِعُونَ = (خ ذ ع) (ف) وہ دھوکا

يَخْلُدُ = (خ ل د) (ن) وہ ہمیشہ رہے گا	يَخْرُونَ = (خ ر ر) (ض) وہ گر پڑتے ہیں
يُخْلِفُ = (خ ل ف) (1) وہ خلاف کرتا ہے	يُخْرِي = (خ ز ي) (1) وہ ذلیل کرتا ہے
يُخْلِفُونَ = (خ ل ف) (ن) وہ جانشین بنیں گے	يُخْسِرُ = (خ س ر) (س) وہ نقصان اٹھاتا ہے
يُخْلِقُ = (خ ل ق) (ن) وہ پیدا کرتا ہے	يُخْسِرُونَ = (خ س ر) (1) وہ نقصان دیتے ہیں
يُخْلِقُونَ = (خ ل ق) (ن) وہ پیدا کیا جاتا ہے	يُخْسِفُ = (خ س ف) (ض) وہ دھنساتا ہے
يُخْلِقُوا = (خ ل ق) (ن) وہ پیدا کریں	يُخْشِ = (خ ش ي) (س) ہو ڈرتا ہے
يُخْلِقُونَ = (خ ل ق) (ن) وہ پیدا کرتے ہیں	يُخْشِي = (خ ش ي) (س) وہ ڈرتا ہے
يُخْلِقُونَ = (خ ل ق) (ن) وہ پیدا کیے جاتے ہیں	يُخْشُونَ = (خ ش ي) (س) وہ ڈرتے ہیں
يُخَوِّضُوا = (خ و ض) (ن) وہ بحث کرتے ہیں	يُخْصِفَانِ = (خ ص ف) (ض) وہ ڈھانپتے ہیں
يُخَوِّضُونَ = (خ و ض) (ن) وہ بحث کرتے ہیں	يُخْصِمُونَ = (خ ص م) (7) وہ جھگڑتے ہیں
يُخَوِّفُ = (خ و ف) (2) وہ ڈراتا ہے	يُخْطَفُ = (خ ط ف) (س) وہ اچک لیتا ہے
يُخَوِّفُونَ = (خ و ف) (2) وہ ڈراتے ہیں	يُخْفِي = (خ ف ي) (س) وہ چھپتا ہے
يُخَيِّلُ = (خ ي ل) (2) وہ خیال کیا جاتا ہے	يُخْفِفُ = (خ ف ف) (2) وہ ہلکا کرتا ہے
يَدُ = (ی دی) ہاتھ	يُخْفِفُ = (خ ف ف) (2) وہ ہلکا کیا جائے گا
يَدًا = (ی دی) دو ہاتھ	يُخْفُونَ = (خ ف ي) (س) وہ چھپتے ہیں
يُدَافِعُ = (د ف ع) (3) وہ دفع مردو کرتا ہے	يُخْفُونَ = (خ ف ي) (1) وہ چھپاتے ہیں
يُدَبِّرُ = (د ب ر) وہ تدبیر کرتا ہے	يُخْفِينَ = (خ ف ي) (1) وہ چھپاتی ہیں
يُدَبِّرُوا = (د ب ر) وہ غور کریں	يُخْلُ = (خ ل و) (ن) وہ خالی رہے گا
يُدْحِضُوا = (د ح ض) وہ نچا دکھائیں	

جاتے ہیں

يُدْعُونَ = (دع و) (7) وہ طلب کرتے ہیں

يُدْمَعُهُ = (دمع و) (ف) وہ اس کا بھیجا نکالتا ہے

يُدْنِينَ = (دن و) (1) وہ (عورتیں) لٹکالیں

يُدْهِنُونَ = (دهن و) (1) وہ ڈھیلے پڑتے ہیں

يُدِي = (ی دی) دونوں ہاتھ

يُدِي = (ی دی) میرے دونوں ہاتھ

يُدِينُونَ = (دی ن) (ض) وہ اطاعت

کرتے ہیں

يُدْبِحُ = (ذب ح) (2) وہ ذبح کرتا ہے

يُدْبِحُونَ = (ذب ح) (2) وہ ذبح کرتے ہیں

يُدْرُ = (وزر و) (س) وہ چھوڑتا ہے

يُدْرُونَ = (وزر و) (س) وہ چھوڑتے ہیں

يُدْرُءُ كُمْ = (زرع و) (ف) وہ تمہیں پیدا کرتا

ہے

يُدْكُرُ = (ذکر ر) (ن) وہ یاد کرتا ہے

يُدْكُرُ = (ذکر ر) (ن) اس کا ذکر کیا جاتا ہے

يُدْكُرُ = (ذکر ر) (4) وہ سمجھتا ہے

يُدْكُرُوا = (ذکر ر) (4) وہ سمجھیں

يُدْكُرُوا = (ذکر ر) (ن) وہ یاد کریں

يُدْكُرُونَ = (ذکر ر) (ن) وہ یاد کرتے ہیں

يُدْكُرُونَ = (ذکر ر) (4) وہ سمجھتے ہیں

يُدْخُلُ = (دخ ل) (ن) وہ داخل ہوتا ہے

يُدْخُلُ = (دخ ل) وہ داخل کیا جاتا ہے

يُدْخِلُ = (دخ ل) (1) وہ داخل کرتا ہے

يُدْخِلْنَهَا = (دخ ل) (ن) وہ ضرور داخل ہو

گا اس میں

يُدْخِلْنَهُمْ = (دخ ل) (1) وہ ضرور داخل

کرے گا ان کو

يُدْخِلُوا = (دخ ل) (ن) وہ داخل ہوں

يُدْخِلُونَ = (دخ ل) (ن) وہ داخل ہوتے ہیں

يُدْرُسُونَهَا = (درس و) (ن) وہ اس کو پڑھتا

ہیں

يُدْرِكُ = (درک و) (1) وہ پاتا ہے

يُدْرِعُ = (درع و) (ف) وہ دفع کرتا نکالتا ہے

يُدْرِيكَ = (دری و) (1) وہ تجھے بتاتا ہے

يُدْسُهُ = (دس و) (ن) وہ گاڑتا ہے اُس کو

يُدْعُ = (دع و) (ن) وہ دعا کرے

يُدْعُ = (دع و) (ن) وہ دھکے دیتا ہے

يُدْعِي = (دع و) (ن) وہ بلایا جاتا ہے

يُدْعُوا = (دع و) (ن) وہ پکارتا ہے

يُدْعُونَ = (دع و) (ن) وہ پکارتے ہیں

يُدْعُونَ = (دع و) (ن) وہ بلائے جاتے ہیں

يُدْعُونَ = (دع و) (ن) اُن کو دھکے دیے

يَرْتَدُّ = (رود) (7) وہ مرتد ہو جائے گا
 يَرْتَدِدُّ = (رود) (7) وہ مرتد ہو جائے گا
 يَرْتَعُ = (رتع) (ف) وہ چمے۔ وہ
 کھائے
 يَرْتُقُوا = (رقی) (7) وہ چڑھیں
 يَرْثُ = (ورث) (ح) وہ وارث بنتا ہے
 يَرْثُونَ = (ورث) (ح) وہ وارث بنتے ہیں
 يَرْجِعُ = (رجع) (ض) وہ واپس لوٹتا ہے
 يَرْجِعُونَ = (رجع) (ض) وہ لوٹایا جاتا ہے
 يَرْجِعُونَ = (رجع) (ض) وہ واپس
 لوٹتے ہیں
 يَرْجِعُونَ = (رجع) (ض) وہ لوٹائے
 جاتے ہیں
 يَرْجُمُوكُمْ = (رجم) (ن) وہ سنگسار
 کریں گے تمہیں
 يَرْجُوا = (رجو) (ن) وہ امید رکھتا ہے
 يَرْجُونَ = (رجو) (ن) وہ امید رکھتے ہیں
 يَرْحَمُ = (رحم) (س) وہ رحم کرتا ہے
 يَرْحَمُنَا = (رحم) (س) وہ رحم کرے ہم پر
 يُرِدُّ = (رود) (1) وہ ارادہ کرے
 يُرِدُّ = (رود) (1) وہ ارادہ کرے
 يُرِدُّ = (رود) (ن) وہ لوٹایا جاتا ہے

يَذُوقُ = (ذوق) (ن) وہ چکھتا ہے
 يَذُوقُوا = (ذوق) (ن) وہ چکھیں
 يَذُوقُونَ = (ذوق) (ن) وہ چکھیں گے
 يَذُوبُ = (ذوب) (ف) وہ جاتا ہے
 يَذُوبُ = (ذوب) (1) وہ لے جاتا ہے
 يَذُوبًا = (ذوب) (ف) وہ دونوں جائیں
 يَذُوبِينَ = (ذوب) (1) وہ ضرور لے جائے گا
 يَذُوبُوا = (ذوب) (ف) وہ جائیں
 يَذِيقُ = (ذوق) (1) وہ چکھاتا ہے
 يَرَى = (رئی) (ف) وہ دیکھے
 يَرَى = (رئی) (ف) وہ دیکھتا ہے
 يَرَى = (رئی) (ف) وہ دیکھتا ہے
 يَرَى = (رئی) (ف) وہ دکھایا جاتا ہے
 يَرَادُ = (رود) (1) اس کا ارادہ کیا جاتا ہے
 يَرَأَوْنَ = (رئی) (3) وہ ریا کاری کرتے
 ہیں
 يَرْبِطُ = (ربط) (ض) وہ باندھتا ہے
 يَرْبُوا = (ربو) (ن) وہ بڑھتا ہے
 يَرْبُونَ = (ربو) (ن) وہ بڑھتا ہے
 يَرْبِي = (ربو) (1) وہ بڑھاتا ہے
 يَرْتَابُ = (ربب) (7) وہ شک کرتا ہے
 يَرْتَابُوا = (ربب) (7) وہ شکر کرتے ہیں

يَرْغَبُ = (رغب) (س) وہ پھرے گا
 يَرْغَبُوا = (رغب) (س) وہ رغبت کریں گے
 يَرْفَعُ = (رفع) (ف) وہ بلند کرتا ہے
 يَرْفَعُونَ = (رفع) (ن) وہ بلند کرتے ہیں
 يَرْكَبُ = (ركب) (س) وہ سوار ہوتے ہیں
 يَرْكَبُونَ = (ركب) (ن) وہ سوار ہوتے ہیں
 يَرْكُضُونَ = (ركض) (ن) وہ بھاگنے
 دوڑنے لگے

يَرْكَعُونَ = (ركع) (ف) وہ رکوع
 کرتے ہیں

يَرْكُمَةُ = (ركم) (ن) وہ تہ بتہ کر کے اکٹھا
 کرتا ہے

يَرْمُ = (رمي) (ض) وہ تہمت لگاتا ہے
 يَرْمُونَ = (رمي) (ض) وہ تہمت لگاتے ہیں

يَرَوُا = (رءي) (ف) وہ دیکھ لیں
 يَرَوُا = (رءي) (ف) اُن کو دکھائے جائیں
 گے

يَرَوُا = (رءي) (ف) وہ دیکھیں گے
 يَرَوْنَ = (رءي) (ف) وہ دیکھتے ہیں

يَرْهَبُونَ = (رهب) (ف) وہ ڈرتے ہیں
 يَرْهَقُ = (رهق) (س) وہ ڈھانچا پر چھپاتا ہے

يَرْهَقَهُمَا = (رهق) (1) وہ دونوں پر اثر

يُرْدُنُ = (رود) (1) وہ مجھے چاہیے
 يُرْدُونَكُمْ = (رود) (ن) وہ تم کو لوٹائیں گے
 يُرْدُونَ = (رود) (ن) وہ لوٹائے جائیں گے
 يُرْدُوهُمْ = (ردى) (1) وہ اُن کو ہلاک
 کریں گے

يُرْزُقُ = (رزق) (ن) وہ رزق دیتا ہے
 يَسْرُرُ قَنَهُمْ = (رزق) (ن) وہ ضرور اُن کو
 رزق دے گا

يُرْزُقُونَ = (رزق) (ن) اُن کو رزق دیا جاتا
 ہے

يُرْسِلُ = (رسل) (1) وہ بھیجتا ہے
 يُرْسِلُ = (رسل) (1) وہ بھیجا جاتا ہے

يُرْسِلُونَ = (رسل) (ن) وہ ہدایت پائیں گے
 يَرْضَى = (رض) (س) وہ راضی ہوتا ہے

يُرْضِعْنَ = (رضع) (1) وہ (عورتیں)
 دودھ پلائیں

يُرْضُونَكُمْ = (رضي) (1) وہ راضی کریں
 تمہیں

يُرْضُونَ = (رضي) (1) وہ تمہیں راضی
 کرتے ہیں

يَرْضَى = (رضي) (س) وہ راضی ہوتے ہیں
 يَرْضَيْنَ = (رضي) (س) وہ راضی رہیں گی

یَزْلِقُونَكَ (زلق) وہ تجھے پھسلا دیں گے	کرے گی
یَزُونُ = (زنی) (ض) وہ زنا کرتے ہیں	یُورِئُ = (رئی) (1) وہ دکھاتا ہے
یَزُونُ = (زنی) (ض) وہ (عورتیں) زنا کرتی ہیں	یُورِئُ = (رود) (1) وہ چاہتا ہے
یَزَوِّجُهُمْ = (زوج) (2) وہ ملا کر دیتا ہے	یُورِئُ = (رود) (1) وہ دونوں چاہتے ہیں
أُنْ كُو	یُورِئُ = (رود) (1) وہ چاہتے ہیں
یَزِيدُ = (زی) (ض) وہ زیادہ کرتا ہے	یُورِئُ = (رود) (1) وہ چاہتے ہیں
یَزِيدَنَّ = (زی) (ض) وہ ضرور بڑھاتا ہے	یَزَالُ = (زول) (ن) وہ ہمیشہ رہے گا
یَزِيدُونَ = (زی) (ض) وہ زیادہ کرتے ہیں	یَزَالُونَ = (زول) (ن) وہ ہمیشہ رہیں گے
یَزِيغُ = (زیغ) (ض) وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں	یَزِجِي = (زج) (و) (1) وہ چلاتا ہے
یَزِيدُ = (زی) (ض) وہ زیادہ دے گا	یَزِيدُ = (زی) (ض) وہ زیادہ دے گا
یَزِيدُ = (زی) (ض) وہ زیادہ ہوتا ہے	یَزِيدُ = (زی) (ض) وہ زیادہ ہوتا ہے
یَسَارِعُونَ = (سرع) (3) وہ جلدی کرتے ہیں	یَزِيدُونَ = (زی) (ض) وہ زیادہ ہو جائیں گے
یَسَاقُونَ = (سوق) (ن) وہ چلائے جاتے ہیں	یَزِيدُونَ = (زر) (ن) (ض) وہ اٹھائیں گے
یَسْبِتُوا = (سبت) (ض) وہ ہفتہ مناتے ہیں	یَزْعَمُونَ = (زعم) (ن) وہ گمان ردعویٰ کرتے ہیں
یَسْبِغُ = (سبغ) (2) وہ تسیج کرتا ہے	یَزِغُ = (زیغ) (ض) وہ پھر جائے گا
یَسْبِغْنَ = (سبغ) (2) وہ تسیج کرتی ہے	یَزِفُونَ = (زف) (ض) وہ
یَسْبِحُونَ = (سبح) (2) وہ تسیج کرتے ہیں	گھبراتے روڑتے ہیں
یَسْبِحْنَ = (سبح) (2) وہ تسیج کرتی ہے	یَزِثِّي = (زک) (و) (4) وہ پاک ہوتا ہے
یَسْبِحُونَ = (سبح) (2) وہ تسیج کرتے ہیں	یَزِثُّونَ = (زک) (و) (2) وہ پاک کرتے ہیں
یَسْبِحُونَ = (سبح) (2) وہ تسیج کرتے ہیں	یَزِثِّي = (زک) (و) (2) وہ پاک کرتا ہے

یَسْتَحْسِرُونَ (ح س ر) (9) وہ تھکتے ہیں	کرتے ہیں
یَسْتَحْيِي = (ح ی ی) (9) وہ شرماتا ہے	یَسْبَحُونَ = (س ب ح) (ف) وہ تیرتے ہیں
یَسْتَحْيُونَ = (ح ی ی) (9) وہ شرماتے ہیں	یَسْبِقُونَ = (س ب ق) (ض) وہ ہم سے آگے بڑھتے ہیں
یَسْتَحْرِجُوا = (خ ر ج) (9) وہ دونوں نکالیں گے	یَسْبِقُونَهُ = (س ب ق) (ض) وہ اس سے آگے بڑھتے ہیں
یَسْتَحِفَّنَكَ (خ ف ن) (9) وہ تمہیں ضرور ہلکا کریں گے	یَسْبُوا = (س ب ب) (ن) وہ گالی دیں گے
یَسْتَحْفُوا = (خ ف ی) (9) وہ چھپتے ہیں	یَسْتَبْدِلُ = (ب د ل) (9) وہ بدل دے گا
یَسْتَحْفُونَ = (خ ف ی) (9) وہ چھپتے ہیں	یَسْتَبْشِرُونَ (ب ش ر) (9) وہ خوش ہوتے ہیں
یَسْتَحْلِفُ = (خ ل ف) (9) وہ جانشین بناتا ہے	یَسْتَسْتَوُونَ = (س ت ن ی) (9) وہ استثناء کرتے ہیں
یَسْتَحْلِفَنَّهُمْ (خ ل ف) (9) وہ خلافت دے گا ان کو	یَسْتَجِيبُ = (ج و ب) (9) وہ جواب دیتا ہے
یَسْتَسْخِرُونَ (س خ ر) (9) وہ مذاق اڑاتے ہیں	یَسْتَجِيبُوا = (ج و ب) (9) وہ جواب دیں
یَسْتَضْرِخُهُ (ص ر خ) (9) وہ اس سے فریاد کرتا ہے	یَسْتَضْعِفُونَ (ض ع ف) (9) وہ کمزور کرتا ہے
یَسْتَضْعِفُ (ض ع ف) (9) وہ کمزور کرتا ہے	یَسْتَجِيبُونَ (ج و ب) (9) وہ جواب دیتے ہیں
یَسْتَضْعِفُونَ (ض ع ف) (9) وہ کمزور کیے جاتے ہیں	یَسْتَجِبُونَ = (ج ب ب) (9) وہ پسند کرتے ہیں
یَسْتَطِيعُ = (ط و ع) (9) وہ طاقت رکھتا ہے	
یَسْتَطِيعُ = (ط و ع) (9) وہ طاقت رکھتا ہے	

فتویٰ لیتے ہیں	يَسْتَعِيْبُوْنَ (ط و ع) (9) وہ طاقت رکھتے ہیں
يَسْتَفِزُّوْنَ = (ف ز ز) (9) وہ قدم اُکھڑے	يَسْتَعِجُّوْا = (ع ت ب) (9) وہ توبہ کرتے ہیں
يَسْتَفِزُّوْنَكَ (ف ز ز) (9) وہ تیرے	يُسْتَعَجَبُوْنَ = (ع ت ب) (9) اُن کی توبہ
قدم اُکھاڑتے ہیں	قبول کی جائے گی
يَسْتَفِدُّوْنَ (ق و م) (9) وہ آگے بڑھتے	يَسْتَعْجِلُ = (ع ج ل) (9) وہ جلدی چماتا ہے
ہیں	يَسْتَعْجِلُوْنَ (ع ج ل) (9) وہ جلدی
يَسْتَقِيْمُ = (ق و م) (9) وہ سیدھا ہے	چماتے ہیں
يَسْتَكْبِرُ = (ك ب ر) (9) وہ تکبر کرے	يَسْتَعْفِفُ = (ع ف ف) (9) وہ بچتا رہے
يَسْتَكْبِرُوْنَ (ك ب ر) (9) وہ تکبر کرتے ہیں	يَسْتَعْفِفَنَّ = (ع ف ف) (9) وہ بچیں
يَسْتَمِعُ = (س م ع) (9) وہ سنتا ہے	يَسْتَعْشَوْنَ = (ع ش ي) (9) وہ ڈھانپتے ہیں
يَسْتَمْعُوْنَ = (س م ع) (9) وہ سنتے ہیں	يَسْتَغْفِرُ = (غ ف ر) (9) وہ بخشش مانگتا ہے
يَسْتَنْبِطُوْنَهُ = (ن ب ط) (9) وہ اُس کی	يَسْتَغْفِرُوْا = (غ ف ر) (9) وہ بخشش
تحقیق کرتے ہیں	مانگیں
يَسْتَنْبِطُوْكَ (ن ب ط) (9) وہ آپ سے	يَسْتَغْفِرُوْنَ (غ ف ر) (9) وہ بخشش
پوچھتے ہیں	مانگتے ہیں
يَسْتَنْقُذُوْهُ = (ن ق ذ) (9) وہ چھڑا سکیں اُس	يَسْتَفِيْضِنَ = (غ و ث) (9) وہ دونوں فریاد
سے	کرتے ہیں
يَسْتَنْكِحَهَا (ن ك ح) (9) وہ اس سے	يَسْتَفِيْضُوْا = (غ و ث) (غ ي ث)
نکاح کرنا چاہے	(9) وہ فریاد کریں
يَسْتَنْكِفُ = (ن ك ف) (9) وہ عار سمجھے	يَسْتَفْتِحُوْنَ (ف ت ح) (9) وہ فتح کی
يَسْتَوْفُوْنَ = (و ف ي) (9) وہ پورا لیتے ہیں	و عا مانگتے ہیں
يَسْتَوْنَ = (س و ي) (7) وہ برابر ہوتے ہیں	يَسْتَفْتُوْنَكَ (ف ت ي) (9) وہ آپ سے

جائے	يُسْتَوِي = (س وی) (7) وہ برابر ہوتا ہے
يُسْجِنَنَّ = (س جن) (ن) وہ ضرور قید	يُسْتَوِيَان = (س وی) (7) وہ دونوں برابر
میں ڈالا جائے گا	ہوتے ہیں
يُسْجِنَنَّ = (س جن) (ن) وہ ضرور اسے	يُسْتَهْزِي = (ه زء) (9) وہ مذاق کرتا ہے
قید کریں گے	يُسْتَهْزِي = (ه زء) (9) اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے
يُسْجُبُونَ = (س جب) (ن) وہ گھسیٹے	يُسْتَهْزِيُونَ = (ه زء) (9) وہ مذاق کرتے ہیں
جائیں گے	يُسْتَأْخِرُونَ = (ع خ ر) (9) وہ دیر کرتے ہیں
يُسْجِتْكُمْ = (س ح ت) (1) وہ تمہیں	يُسْتَأْذِنُ = (ع ذ ن) (9) وہ اجازت مانگتا ہے
ہلاک کرے گا	يُسْتَأْذِنُوا = (ع ذ ن) (9) وہ اجازت مانگیں
يُسْخَرُ = (س خ ر) (س) وہ مذاق کرتا ہے	يُسْتَأْذِنُونَ = (ع ذ ن) (9) وہ اجازت
يُسْخَرُونَ = (س خ ر) (س) وہ مذاق کرتا	مانگتے ہیں
ہے	يُسْتَيِقِنُ = (ی ق ن) (9) وہ یقین کرتے ہیں
يُسْخَطُونَ = (س خ ط) (س) وہ ناراض	يُسْجُدُ = (س ج د) (ن) وہ سجدہ کرتا ہے
ہو جاتے ہیں	يُسْجُدَان = (س ج د) (ن) وہ دونوں سجدہ
يَسْرُ = (س ری) (ض) وہ چلنے رگزنے لگی	کرتے ہیں
يَسْرُ = (ی س ر) (2) تو آسان کر	يُسْجُدُوا = (س ج د) (ن) وہ سب سجدہ
يُسْرِي = (ی س ر) آسانی۔ بہت آسان	کرتے ہیں
يُسْرِفُ = (س ر ف) (1) وہ فضول اڑاتا ہے	يُسْجُدُونَ = (س ج د) (ن) وہ سب سجدہ
يُسْرِفُوا = (س ر ف) (1) وہ فضول خرچی	کرتے ہیں
کرتے ہیں	يُسْجَرُونَ = (س ج ر) (ن) وہ آگ میں
يُسْرِقُ = (س ر ق) (ض) وہ چوری کرے	جھونکے جائیں گے
يُسْرِقُن = (س ر ق) (ض) وہ عورتیں چوری	يُسْجِنَنَّ = (س جن) (ن) وہ قید میں ڈالا

حاصل کرتے ہیں

يَسْلُبُ = (س ل ب) (ن) وہ چھین لے
 يَسْلُطُ = (س ل ط) (2) وہ مسلط کرتا ہے
 يَسْلُكُ = (س ل ك) (ن) وہ چلاتا ہے
 يُسَلِّمُ = (س ل م) (1) وہ تابع بناتا ہے
 يُسَلِّمُوا = (س ل م) (2) وہ تسلیم قبول کر لیں
 يُسَلِّمُونَ = (س ل م) (1) وہ اسلام لاتے ہیں
 يَسْمَعُ = (س م ع) (س) وہ سنتا ہے
 يُسْمِعُ = (س م ع) (1) وہ سنائے
 يُسْمِعُوا = (س م ع) (س) وہ سب سنیں
 يُسْمِعُونَ = (س م ع) (س) وہ سب سنتے ہیں
 يَسْمَعُونَ = (س م ع) (4) وہ کام لگاتے ہیں
 يُسْمِنُ = (س م ن) (1) وہ موٹا کرتا ہے
 يُسْمُونُ = (س م و) (2) وہ نام رکھتے ہیں
 يُسَوِّمُ = (س م و) (ن) وہ سناٹا تکلیف دیتا ہے
 يُسَوِّمُونَكُمْ = (س م و) (ن) وہ سناٹے ہیں
 يُسَوِّءُ = (س و ع) (ن) وہ بگاڑ دے گا
 يُسْتَلُّ = (س ل ف) (ف) وہ پوچھتا ہے
 يُسْتَلُّ = (س ل ف) (ف) وہ پوچھا جاتا ہے
 يُسْتَلْنُ = (س ل ف) (ف) اُن سے ضرور

کریں

يَسْرُونَا = (ی س ر) (2) ہم نے آسان بنایا
 يُسِرُّونَ = (س ر ر) (1) وہ چھپاتے ہیں
 يَسْرَهُ = (ی س ر) (2) اُس نے اُسے آسان کر دیا
 يَسْطُرُونَ = (س ط ر) (ن) وہ لکھتے ہیں
 يَسْطُونَ = (س ط و) (ن) وہ حملہ کرتے ہیں
 يَسْعَى = (س ع ی) (ف) وہ دوڑتا کوشش کرتا ہے
 يَسْعُونَ = (س ع ی) (ف) وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں
 يَسْفِكُ = (س ف ك) (ض) وہ بہاتا ہے۔ وہ خون ریزی کرتا ہے
 يُسْقَى = (س ق ی) (ض) وہ پلایا جاتا ہے
 يُسْقُونَ = (س ق ی) (ض) وہ پلاتے ہیں
 يُسْقُونَ = (س ق ی) (ض) وہ پلائے جاتے ہیں
 يُسْقَى = (س ق ی) (ض) وہ پلاتا ہے
 يُسْقِينَ = (س ق ی) (ض) وہ مجھے پلاتا ہے
 يُسْكُنُ = (س ك ن) (ن) وہ رہتا ہے
 يُسْكِنُ = (س ك ن) (1) وہ روک دے
 يُسْكِنُوا = (س ك ن) (ن) وہ سکون

يُسْرُبُونَ = (ش رب) (س) وہ پتے ہیں

يُسْرَحُ = (ش رح) (ف) وہ کھولتا ہے

يُسْرِكُ = (ش رك) (1) اس کو شریک قرار

دیا جائے

يُسْرِكُ = (ش رك) (1) وہ شرک کرتا ہے

يُسْرِكُنْ = (ش رك) (1) وہ شرک کرتی ہیں

يُسْرِكُونَ = (ش رك) (1) وہ شرک

کرتے ہیں

يُسْرُونَ = (ش ري) (ض) وہ بیچتے ہیں

يُسْرِي = (ش ري) (ض) وہ بیچتا ہے

يُسْرِكُمْ = (ش ع ر) (1) وہ تمہیں آگاہ

کرتا ہے

يُسْرِعَنَّ = (ش ع ر) (1) وہ ضرور آگاہ

کرے گا

يُسْرُونَ = (ش ع ر) (ن) وہ سمجھتے ہیں

يُسْفِ = (ش ف ي) (ض) وہ شفا دے گا

يُسْفِعُ = (ش ف ع) (ف) وہ شفا عت

(سفارش) کرتا ہے

يُسْفِعُوا = (ش ف ع) (ف) وہ سفارش

کریں

يُسْفِعُونَ = (ش ف ع) (ف) وہ سفارش

کرتے ہیں

پوچھا جائے گا

يَسْأَلُوا = (س ءل) (ف) وہ مانگیں

پوچھیں

يَسْأَلُونَ = (س ءل) (ف) وہ پوچھتے ہیں

يُسْأَلُونَ = (س ءل) (ف) وہ پوچھے

جاتے ہیں

يَسْتَمُّ = (س ءم) (س) وہ اکتاتا ہے

يَسْتُمُونَ = (س ءم) (س) وہ اکتاتے ہیں

يَسِيرٌ = (ي س ر) آسان تھوڑا

يَسِيرٌ كُمْ = (س ي ر) (2) وہ تمہیں چلاتا ہے

يَسِيرُوا = (س ي ر) (ض) وہ چلتے ہیں

يُسَيِّعُهُ = (س و ع) (1) وہ آسانی سے نکلے

گا اُس کو

يُسَاقٍ = (ش ق ق) (3) وہ مخالفت کرتا ہے

يُسَاقِي = (ش ق ق) (3) وہ مخالفت کرتا ہے

يَسَاءٌ = (ش ي ء) (ف) وہ چاہتا ہے

يَسَاءُونَ = (ش ي ء) (ف) وہ چاہتے ہیں

يَسْتَرُوا = (ش ري) (7) وہ خریدتے ہیں

يَسْتَرِي = (ش ري) (7) وہ خریدتا حاصل

کرتا ہے

يَسْتَهُونَ = (ش و) (7) وہ خواہش کرتے ہیں

يَسْرَبٌ = (ش رب) (س) وہ پیتا ہے

يُصَبُّ = (ص ب) (1) وہ پہنچ جائے گا	يُشْفِي = (ش ف ي) (ض) وہ مجھے شفا دیتا ہے
يُصَبِّحُونَ = (ص ب ح) (1) ان کی صحبت اختیار کی جائے گی۔ ان کا ساتھ دیا جائے گا	يُشْفَى = (ش ق ي) (س) وہ مشقت میں پڑتا ہے۔ وہ بد بخت ہوتا ہے
يُصَدِّرُ = (ص در) (ن) وہ نکلے گا	يُشَقِّقُ = (ش ق ق) (4) وہ پھٹ جاتا ہے
يُصَدِّرُ = (ص در) (1) وہ لوٹائے رہائے گا	يُشْكُرُ = (ش ك ر) (ن) وہ شکر کرتے ہیں
يَصَدِّعُونَ = (ص د ع) (4) وہ جدا جدا ہوں گے	يُشْكُرُونَ = (ش ك ر) (ن) وہ شکر کرتے ہیں
يُصَدِّعُونَ = (ص د ع) (2) ان کو درس ہوگا	يُسْوَى = (ش و ي) (ض) وہ جھلس دیتا ہے
يُصَدِّقُونَ = (ص د ف) (ض) وہ کنارہ کشی کرتے ہیں	يُشْهِدُ = (ش ه د) (س) وہ گواہی دیتا ہے
يُصَدِّقُونَ = (ص د ق) (2) وہ میری تصدیق کرتے ہیں	يُشْهِدُوا = (ش ه د) (س) وہ گواہی دیتے ہیں
يَصَدِّقُوا = (ص د ق) (4) وہ صدقہ خیرات کریں گے	يُشْهِلُونَ = (ش ه ل) (س) وہ گواہی دیتے ہیں
يُصَدِّقُونَ = (ص د ق) (2) وہ تصدیق کرتے ہیں	يَشَاءُ = (ش ي ا) (ف) وہ چاہے گا
يَصَدِّقُوا = (ص د ق) (4) وہ صدقہ خیرات کریں گے	يَشَاءُ = (ش ي ا) (ف) وہ چاہتا ہے
يُصَدِّقُونَ = (ص د ق) (2) وہ تصدیق کرتے ہیں	يُصَبُّ = (ص ب ب) (ن) وہ ٹپکایا رڈالا جائے گا
يَصَدِّقُكُمْ = (ص د ق) (ن) وہ روکتا ہے تمہیں	يُصْبِحُ = (ص ب ح) (1) وہ ہوتا ہے
يُصَدِّقُونَ = (ص د ق) (ن) وہ ضرور روکے گا	يُصْبِحَنَّ = (ص ب ح) (1) وہ ضرور ہو جائیں گے
يُصَدِّقُونَ = (ص د ق) (ن) وہ ضرور تجھے روکے گا	يُصْبِحُوا = (ص ب ح) (1) وہ ہو جائیں گے
يُصَدِّقُوا = (ص د ق) (ن) وہ روکیں	يُصْبِرُ = (ص ب ر) (ض) وہ صبر کرے
يُصَدِّقُونَ = (ص د ق) (ن) وہ روکتے ہیں	يُصْبِرُوا = (ص ب ر) (ض) وہ صبر کریں

يَصِلُ = (وصل ل) (ض) وہ ملتا ہے	يَصِدُّونَ = (ص دو) (ض) وہ شور کرتے ہیں
يَصِلِي = (ص ل ي) (س) وہ آگ میں داخل ہوگا	يُصِرُّ = (ص ر ر) (1) وہ ضد کرتا ہے
يُصَلِّبُ = (ص ل ب) (ض) وہ سولی دیا جائے گا	يُصْرِفُ = (ص ر ف) (ض) وہ پھیرتا رہتا ہے
يُصَلِّبُوا = (ص ل ب) (2) وہ سولی دیے جائیں	يُصْرِفُ = (ص ر ف) (ض) وہ پھیرا بنایا جائے گا
يُصْلِحُ = (ص ل ح) (1) وہ اصلاح کرے گا	يُصْرِفُونَ = (ص ر ف) (ض) وہ پھیرے جاتے ہیں
يُصْلِحَا = (ص ل ح) (1) وہ دونوں اصلاح کریں گے	يُصْرِمُّهَا = (ص ر م) (ض) وہ ضرور کاٹیں گے
يُصْلِحُونَ = (ص ل ح) (1) وہ اصلاح کرتے ہیں	يُصِرُّوا = (ص ر ر) (1) وہ ضد کریں
يَصْلُوا = (وصل ل) (ض) وہ پہنچیں گے	يُصِرُّونَ = (ص ر ر) (1) وہ ضد کرتے ہیں
يُصَلُّوا = (ص ل و) (2) وہ نماز پڑھ لیں	يُصْطِرُّ خُونًا = (ص ر خ) (7) وہ فریاد
يَصَلُّونَ = (وصل ل) (س) وہ پہنچتے ہیں	يُصْطَفِي = (ص ف ء) (7) وہ چن لیتا ہے
يُصَلُّونَ = (ص ل ی) (س) وہ داخل ہوں گے	يُصْعَدُّ = (ص ع د) (س) وہ چڑھتا ہے
يُصَلُّونَ = (ص ل و) (2) وہ درود بھیجتے ہیں	يُصْعَدُّ = (ص ع د) (4) وہ زور سے چڑھتا ہے
يُصَلِّي = (ص ل و) (2) وہ نماز پڑھتا ہے۔ وہ درود بھیجتا ہے	يُصْعَقُونَ = (ص ع ق) (1) وہ بے ہوش کیے جائیں گے
يَضْمُهُ = (ص م ن) (ن) وہ روزے رکھے	يُصْفَحُوا = (ص ف ح) (ف) وہ درگزر کریں
اس کے	يُصْفُونَ = (وص ف) (ض) وہ بیان کرتے ہیں
يَضْعُ = (ص ن ع) (ف) وہ بناتا ہے	

یَضْرُوتُنَّ = (ض ر ر) (ن) وہ نقصان پہنچاتے ہیں	يَضْعَوْنَ = (ص ن ع) (ف) وہ بناتے ہیں
يَضَعُ = (ض ع) (ف) وہ اتارتا ہے	يُصَوِّرُ = (ص و ر) (2) وہ شکل و صورت بناتا ہے
يَضَعْنَّ = (ض ع) (ف) وہ جنسیں گی۔ وہ اُتاریں گی	يُضْهِرُ = (ص ه ر) (ف) وہ پگھلایا جائے گا
يَضِلُّ = (ض ل ل) (ض) وہ گمراہ ہوتا ہے	يُضَيِّبُ = (ص ب) (1) وہ پہنچے گا
يُضِلُّ = (ض ل ل) (1) وہ گمراہ کرتا ہے	يُضَارُّ = (ض ر ر) (3) اُن کو نقصان پہنچایا جائے
يُضِلُّ = (ض ل ل) (1) وہ گمراہ کیا جائے گا	يُضْعِفُ = (ض ع ف) (3) وہ بڑھا کر دیا جائے گا
يُضِلُّ = (ض ل ل) (1) وہ گمراہ کرتا ہے	يُضْعِفُ = (ض ع ف) (3) وہ بڑھاتا ہے روگنا کرتا ہے
يُضِلُّوا = (ض ل ل) (1) وہ گمراہ کرتے ہیں	يُضَاهِنُونَ = (ض ه ن) (3) وہ ریس کرتے ہیں
يُضِلُّونَ = (ض ل ل) (1) وہ گمراہ کرتے ہیں	يُضْحِكُونَ = (ض ح ك) (س) وہ ہنسیں
يُضِيعُ = (ض ي ع) (1) وہ ضائع کرتا ہے	يُضْحِكُونَ = (ض ح ك) (س) وہ ہنستے ہیں
يُضَيِّفُوهُمَا = (ض ي ف) (2) وہ اُن دونوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں	يَضْرَبُ = (ض ر ب) (ن) وہ نقصان پہنچاتا ہے
يُضَيِّقُ = (ض ي ق) (ض) وہ تنگ ہوتا ہے	يَضْرِبُ = (ض ر ب) (ض) وہ مارتا ہے
يُضِيءُ = (ض و ع) (1) وہ روشن کرتا ہے	يَضْرِبُنَّ = (ض ر ب) (ض) وہ عورتیں ماریں
يُطَاعُ = (ط و ع) (1) اس کی اطاعت کی جائے گی	يَضْرِبُونَ = (ض ر ب) (ض) وہ مارتے ہیں
يُطَافُ = (ط و ف) (1) وہ پھرایا لایا جائے	يَضْرَعُونَ = (ض ر ع) (4) وہ گڑ گڑاتے ہیں
	يَضْرُتُنَّ = (ض ر ر) (ن) وہ نقصان پہنچاتا ہے
	يَضْرُوتُنَّ = (ض ر ر) (ن) وہ نقصان پہنچاتے ہیں

گ

يُطَوَّقُونَ = (طوق) (2) اُن کو طوق پہنایا

جائے گا

يُطَهَّرُ = (طہر) (2) وہ پاک کرتا ہے

يُطَهَّرْنَ = (طہر) (ن-ک) وہ (عورتیں)

پاک ہو جائیں

يُطَنُّونَ = (وطء) (س) وہ پامال کریں گے

چلیں گے

يُطَيِّرُ = (طی ر) (ض) وہ اڑاتا ہے

يُطَيِّرُوا = (طی ر) (4) وہ منحوس سمجھتے ہیں

يُطِيعُ = (طوع) (1) وہ اطاعت کرتا ہے

يُطِيعُونَ = (طوع) (1) وہ اطاعت کرتے ہیں

يُطِيقُونَهُ = (طوق) (1) وہ اس کی طاقت

رکھتے نہیں رکھتے ہیں

يُظَاهِرُوا = (ظہر) (3) وہ مدد کرتے ہیں

يُظَاهِرُونَ = (ظہر) (3) وہ ظہار کرتے ہیں

يُظَلِّلْنَ = (ظل ل) (ف-س) وہ ہو جائیں

گے

يُظَلِّمُ = (ظل م) (ض) وہ ظلم کرتا ہے

يُظَلِّمُونَ = (ظل م) (ض) وہ ظلم کرتے ہیں

يُظَلِّمُونَ = (ظل م) (ض) اُن پر ظلم کیا جاتا ہے

يُظَنُّ = (ظن ن) (ن) وہ گمان کرتا ہے

يُظَنُّونَ = (ظن ن) (ن) وہ گمان کرتے ہیں

يُطَبِّعُ = (طب ع) (ف) وہ مہر لگاتا ہے

يُطِيعُ = (طوع) (1) وہ اطاعت کرتا ہے

يُطْعِمُ = (طع م) (س) وہ کھاتا ہے

يُطْعِمُ = (طع م) (1) وہ کھلایا جاتا ہے

يُطْعِمُ = (طع م) (1) وہ کھلاتا ہے

يُطْعِمُونَ = (طع م) (1) وہ کھلاتے ہیں

يُطْفِئُ = (طغ غ) (ف) وہ سرکشی کرتا ہے

يُطْفِئُوا = (طفء) (وہ بچاتے ہیں

يُطْلُبُ = (طل ب) (ن) وہ اُسے آیتا

ڈھونڈتا ہے

يُطْلِعُ = (طل ع) (1) وہ اطلاع کرے گا

يَطْمِئُنُّ = (طم ث) (ض) وہ اُن

(عورتوں) سے ہم بستری کرتا ہے

يُطْمَعُ = (طم ع) (ف) وہ لالچ کرتا ہے

يُطْمَعُونَ = (طم ع) (ف) وہ خواہش

کرتے ہیں

يُطْمِنُّ = (طم ن) (11) وہ اطمینان پاتا ہے

يُطَوِّفُ = (طوف) (ن) وہ طواف کرتا

گھومتا ہے

يُطَوِّفُ = (طوف) (4) وہ چکر لگاتا ہے

يُطَوَّقُونَ = (طوق) (ن) وہ چکر لگاتے ہیں

يَعْدِلُونَ = (ع دل) (ض) وہ انصاف

کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں

يَعْدُونَ = (ع دو) (ن) وہ زیادتی کرتے ہیں

يُعَذِّبُ = (ع ذب) (2) وہ عذاب دیتا ہے

يَعْرُجُ = (ع رج) (ن) وہ چڑھتا ہے

يَعْرِشُونَ = (ع رش) (ض-ن) وہ چھت

بناتے ہیں

يُعْرِضُ = (ع رض) (1) وہ منہ پھیرے گا

يُعْرِضُ = (ع رض) (1) وہ پیش کیا جائے گا

يُعْرِضُوا = (ع رض) (1) وہ منہ پھیرتے ہیں

يُعْرِضُونَ = (ع رض) (1) وہ پیش کیے

جائیں گے

يُعْرِفُ = (ع رف) (ض) وہ پہچانا جاتا ہے

يُعْرِفُنَّ = (ع رف) (ض) وہ پہچانی جائیں گی

يُعْرِفُوا = (ع رف) (ض) وہ پہچانتے ہیں

يُعْرِفُونَ = (ع رف) (ض) وہ پہچانتے ہیں

يُعْزِبُ = (ع زب) (ن) وہ عائب ہوتا

ہے/چھپتا ہے

يُعْشُ = (ع ش و) (ن) وہ اندھا بنتا ہے

يُعْصِ = (ع ص ی) (ض) وہ نافرمانی کرتا ہے

يُعْصِرُونَ = (ع ص ر) (ض) وہ نچوڑتے ہیں

يُعْصِمُ = (ع ص م) (ض) وہ بچالے گا

يُظْهِرُ = (ظہر) (1) وہ ظاہر کرتا ہے

يُظْهِرُوا = (ظہر) (ف) وہ غالب آئیں

گے/خبر پائیں گے

يُظْهِرُونَ = (ظہر) (ف) وہ غالب آتے

ہیں

يُعْبُدُ = (ع ب د) (ن) وہ عبادت کرتا ہے

يُعْبُدُوا = (ع ب د) (ن) وہ عبادت کریں

يَعْبُدُونَ = (ع ب د) (ن) وہ عبادت

کرتے ہیں

يُعْبُدُونَ = (ع ب د) (ن) ان کی عبادت

کی جاتی ہے

يُعْبُوا = (ع ب ء) (ف) وہ پروا کرے گا

يَعْتَدُونَ = (ع دو) (7) وہ زیادتی کرتے ہیں

يَعْتَدِرُونَ = (ع ذر) (7) وہ بہانے بناتے ہیں

يَعْتَزِلُونَكُمْ = (ع زل) (7) وہ تم سے الگ

رہیں گے

يَعْتَصِمُ = (ع ص م) وہ مضبوط پکڑتا ہے

يُعْجِبُ = (ع ج ب) (1) وہ اچھا لگتا ہے

يُعْجِزُ = (ع ج ز) وہ عاجز کر دے گا

يُعْجِزُونَ = (ع ج ز) وہ عاجز کریں گے

يُعْجِلُ = (ع ج ل) (2) وہ جلدی کرتا ہے

يَعْدُ = (ع د) (ض) وہ وعدہ کرتا ہے

يُعْلَمُ = (ع ل م) (س) وہ معلوم ہو جائے گا	يَعْضُونَ = (ع ص ي) (ض) وہ نافرمانی کرتے ہیں
يُعْلَمُ = (ع ل م) (2) وہ سکھاتا ہے	يَعْصِيكَ = (ع ص ي) (ض) وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں
يُعْلَمْنَ = (ع ل م) (س) وہ ضرور معلوم کرے گا	يَعْضُ = (ع ض) (س) وہ دانت کاٹے گا
يَعْلَمُوا = (ع ل م) (س) وہ جان لیں گے	يُعْطُوا = (ع ط و) (1) اُن کو دیا جائے گا
يَعْلَمُونَ = (ع ل م) (س) وہ جانتے ہیں	يُعْطُوا = (ع ط و) (1) وہ دیں گے
يُعْلَمُونَ = (ع ل م) (2) وہ سکھاتے ہیں	يُعْطِيكَ = (ع ط و) (1) وہ دے گا تجھے
يُعْلِنُونَ = (ع ل ن) (1) وہ ظاہر کرتے ہیں	يَعْظُ = (ع ظ) (ض) وہ نصیحت کرتا ہے
يُعْمَرُ = (ع م ر) (ن) وہ آباد کرتا ہے	يُعْظِمُ = (ع ظ م) (2) وہ تعظیم کرتا ہے
يُعْمَرُ = (ع م ر) (2) اس کو لمبی عمر دی جاتی ہے	يُعْظِمُ = (ع ظ م) (1) وہ بڑا کر کے دے گا
يُعْمَرُوا = (ع م ر) (ن) وہ آباد کریں	يَعْفُ = (ع ف و) (ن) وہ معاف کرتا ہے
يَعْمَلُ = (ع م ل) (س) وہ کام کرتا ہے	يَعْفُوا = (ع ف و) (ن) وہ معاف کرتا ہے
يَعْمَلُونَ = (ع م ل) (س) وہ کام کرتے ہیں	يَعْفُونَ = (ع ف و) (ن) وہ معاف کرتے ہیں
يَعْمَهُونَ = (ع م ه) (ف س) وہ بھٹکتے ہیں	يَعْقَبُ = (ع ق ب) (2) وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے
يَعْوَدُوا = (ع و د) (ن) وہ واپس لوٹیں گے	يَعْقِلُ = (ع ق ل) (ض) وہ عقل سے کام لیتا ہے
يَعْوَدُونَ = (ع و د) (ن) وہ واپس لوٹتے ہیں	يَعْقِلُونَ = (ع ق ل) (ض) وہ عقل سے کام لیتے ہیں
يَعِي = (ع ي ي) (س) وہ تھکتا ہے	يَعْكُفُونَ = (ع ك ف) (ن) وہ جھپٹتے ہیں
يُعِيدُ = (ع و د) (1) وہ دوبارہ کرے گا	يَعْلَمُ = (ع ل م) (س) وہ جانتا ہے
يُعِيدُوا = (ع و د) (1) وہ لوٹائیں گے	
يُعَاثُ = (ع ي ث) (ض) خوب بارش ہوگی	

کرتے ہیں	يُغَاثُوا = (غ و ث) (1) ان کی فریادری کی
جائے گی	يُغْلَبُ = (غ ل ل) (ن) وہ خیانت کرتا ہے
يُغَادِرُ = (غ د ر) (3) وہ چھوڑتا ہے	يُغَلِبُ = (غ ل ب) (ض) وہ غالب آئے
يُغْتَبِ = (غ ی ب) (7) وہ غیبت کرتا ہے	يُغَلِبُوا = (غ ل ب) (ض) وہ غالب آئیں
يُغُرُّ لَكَ = (غ ر ر) (ن) وہ دھوکے میں	يُغَلِبُونَ = (غ ل ب) (ض) وہ غالب
ڈالے تجھے	آتے ہیں
يُغْرَقُ = (غ ر ق) (1) وہ غرق کر دے	يُغَلَبُونَ = (غ ل ب) (ض) وہ مغلوب ہوتے ہیں
يُغَرِّنُ = (غ ر ر) (ن) وہ ضرور دھوکا دے گا	يُغْلَلُ = (غ ل ل) (ن) وہ خیانت کرے گا
يُغْشَى = (غ ش ی) (س) وہ ڈھانپتا ہے	يُغْلِي = (غ ل ی) (ض) وہ جوش مارے گا
يُغْشَى = (غ ش ی) (س) اس پر بے ہوشی	يُغْنِ = (غ ن ی) (1) وہ کام آتا ہے غمی کرتا ہے
طاری کی جاتی ہے	يُغْنُوا = (غ ن ی) (س) وہ رہتے ہیں
يُغْشَى = (غ ش ی) (1) وہ ڈھانپتا ہے	يُغْنُوا = (غ ن ی) (1) وہ کام آئیں گے
يُغْشِيكُمْ = (غ ش ی) (2) وہ تم کو ڈھانپے گا	يُغْنِي = (غ ن ی) (1) وہ غمی رو دلت مند
يُغْضِضُنَّ = (غ ض ض) (ن) وہ (عورتیں)	کرے گا
پنچی رکھیں	يُغْنِيَا = (غ ن ی) (1) وہ دونوں کام آئیں گے
يُغْضُوا = (غ ض ض) (ن) وہ پنچی رکھیں	يُغْوِضُونَ = (غ و ض) (ن) وہ غوطہ لگاتے
يُغْضُونَ = (غ ض ض) (ن) وہ پنچی رکھتے	ہیں
ہیں	يُغْوِيكُمْ = (غ و ی) (1) وہ تمہیں بھٹکا دے گا
يُغْفِرُ = (غ ف ر) (ض) وہ بخشتا ہے	يُغْفِرُ = (غ ی ر) (2) وہ بدلتا ہے
يُغْفِرُ = (غ ف ر) (ض) وہ بخشتا جاتا ہے	يُغْفِرَنَّ = (غ ی ر) (2) وہ ضرور بدلیں گے
يُغْفِرُوا = (غ ف ر) (ض) وہ معاف کر دیں	يُغْفِرُوا = (غ ی ر) (2) وہ بدلتے ہیں
يُغْفِرُونَ = (غ ف ر) (ض) وہ معاف	يُغَيِّطُ = (غ ی ط) (ض) وہ غصہ دلاتا ہے

يُفَجِّرُونَ = (ف ج ر) (2) وہ بہائیں
نکالیں گے

يُفِرُّ = (ف ر ر) (ض) وہ بھاگتا ہے

يُفْرِحُ = (ف ر ح) (س) وہ خوش ہوتا ہے

يُفْرِحُوا = (ف ر ح) (س) وہ خوش ہوں

يُفْرِحُونَ = (ف ر ح) (س) وہ خوش ہوتے ہیں

يُفْرِطُ = (ف ر ط) (ن) وہ حد سے بڑھتا ہے

يُفْرِطُونَ = (ف ر ط) (2) وہ کوتاہی کی

کرتے ہیں

يُفْرِقُ = (ف ر ق) (وہ فیصلہ رطے کیا جاتا ہے

يُفْرِقُوا = (ف ر ق) (2) وہ پھوٹ ڈالتے ہیں

يُفْرِقُونَ = (ف ر ق) (س) وہ ڈرتے ہیں

يُفْرِقُونَ = (ف ر ق) (2) وہ پھوٹ ڈالتے ہیں

يُفْسِحُ = (ف س ح) (ف) وہ کھلی جگہ دے گا

يُفْسِدُ = (ف س د) (1) وہ فساد کرتا ہے

يُفْسِدُوا = (ف س د) (1) وہ فساد کریں

يُفْسِدُونَ = (ف س د) (1) وہ فساد کرتے

ہیں

يُفْسِقُونَ = (ف س ق) (ن) وہ نافرمانی

کرتے ہیں

يُفْصِلُ = (ف ص ل) (ض) وہ فیصلہ کرتا ہے

يُفْصِلُ = (ف ص ل) (2) وہ کھول کر بیان

يَفْتَحُ = (ف ت ح) (ف) وہ کھولتا ہے

يَفْتَدُوا = (ف د ی) (7) وہ ندریدیں گے

يَفْتَدِي = (ف د ی) (7) وہ ندریہ ربدلہ دیتا ہے

يَفْتَرُ = (ف ت ر) (2) وہ ہلکا کیا جائے گا

يَفْتَرِي = (ف ر ی) (7) وہ گھڑ لیا جائے گا

يَفْتَرُونَ = (ف ر ی) (7) وہ گھڑتے ہیں

يَفْتَرُونَ = (ف ت ر) (ن) وہ رکتے ہیں

يَفْتَرِي = (ف ر ی) (7) وہ گھڑتا ہے

يَفْتَرِيْنَهُ = (ف ر ی) (7) وہ اس کو گھڑتی ہے

يَفْتِنُ = (ف ت ن) (ض) وہ آزمائش میں

ڈالتا ہے

يَفْتِنَنَّكُمْ = (ف ت ن) (ض) وہ تمہیں

ضرور آزمائے گا

يَفْتِنُوكَ = (ف ت ن) (ض) وہ تجھے

بہکائیں گے

يُفْتِنُونَ = (ف ت ن) (ض) ان کو فتنے میں

ڈالا جاتا ہے

يُفْتِنُونَ = (ف ت ن) (ض) وہ بہکائیں

گے

يُفْتِيْكُمْ = (ف ت ی) (1) وہ تمہیں فتویٰ

فیصلہ دیتا ہے

يَفْجَرُ = (ف ج ر) (ن) وہ گناہ کرتا ہے

یُقْبَلُ = (ق ب ل) (س) وہ قبول کرتا ہے	کرتا ہے
یُقْبَلُ = (ق ب ل) (س) وہ قبول کیا جاتا ہے	يَفْعَلُ = (ف ع ل) (ف) وہ کرتا ہے
يُقْبَلُونَ = (ق ب ل) (ن) وہ قبول کرتے ہیں	يُفْعَلُ = (ف ع ل) (ف) وہ کیا جائے گا
يَقْتَرِفُ = (ق ر ف) (7) وہ کماتا ہے	يَفْعَلُوا = (ف ع ل) (ف) وہ کریں
يَقْتَرِفُوا = (ق ر ف) (7) وہ کماتے ہیں	يَفْعَلُونَ = (ف ع ل) (ف) وہ کرتے ہیں
يَقْتُرُوا = (ق ت ر) (ن) وہ تنگی بخیل کرتے ہیں	يَفْقَهُوا = (ف ق ه) (س) وہ سمجھیں
يُقْتَلُ = (ق ت ل) (ن) وہ قتل کرتا ہے	يَفْقَهُونَ = (ف ق ه) (س) وہ سمجھتے ہیں
يُقْتَلُ = (ق ت ل) (ن) وہ قتل کیا جاتا ہے	يُفْلِحُ = (ف ل ح) (1) وہ کامیاب ہوتا ہے
يُقْتَلْنَ = (ق ت ل) (ن) وہ قتل کریں گی	يُقْبَلِ حُونَ = (ق ب ل ح) (1) وہ کامیاب ہوتے ہیں
يُقْتَلُوا = (ق ت ل) (2) وہ قتل کیے جائیں	يُقَاتِلُ = (ق ت ل) (3) وہ لڑتا ہے
يُقْتُلُونَ = (ق ت ل) (2) وہ قتل کرتے ہیں	يُقَاتِلُوا = (ق ت ل) (3) وہ لڑیں
یُقْتَلُونَ = (ق ت ل) (ن) وہ قتل کرتے ہیں	يُقْتَلُونَ = (ق ت ل) (3) اُن سے لڑائی کی جاتی ہے
يُقْتَلُونَ = (ق ت ل) (ن) وہ قتل کیے جاتے ہیں	يُقَاتِلُونَ = (ق ت ل) (3) وہ لڑتے ہیں
يُقْتَلُونَ = (ق ت ل) (2) وہ قتل کرتے ہیں	يُقَالُ = (ق و ل) (ن) اُسے کہا جاتا ہے
يُقَدِّرُ = (ق د ر) (ض) وہ نیک کرے	يُقْبِضُ = (ق ب ض) (ض) وہ بند رکھی کرتا ہے
يُقَدِّرُ = (ق د ر) (2) وہ اندازہ کرتا ہے	یُقْبِضُونَ = (ق ب ض) (ض) وہ بند کرتی ہے
يُقَدِّرُونَ = (ق د ر) (ض) وہ قدرت رکھتے ہیں	يُقْبِضُونَ = (ق ب ض) (ض) وہ بند کرتی ہے
يُقَلِّمُ = (ق ل م) (ن) وہ آگے چلا گا	يُقْبِضُونَ = (ق ب ض) (ض) وہ روکتے ہند کرتے ہیں
يُقَذِّفُ = (ق ذ ف) (ض) وہ پھینکتا ہے	

يُكْذِبُونَ = (ك ذ ب) (2) وہ جھٹلائیں

يُكْذِبُونَ = (ك ذ ب) (2) وہ جھٹلاتے

ہیں

يَكْذِبُونَ = (ك ذ ب) (ض) وہ جھوٹ

بولتے ہیں

يَكْزِبُونَ = (ك ر ه) (س) وہ ناپسند

کرتے ہیں

يُكْزِبُونَ = (ك ر ه) (1) وہ اُن

(عورتوں) کو مجبور کرتا ہے

يَكْسِبُ = (ك س ب) (ض) وہ کماتا ہے

يَكْسِبُونَ = (ك س ب) (ض) وہ کماتے

ہیں

يَكْشِفُ = (ك ش ف) (ض) وہ کھولتا ہے

يَكْشِفُ = (ك ش ف) (ض) وہ کھول دیا

جائے گا

يَكْفُ = (ك ف ي) (ض) وہ کافی ہے

يَكْفُ = (ك ف ن) (ن) وہ بازار کھر

روکے گا

يَكْفُرُ = (ك ف ر) (ن) وہ کفر اٹکار کرتا

ہے

يَكْفُرُ = (ك ف ر) (ن) اس کا انکار کیا

جاتا ہے

يُقِيمَا = (ق و م) (1) وہ دونوں قائم کریں

يُقِيمُوا = (ق و م) وہ قائم کریں

يُقِيمُونَ = (ق و م) وہ قائم کرتے ہیں

يَقِينُ = (ي ق ن) یقین - موت

يَلُكُ = (ك و ن) (ن) وہ ہے / ہوتا ہے /

تھا

يَكَاذُ = (ك و د) (س-ك) وہ قریب ہوتا ہے

يَكَاذُونَ = (ك و د) (س-ك) وہ قریب

ہوتے ہیں

يَكْسِبُ = (ك ب ت) (ض) وہ ذلیل

کرے گا

يَكْبُرُ = (ك ب ر) (ن) وہ بڑا ہوتا ہے

يَكْبُرُوا = (ك ب ر) (ك) وہ بڑے ہو

جائیں گے

يَكْتُبُ = (ك ت ب) (ن) وہ لکھتا ہے

يَكْتُبُونَ = (ك ت ب) (ن) وہ لکھتے ہیں

يَكْتُمُ = (ك ت م) (ن) وہ چھپاتا ہے

يَكْتُمُنَ = (ك ت م) (ن) وہ چھپاتی ہیں

يَكْتُمُونَ = (ك ت م) (ن) وہ چھپاتے

ہیں

يَكْذُ = (ك و د) (س-ك) وہ قریب تھا

يُكْذِبُ = (ك ذ ب) (2) وہ جھٹلاتا ہے

يُلْقُونَ = (ل ق ی) (1) وہ ڈالتے ہیں	يُلْقِطُ = (ل ق ط) (7) وہ اٹھالے گا
يُلْقُونَ = (ل ق ی) (2) اُن کو پہنچے کر لے گا	يُلْقِيْنَ = (ل ق ی) (7) وہ دونوں ملتے ہیں
يُلْقِيهِ = (ل ق ی) (1) وہ اس کو ڈال دے	يُلْقِيْكُمْ = (ل ی ت) (ض) وہ تم کو کم دے گا
يُلْمِزُكَ = (ل م ز) (ض) وہ تجھے طعنہ دیتا ہے	يُلْجُ = (و ل ج) (ض) وہ داخل ہوتا ہے
يُلْمِزُونَ = (ل م ز) (ض) وہ عیب نکالتے ہیں	يُلْجِدُونَ = (ل ح د) (1) وہ حق سے پھرتے ہیں
يُلُونُ = (ل ی ی) (ن) وہ موڑتے ہیں	يُلْحَقُوا = (ل ح ق) (س) وہ ملتے ہیں
يُلُونَكُمْ = (و ل ی) (ن) وہ تمہارے قریب رہتے ہیں	يُلِدُّ = (و ل د) (ض) وہ جنمے گا
يُلْهَثُ = (ل ه ث) (ف) وہ ہانپتا ہے	يُلِدُّوْا = (و ل د) (ض) وہ جنیں گے
يُلْهِمُهُمْ = (ل ه و) (1) وہ غافل رکھے اُن کو	يُلْعَبُ = (ل ع ب) (س) وہ کھیلتا ہے
يُمَارُونَ = (م ر ی) (3) وہ جھگڑا کرتے ہیں	يُلْعَبُوا = (ل ع ب) (س) وہ کھیلیں
يُمْتُ = (م و ت) (ن) وہ مرتا ہے	يُلْعَبُونَ = (ل ع ب) (س) وہ کھیلتے ہیں
يُمْتَرُونَ = (م ر ی) (7) وہ شک کرتے ہیں	يُلْعَنُ = (ل ع ن) (ف) وہ لعنت کرتا ہے
يُمْتَعِكُمْ = (م ت ح) (2) وہ تمہیں فائدہ دے گا	يُلْفِظُ = (ل ف ظ) (ض) وہ بولتا ہے
يُمْتَعُونَ = (م ت ح) (2) ان کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے	يُلْقَى = (ل ق ی) (س) وہ ملتا ہے
يُمُحُّ = (م ح و) (ن) وہ مٹاتا ہے	يُلْقِيْ = (ل ق ی) (1) وہ ڈالتا ہے
يُمَحِّصُ = (م ح ص) (2) وہ خالص صاف کرتا ہے	يُلْقِيْهِ = (ل ق ی) (س) وہ اُسے پائے دیکھے گا
	يُلْقِيْهَا = (ل ق ی) (2) وہ اسے سکھایا جاتا ہے
	يُلْقُوا = (ل ق ی) (1) وہ ڈالیں گے
	يُلْقُونَ = (ل ق ی) (س) وہ ملاقات کریں گے

يَمْلِكُونَ = (م ل ک) (ض) وہ مالک

ہوتے ہیں

يُمْلِلُ = (م ل ل) وہ لکھوائے

يُمْنُ = (م ن ن) (ن) وہ احسان کرتا ہے

يُمْنِي = (م ن ی) (ا) وہ ٹپکا یا جاتا ہے

يَمْنَعُونَ = (م ن ع) (ف) وہ روکتے ہیں

يَمْنُونُ = (م ن ن) (ن) وہ احسان کرتے ہیں

يُمْنِي = (م ن ی) (2) وہ آرزوئیں دلاتا ہے

يَمُوتُ = (م و ت) وہ مرتا ہے

يَمُوتُوا = (م و ت) (ن) وہ مرتا ہیں

يَمُوتُونَ = (م و ت) (ن) وہ مرتے ہیں

يُمُوجُ = (م و ج) (ن) وہ موج لہر مارے گا

يَمْهَدُونَ = (م ه د) (ف) وہ جگہ بناتے ہیں

يُمِيتُ = (م و ت) (1) وہ موت دیتا ہے

يَمِيزُ = (م ی ز) (ض) وہ الگ کرتا ہے

يَمِيلُونَ = (م ی ل) (ض) وہ جھکیں رحلہ

کریں گے

يَمِينُ = (ی م ن) دایاں ہاتھ۔ قسم

يَنَابِيعُ = (ن ب ع) پانی کی چشمے

يُنَادِ = (ن د ی) (3) وہ پکارے گا

يُنَادُونَ = (ن د ی) (3) وہ پکارے جائیں

گے

يَمَحِقُ = (م ح ق) (ف) وہ مٹاتا ہے

يَمْدُدُ = (م د د) (ن) وہ ڈھیل دیتا ہے

يُمَدِّدُكُمْ = (م د د) (1) وہ تمہاری مدد کرے گا

يُمَدِّدُكُمْ = (م د د) (ن) وہ تمہاری مدد

کرے گا

يَمْدُونَهُمْ = (م د و) وہ اُن کو کھینچتے ہیں

يَمْدُ = (م د د) (ن) وہ کھینچتا ہے

يَمْرُونُ = (م ر ر) (ن) وہ گزرتے ہیں

يَمْسَسُ = (م س س) (س) وہ چھوئے گا

يَمْسُ = (م س س) (س) وہ چھوتا ہے

يُمْسِكُ = (م س ک) (1) وہ روکتا ہے

يُمْسِكُونَ = (م س ک) (2) وہ تھامتے ہیں

يَمْسَنُ = (م س س) (س) وہ ضرور پھینچے گا

يَمْشُونَ = (م ش ی) (ض) وہ چلتے ہیں

يَمْشِي = (م ش ی) (ض) وہ چلتا ہے

يَمْكُثُ = (م ک ث) (ن) وہ رہتا ہے

يَمْكُرُ = (م ک ر) (ن) وہ مکر کرتا ہے

يَمْكُرُونَ = (م ک ر) (ن) وہ مکر کرتے ہیں

يُمَكِّنَنَّ = (م ک ن) (2) وہ ضرور طاقت

دے گا

يُمِلُّ = (م ل ل) (1) وہ لکھوائے

يُمِلِكُ = (م ل ک) وہ مالک ہوتا ہے

يُنْتَهُوْا = (نہی) (7) وہ باز آ جائیں
 يَنْتَهُوْنَ = (نہی) (7) وہ باز آتے ہیں
 يَنْجِيْ = (نجات) (2) وہ نجات دیتا ہے
 يُنْجِيْهِ = (نجات) (1) وہ نجات دے اُس کو
 يَنْجُوْنَ = (نجات) (ض) وہ تراشتے ہیں
 يَنْذِرُ = (نذر) (1) وہ ڈراتا ہے
 يَنْذِرُوْا = (نذر) (نذر) وہ ڈرائیں
 يَنْذِرُوْا = (نذر) (1) وہ ڈرائیں جائیں
 يَنْذِرُوْنَ = (نذر) (نذر) وہ ڈراتے ہیں
 يَنْذِرُوْنَ = (نذر) (1) وہ ڈراتے ہیں
 يَنْزِعُ = (نزع) (ض) وہ اُتارتا رکھتا ہے
 يَنْزِعُ = (نزع) (ف) وہ وسوسہ ڈالتا ہے
 يَنْزِعُ غَنَكُ = (نزع) (ف) وہ تجھے فتنہ
 شے میں ڈالے گا
 يَنْزِفُوْنَ = (نزع) (ض) وہ بہکائے
 جائیں گے
 يَنْزِفُوْنَ = (نزع) (1) وہ بے ہوش ہوں
 گے
 يَنْزِلُ = (نزل) (ض) وہ اترتا ہے
 يَنْزِلُ = (نزل) (2) وہ اُتارتا ہے
 يَنْزِلُ = (نزل) (2) وہ اُتارتا ہے
 يَنْزِلُ = (نزل) (2) وہ اُتارتا ہے
 يَنْسِيْ = (نسی) (س) وہ بھولتا ہے

يُنَادُوْنَ = (نہی) (3) وہ پکارتے ہیں
 يُنَادِيْ = (نہی) (3) وہ پکارتا ہے
 يُنَاذِرُ غَنَكُ = (نزع) (3) وہ تجھ سے
 ضرور جھگڑا کرتا ہے
 يَنَالُ = (نیل) (س) وہ پہنچتا ہے
 يَنَالُوْا = (نیل) (س) وہ پہنچتے
 يَسْأَلُوْنَ = (نیل) (س) وہ لیتے رہتے ہیں
 یں لیتے ہیں
 يُنَبِّئُ = (نبت) (1) وہ اُگاتا ہے
 يُنْبِئُنَّ = (نبت) (ن) اُسے ضرور پھیکا
 جائے گا
 يَنْبَغِيْ = (نغی) (6) وہ لائقِ ردِ راست
 ہوتا ہے
 يَنْبُوْعًا = (نبع) (پانی) کا چشمہ
 يَنْبَأُ = (نباء) (2) اُسے بتایا جائے گا
 يَنْبَأُ = (نباء) (2) اُسے بتایا جائے گا
 يَنْبَأُ = (نباء) (2) وہ بتائے گا
 يَنْتَصِرُوْنَ = (نصر) (7) وہ بدلہ لیتے ہیں
 يَنْتَظِرُ = (نظر) (7) وہ انتظار کرتا ہے
 يَنْتَظِرُوْنَ = (نظر) (7) وہ انتظار کرتے ہیں
 يَنْتَقِمُ = (نقم) (7) وہ بدلہ لیتا ہے
 يَنْتَهِيْ = (نہی) (7) وہ باز آتا ہے

یُنْظَرُونَ = (ن ظ ر) (ن) اُن کو مہلت دی جائے گی	یَنْسَخُ = (ن س خ) (ف) وہ منسوخ کرتا رہتا ہے
یَنْعُقُ = (ن ع ق) (ض) وہ پکارتا ہے	يَنْسِفُ = (ن س ف) (ض) وہ بکھیر دے گا
يَنْغَضُونَ = (ن غ ض) (1) وہ ہلاتے جھکاتے ہیں	يَنْسِلُونَ = (ن س ل) (ض) وہ دوڑتے ہیں
يُنْفِخُ = (ن ف خ) (ف) وہ پھونکا جاتا ہے	يُنْسِيَنَّكَ = (ن س ی) (1) وہ تجھ کو بھلا دے گا
يَنْفِذُ = (ن ف ذ) (س) وہ ختم ہوتا ہے	يَنْشُرُ = (ن ش ر) (ن) وہ پھیلاتا ہے
يَنْفِرُوا = (ن ف ر) (ض) وہ نکلیں	يُنْشِرُونَ = (ن ش ر) (1) وہ زندہ/پیدا کریں گے
يَنْفُضُوا = (ن ف ض) (8) وہ بھاگیں	يُنْشِئُوا = (ن ش ء) (2) وہ پرورش پاتا ہے
يَنْفَعُ = (ن ف ع) (ف) وہ نفع دیتا ہے	يُنْشِئُ = (ن ش ء) (1) وہ پیدا کرتا ہے
يَنْفَعُونَ = (ن ف ع) (ف) وہ نفع دیتے ہیں	يَنْصُرُ = (ن ص ر) (ن) وہ مدد کرتا ہے
يَنْفِقُ = (ن ف ق) (1) وہ خرچ کرتا ہے	يَنْصُرُونَ = (ن ص ر) (ن) وہ ضرور مدد کریگا
يَنْفِقُوا = (ن ف ق) (1) وہ خرچ کریں	يُنْصِرُونَ = (ن ص ر) (ن) ان کی مدد کی جائے گی
يُنْفِقُونَ = (ن ف ق) (1) وہ خرچ کرتے ہیں	يُنْصِرُونَ = (ن ص ر) (ن) وہ مدد کرتے ہیں
يَنْفِقُوا = (ن ف ی) (ض) وہ جلا وطن کیے جائیں	يَنْطِقُ = (ن ط ق) (ض) وہ بولتا ہے
يُنْقَلُونَ = (ن ق ذ) (1) وہ چھڑائے جاتے ہیں	يَنْطِقُونَ = (ن ط ق) (ض) وہ بولتے ہیں
يُنْقَدُونَ = (ن ق ذ) (1) وہ چھڑاتے ہیں	يَنْطَلِقُ = (ن ط ل ق) (6) وہ چلتا ہے
يُنْقِصُ = (ن ق ص) (ن) وہ کم کیا جاتا ہے	يَنْظُرُ = (ن ظ ر) (ن) وہ دیکھتا ہے
يُنْقِصُوا = (ن ق ص) (ن) وہ کم کریں	يُنْظَرُوا = (ن ظ ر) (ن) انہوں نے دیکھا
يَنْقِصُ = (ن ق ض) (6) وہ ٹوٹے رگرے گا	يُنْظَرُونَ = (ن ظ ر) (ن) وہ دیکھتے ہیں

يُوجِّهُهُ = (وجہ) (2) وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے

يُوحِّ = (وحی) (1) وحی بھیجی گئی

يُوحِّحِي = (وحی) (1) وحی بھیجی جاتی ہے

يُوحُّونَ = (وحی) (1) وہ وسوسہ ڈالتے ہیں

يُوحِّجِي = (وحی) (1) وہ وحی کرتا ہے

يُودُّ = (ودد) (س) وہ چاہتا ہے

يُودُّوْا = (ودد) (س) وہ چاہیں گے

يُورِّثُ = (ورث) (1) اس کا وارث بنایا

جاتا ہے

يُورِّثُ = (ورث) (1) وہ وارث/مالک

بناتا ہے

يُورِّعُونَ = (ورع) (ن) ان کو روک کر ان کی

تولیاں بنائی جاتی ہیں

يُوسِّسُ = (وسس) (10) وہ وسوسہ ڈالتا ہے

يُوصِي = (وصی) (1) اس کی وصیت کی

جاتی ہے

يُوصِّلُ = (وصل) (ض) اس کو ملایا/جوڑا

جائے

يُوصِي = (وصی) (1) وہ وصیت کرتا ہے

يُوصِيْنَ = (وصی) (1) وہ (عورتیں)

وصیت کریں

يَنْقُضُونَ = (قض) (ن) وہ توڑتے ہیں

يَنْقَلِبُ = (قلب) (6) وہ پھرتا ہے

يَنْقَلِبُوا = (قلب) (6) وہ پھریں

يَنْقَلِبُونَ = (قلب) (6) وہ پھرتے ہیں

يَنْكُثُ = (نكث) (ن) وہ توڑتا ہے

يَنْكُثُونَ = (نكث) (ن) وہ توڑتے ہیں

يَنْكُحُ = (نكح) (ض) وہ نکاح کرتا ہے

يَنْكُحْنَ = (نكح) (ض) وہ نکاح کرتی ہیں

يُنْكِرُ = (نكر) (1) وہ انکار کرتا ہے

يُنْكِرُونَ = (نكر) (1) وہ انکار کرتے ہیں

يَنْهِي = (نهى) (ف) وہ روکتا ہے

يَنْهَوْنَ = (نهى) (ف) وہ روکتے ہیں

يَنْهَوْنَ = (نهى) (ف) وہ بھاگتے ہیں

يُنْيَبُ = (نوب) (1) وہ رجوع کرتا ہے

يُؤَادُّونَ = (ودد) (3) وہ ایک دوسرے

سے دوستی کرتے ہیں

يُؤَارِي = (ورى) (3) وہ چھیپاتا ہے

يُؤَاطِنُوا = (طء) (3) وہ پورا درست

کرتے ہیں

يُؤْبِقُهُنَّ = (وبق) (1) وہ ہلاک کرتا ہے

ان کو

يُؤْتِقُ = (وثق) (1) وہ باندھتا ہے

یُوَقِّعُ = (وَقِع) (ر) ان سے وعدہ کیا جاتا ہے	یُوَقِّعُ = (وَقِع) (ر) ان سے وعدہ کیا جاتا ہے
یُوَقِّنُونَ = (یَقِن) (ن) (1) وہ یقین کرتے ہیں	یُوَعِّظُ = (وَعِظ) (ض) اُسے نصیحت کی جاتی ہے
یُوَلِّجُ = (وَلَج) (ج) (1) وہ داخل کرتا ہے	یُوَعِّظُونَ = (وَعِظ) (ظ) (1) اُن کو نصیحت کی جاتی ہے
یُوَلِّدُ = (وَلَد) (ض) وہ پیدا کیا گیا	یُوَعِّزُونَ = (وَعِز) (ی) (1) وہ جمع کرتے ہیں
یُوَلِّنُ = (وَلِيَ) (ی) (2) وہ ضرور پیٹھ پھیریں گے	یُؤَفِّقُ = (وَفِيَ) (ف) (2) اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا
یُوَلِّوْا = (وَلِيَ) (ی) (2) وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں، گرے	یُوَفِّقُونَ = (وَفِيَ) (ف) (2) اس کو پورا بدلہ دیا جاتا ہے
یُوَلِّوْنَ = (وَلِيَ) (ی) (2) وہ پیٹھ پھیریں گے	یُوَفِّضُونَ = (وَفَض) (ض) (1) وہ دور کر جاتے ہیں
یُؤَلِّهِمْ = (وَلِيَ) (ی) (2) وہ ان سے پیٹھ پھیرے گا	یُؤَفِّقُ = (وَفِيَ) (ف) (2) وہ موافقت پیدا کرے گا
یُؤَمِّنُ = (یَوْم) (م) دو دن	یُؤَفِّقُوا = (وَفِيَ) (ف) (1) وہ پورا کریں
یُہَاجِرُ = (هَجَرَ) (ج) (3) وہ ہجرت کرتا ہے	یُؤَفِّقُونَ = (وَفِيَ) (ف) (1) وہ وفار پورا کرتے ہیں
یُہَاجِرُوا = (هَجَرَ) (ر) (3) وہ ہجرت کریں	یُؤَفِّقِيهِمْ = (وَفِيَ) (ف) (2) وہ ضرور ان کو پورا پورا دے گا
یُہَبُّ = (هَبَّ) (ب) (ف) وہ دیتا ہے	یُؤَفِّقِي = (وَفِيَ) (ف) (2) وہ پورا بدلہ دے گا
یُہَبِّطُ = (هَبَّط) (ض) (ن) وہ گرتا ہے	یُؤَقِّعُ = (وَقِيَ) (ض) (ض) وہ بچایا جاتا ہے
یُہْتَدُوا = (هَدَى) (د) (7) وہ ہدایت پائیں	یُؤَقِّدُ = (وَقَد) (د) (1) وہ جلایا جاتا ہے
یُہْتَدُونَ = (هَدَى) (د) (7) وہ ہدایت پاتے ہیں	یُؤَقِّدُونَ = (وَقَد) (د) (1) وہ جلاتے ہیں
یُہْتَدِي = (هَدَى) (د) (7) وہ ہدایت پاتا ہے	
یُہَجِّعُونَ = (هَجَعَ) (ع) (ف) وہ کم سوتے ہیں	
یُہْدِ = (هَدَى) (ض) وہ ہدایت دیتا ہے	
یُہْدِي = (هَدَى) (ض) اُس کو ہدایت کی جائے گی	
یُہْتَدُونَ = (هَدَى) (ض) وہ ہدایت کرتے	

یُؤْتِي = (ءت ی) (1) اُسے دیا جاتا ہے
يَا تِلْبِ = (ءل و) (7) وہ قسم کھاتا ہے
يَا تَمْرُونِ = (ءم ر) (7) وہ مشورہ کرتے ہیں
يَا تُؤَا = (ءت ی) (ض) وہ آئیں
يُؤْتُوا = (ءت ی) (1) وہ دیں
يَا تُؤَا = (ءت ی) (ض) وہ آئیں
يَا تُؤْنَ = (ءت ی) (ض) وہ آتے ہیں
يُؤْتُونَ = (ءت ی) (1) اُن کو دیا جاتا ہے
يُؤْتُونَ = (ءت ی) (1) وہ دیتے ہیں
يَا تُيْبَهَا = (ءت ی) (ض) وہ دونوں اس
(بے حیائی) کو آئیں رکریں
يَا تُيْنِ = (ءت ی) (ض) وہ (عورتیں)
آئیں روہ کریں
يَا تُيْنِ = (ءت ی) (ض) وہ ضرور آئے گا
يُؤْتِرُ = (ءث ر) (1) وہ ترجیح دیا جاتا ہے
نقل کیا جاتا ہے
يُؤْتِرُونَ = (ءث ر) (1) وہ ترجیح دیتے ہیں
يَا جُوجُ = (ی ج ج) یا جوج
يَا حُدُ = (ءح ذ) (ن) وہ لیتا ہے
يُؤْحُدُ = (ءح ذ) (ن) وہ لیا جاتا ہے
يَا حُدُوا = (ءح ذ) (ن) وہ لیں
يَا حُدُونَ = (ءح ذ) (ن) وہ لیتے ہیں وہ

ہیں
يَهْدِي = (ہ دی) (ض) وہ ہدایت دیتا ہے
يَهْدِي = (ہ دی) (7) وہ ہدایت پاتا ہے
يُهْرَعُونَ = (ہ ر ع) (7) وہ بھاگتے ہیں
يُهْزَمُ = (ہ ز م) (ض) وہ ہرا لیا جائے گا
يَهْلِكُ = (ہ ل ک) (ض) وہ ہلاک رہتا ہے
يُهْلِكُ = (ہ ل ک) (1) وہ ہلاک کرتا ہے
يُهْلِكُ = (ہ ل ک) (1) وہ ہلاک کیا جاتا ہے
يُهْلِكُونَ = (ہ ل ک) (1) وہ ہلاک کرتے ہیں
يُهِنُ = (ہ و ن) (1) وہ ذلیل کرتا ہے
يَهْبُجُ = (ہ ی ج) (ن) وہ خشک ہو جاتا ہے
يَهْمُونَ = (ہ ی م) (ض) وہ بھٹکتے ہیں
يُهَيِّي = (ہ ی ء) (2) وہ مہیا کرے گا
يُؤَا حِدُ = (ءح ذ) (3) وہ پکڑتا ہے
يَابُ = (ء ب ی) (ف) وہ انکار کرے
يَابِي = (ء ب ی) (ف) وہ انکار کرتا ہے
يَابُ = (ءت ی) (ض) وہ آتا ہے
يَابِي = (ءت ی) (ض) وہ آتا ہے
يُؤْتُ = (ءت ی) (1) اُسے دیا جاتا ہے
يُؤْتُ = (ءت ی) (1) وہ دیتا ہے
يُؤْتِي = (ءت ی) (1) وہ دیتا ہے

پکڑتے ہیں	یُؤَخِّرُ = (ءخ ر) (2) اسے ڈھیل دی جائے گی
کھاتی ہیں	یُؤَخِّرُ = (ءخ ر) (2) وہ ڈھیل دیتا ہے
یَا كَلُوا = (ءک ل) (ن) وہ کھائیں	يُؤَدِّ = (ءد ی) (2) وہ ادا کرے
یَا كَلُونْ = (ءک ل) (ن) وہ کھاتے ہیں	يَا اذَنْ = (ءذن) (س) وہ اجازت زخیر دیتا ہے
يُؤَلِّفْ = (ءل ف) (2) وہ ملاتا ہے	يُؤَذِّنْ = (ءذن) (س) اسے اجازت دی جاتی ہے
یَا لَمُونَ = (ءل م) (س) وہ تکلیف اٹھاتے ہیں	يُؤَذِّنْ = (ءذ ی) (1) وہ تکلیف دیتے ہیں
یُؤَلُّونْ = (ءل و) (1) (ءل ی)	يُؤَذِّيْ = (ءذ ی) (1) وہ تکلیف دیتا ہے
وہ قسم کھاتے ہیں۔ وہ ایلاء کرتے ہیں	يُؤَذِّينْ = (ءذ ی) (1) اُن (عورتوں) کو تکلیف دی جائے
یَا لُونَ = (ال و) = (ال ی) (ن)	يَسْتَسْنِ = (ءس س) وہ (عورتیں) مایوس ہو گئیں
وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ کمی کرتے ہیں	يُؤَفِّكْ = (ءف ک) (ض س) اسے پھیرا جاتا ہے
یَا مُرُّ = (ءم ر) (ن) وہ حکم دیتا ہے	يَا فِكُونْ = (ءف ک) (ض س) وہ پھرتے رہت لگاتے ہیں
یَا مُرُونَ = (ءم ر) (ن) وہ حکم دیتے ہیں	يُؤَفِّكُونْ = (ءف ک) (ض س) وہ پھیرے جاتے ہیں
يُؤَمَّرُونَ = (ءم ر) (ن) اُن کو حکم دیا جاتا ہے	يَا كَلْ = (ءک ل) (ن) وہ کھاتا ہے
یَا مَنُّ = (ءم ن) (س) وہ بے خوف ہوتا ہے	يَا كَلِنْ = (ءک ل) (ن) وہ دونوں کھاتے گے
يُؤَمِّنْ = (ءم ن) (1) وہ ایمان لاتا ہے	
يُؤَمِّنَنَّ = (ءم ن) (1) وہ عورتیں ایمان لاتی ہیں	
يُؤَمِّنَنَّ = (ءم ن) (1) وہ ضرور ایمان لاتا ہے	
يُؤَمِّنَنَّ = (ءم ن) (1) وہ ضرور ایمان لائیں گے	

یٰٓأَمِنُوا = (ءم ن) (س) وہ اعتبار کرتے ہیں	یٰٓأَمِنُوا = (ءم ن) (س) وہ اعتبار کرتے ہیں
یٰٓأَمِنُوا = (ءم ن) (س) وہ ایمان لائیں	یٰٓأَمِنُوا = (ءم ن) (س) وہ ایمان لائیں
یٰٓأَمِنُكُمْ = (ءم ن) (س) وہ تمہارا اعتبار کرتے ہیں	یٰٓأَمِنُكُمْ = (ءم ن) (س) وہ تمہارا اعتبار کرتے ہیں
یٰٓأَمِنُونَ = (ءم ن) (س) وہ ایمان لاتے ہیں	یٰٓأَمِنُونَ = (ءم ن) (س) وہ ایمان لاتے ہیں
یٰٓأَن = (ءن ی) (ض) وقت آیا	یٰٓأَن = (ءن ی) (ض) وقت آیا
یٰٓأُوذُہ = (ءو ذ) (ن) وہ تھکاتا ہے اُسے	یٰٓأُوذُہ = (ءو ذ) (ن) وہ تھکاتا ہے اُسے

ہے۔

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ



LIBRARY

Lahore
Islamic
University

Book No.
001181

91 Bahau Block, Garden Town, Lahore

آسان قرآنی عربی

تالیف: پروفیسر مولانا محمد رفیق حفظہ اللہ

اس کتاب کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

- 1- یہ بغیر استاد کے قرآن مجید کا ترجمہ سکھانے والی جدید کتاب ہے۔
- 2- اس میں صرف قرآنی الفاظ اور آیات سے عربی زبان کی بنیادی صرف و نحو سکھائی گئی ہے۔
- 3- اس کا ہر سبق قرآنی عبارات، ان کے اردو ترجمے، عربی قواعد اور مشق پر مشتمل ہے۔
- 4- صرف چالیس اسباق میں بنیادی عربی صرف و نحو کے قواعد سمجھا دیے گئے ہیں۔
- 5- عربی کی صرفی و نحوی اصطلاحات کے انگلش مترادفات بھی لکھے گئے ہیں۔ اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو کر فروخت ہو چکے ہیں۔

اعلیٰ طباعت 68 گرام کاغذ، 4 کلر ٹائٹل، معیاری اور مضبوط جلد

قیمت: 200 روپے

صفحات: 288

ناشر

مکتبہ قرآنیۃ لاہور

الفوز الكبير

تصنيف: شاه ولي اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ: پروفیسر مولانا محمد رفیق حفظہ اللہ

علوم القرآن پر شاہ ولی اللہ دہلوی کی لکھی ہوئی یہ کتاب مستند اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں قرآن مجید کے جملہ مضامین کو علوم پنجگانہ میں تقسیم کر کے ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ کتاب جو اصل میں فارسی زبان میں لکھی گئی اور پھر اس کا عربی ترجمہ بھی خود شاہ صاحب نے کیا، بہت مختصر مگر جامع ہے۔ اس کے دو تین اردو تراجم پہلے سے موجود تھے لیکن ان کی زبان خاصی مشکل تھی۔ اب پروفیسر مولانا محمد رفیق حفظہ اللہ نے اسے نہایت آسان اردو کے قالب میں ڈھالا ہے۔ اس کے دو ایڈیشن چھپ کر فروخت ہو چکے ہیں اور اب اس کا تیسرا ایڈیشن پیش کیا جا رہا ہے۔

یہ جامعات اور دینی مدارس کے طلبہ کے لیے نہایت مفید کتاب ہے۔





قیمت: 120 روپے

صفحات: 190

ناشر

مکتبہ قرآنیۃ لاہور

ادارے کی دیگر اہم کتب



مکتبہ قرآنیہ لاہور

بوسدیف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

0321-7724032 , 0333-4399812